

خطب الرشید

جلد ۲

فہرست الفہرست فی رشید لکھا جس کا برخواہ اللہ تعالیٰ

- ۱۔ پیاری فتنے
- ۲۔ شادی بیوں
- ۳۔ مولا نعمت
- ۴۔ عجت کا اثر
- ۵۔ گلیون مسلمان
- ۶۔ عیدی پیاری فتنے
- ۷۔ صفات القرآن
- ۸۔ ثانت اعمال
- ۹۔ علیلین پیارے مسلمان



کتاب بہرہ ناظم آباد ۲ کراچی ۵۶۰۰

خطاب فضل

جلد ششم

مواعظ

فقیہ العصمه مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی راشنڈا خاں صاحب حنفی اعلیٰ

ناشر

کتاب کھر

ناظم آباد لا کراچی

وعظ: ۷
 ناشر: ۷
 بحقائق: ۷
 بوقت: ۷
 بعد فرار عصر
 تبریز طبع مجلد: ۷ شعبان ۱۳۲۵ هج
 مطبع: ۷
 ناشر: ۷
 حسان پرنگ پرس فون: ۰۲۱-۶۶۳۰۱۹
 کتابخانہ علمی آباد بہرہ کراچی ۷۵۶۰۰
 فون: ۰۲۱-۶۶۰۲۳۶۱
 فلیس: ۰۲۱-۶۶۲۸۱۳

ملکیتِ ایک نئے

- پورے پاکستان میں "ضربِ مجنون" کے تمام افواہ میں دستیاب۔
- دارالاشرفت اردو بازار کراچی۔
- ادارہ اسلامیات، اسلامی، لاہور۔
- ادارہ المعارف، دارالعلوم، کراچی۔
- مظہری کتب خانہ، گلشنِ اقبال، کراچی۔
- سین اسلامک پبلیشورز، میا قات آباد ۱۸۸۱/۱، کراچی۔
- اقبال بک ذپو، صدر، کراچی۔

اجمالی فہرست

خطاب مکالمہ

جلد ششم

- ۱ سیاسی فتنے
- ۲ شادی مبارک
- ۳ شرعی پروگرام
- ۴ صراطِ مستقیم
- ۵ صفات القرآن
- ۶ صحبت کا اثر
- ۷ شامت اعمال
- ۸ طریقِ اصلاح
- ۹ عیسائیت پسند مسلمان
- ۱۰ عید کی سچی خوشی

عرض ناشر

نقیہ اعصر مفتی اعظم حضرت مولانا مشتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا جس شخص نے حضرت والا کے مواعظ پڑھے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ لوگ جو اب تک نافرمانی اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، حضرت والا کے مواعظ پڑھ کر اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے اور ان کی زندگیاں پر سکون ہو گئیں۔ ان کے گھر دل سے گناہوں کے آلات نکل گئے اور وہ گھر چین و سکون کا گھوارہ بن گئے۔ اب تک حضرت والا کے یہ مواعظ علیحدہ علیحدہ کتابوں کی شکل میں شائع ہو رہے تھے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ان مواعظ کو یک جا کتابی شکل میں منظم کر دیا جائے تاکہ ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ چنانچہ ”خطبات الرشید“ کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ اس کی چھٹی جلد ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بقیہ جلدیں بھی رفت رفت جلد وجود میں آجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے فیض کو قیامت تک جاری رکھے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين

خادم کتاب گھر ناظم آباد کراچی

فہرست مضمایں

عنوان	صفحہ
سیاسی فتنے	۵
سیاسی اختلافات کا یقینی حل	۲۱
سیاسی بحران کے اسباب	۲۳
ظاہری سبب	۲۴
باطنی سبب	۲۵
سبب باطنی کا علاج	۲۶
سبب ظاہری کا علاج	۲۷
حکم کے بنایا جائے؟	۲۸
علماء ہی پر اعتراض کیوں؟	۲۹
حکم شریعت ہی میں بہتری ہے	۳۰
بہترین نمونہ	۳۰
حکم کے فیصلے کی خلاف ورزی پر شدید وعید	۳۱
خلاصہ کلام	۳۲
مسلمان اور کافر کی ترقی کے طریقے مختلف ہیں	۳۲
گناہ چھوڑے بغیر نجات کا گمان نفس و شیطان کا دھوکا	۳۳
بعادتوں سے بچنے کا نصیحت اکسیر	۳۴
اللہ تعالیٰ کا وعدہ	۳۵
عذاب الہی سے بچنے کی غلط تدابیر	۳۵

صفحہ	عنوان
۳۶ مختلف قسم کے ختم *
۳۷ ایک نافرمان کی وجہ سے نبی کی دعاء بھی قبول نہ ہوئی *
۳۸ بدعت کو ثابت کرنے کی غلط تاویلیں *
۳۸ پہلی تاویل *
۳۸ جواب *
۳۹ دوسری تاویل *
۳۹ جواب *
۴۲	شادی مبارک
۴۹ شکر نعمت *
۵۰ محسن کی غرض *
۵۰ احسان کا تقاضا *
۵۱ نافرمانی کا انجام *
۵۲ مجبور کرنے کے معنی *
۵۵ خطبہ کی آیات *
۵۶ ایک عجین غلطی *
۵۸ بے حیائی *
۶۱ مصلح کا کام *
۶۲ خطبہ کی مصلحت *
۶۲ شادی مبارک کہنے کی رسم *
۶۳ "شادی مبارک" کہنے کا مطلب *
۶۳ دعاء کی حقیقت *

خطبات الشیدر

۷

صفحہ	عنوان
۶۳	* دل سے طلب کی علامت.....
۶۵	* مقصد میں کامیابی کی شرط اولین.....
۶۶	* نعمت کی بجائے زحمت.....
۶۷	* آج کا مسلمان.....
۶۸	* احادیث کی تشریع.....
۷۰	* کچھ اپنے واقعات.....
۷۲	* سبق آموز واقع.....
۷۴	* اصول کی پابندی.....
۷۹	شرعی پرداہ
۸۲	* رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو بیعت کرنے کا طریقہ.....
۸۳	* شرک سے بڑا گناہ.....
۸۵	* رزق کا مالک کون؟.....
۸۶	* اولاد کے قتل سے بڑا جرم.....
۸۷	* اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانا.....
۸۸	* دور گئی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا.....
۹۰	* معیاری ایمان.....
۹۲	* آج بھی اسلام پر عمل کرنا آسان ہے.....
۹۳	* پرداہ کو بے کار سمجھنے کا وبا.....
۹۶	* امراض باطنی سے بچنے کا نصیحت.....
۱۰۰	* دین ہر رشتے پر مقدم ہے.....
۱۰۱	* خطرے سے غافل رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے.....

صفحہ	عنوان
۱۰۳ قرآن کے ساتھ آج کے مسلمان کا برداشت .. *
۱۰۴ قرآن میں پردہ کے احکام .. *
۱۰۹ قرآنی احکام سے کسی غفلت .. *
۱۱۲ تمام پریشانیوں کا علاج .. *
۱۱۳ درس عبرت .. *
۱۱۵ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے .. *
۱۱۷ ایک جہالت کی اصلاح .. *
۱۱۷ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں پردہ کی پابندی؟ .. *
۱۱۹ قرآن کے باغیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ .. *
۱۲۰ بے پردہ عورتوں کے ہزاروں اللہ .. *
۱۲۱ آج کے مسلمان میں ایمان کتنا ہے؟ .. *
۱۲۱ مسلمان کو قرآن سے نصیحت کیوں نہیں ہوتی؟ .. *
۱۲۲ دغا باز مسلمان .. *
۱۲۳ مخلوق کی رضا مندی جہنم سے نہیں بچاسکت .. *
۱۲۶ دنیا میں جنت کے مزے کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ .. *
۱۲۶ آج کے مسلمان کا دل ڈاکو سے بھی خخت ہے .. *
۱۲۷ بے پردگی دین کی کھلی بغاوت ہے .. *
۱۲۸ بے دین معاشرہ کا مقابلہ کرنے والے .. *
۱۳۲ دینی مسائل سے لوگوں کی غفلت .. *
۱۳۳ بدنظری کی حرمت پر اشکال کا جواب .. *
۱۳۳ حرمت نظر کی پانچ وجہ .. *
۱۳۴ پہلی وجہ .. *

صفحہ	عنوان
۱۳۱	دوسری وجہ *
۱۳۲	تیسرا وجہ *
۱۳۳	چوتھی وجہ *
۱۳۴	پانچویں وجہ *
۱۳۵	پرده کی مخالفت کا اصل راز *
۱۳۶	چند اشکال اور ان کے جواب *
۱۳۷	بچپن میں ساتھ رکھنے سے پرده معاف نہیں ہوتا *
۱۳۸	آج کے مسلمان کی مکاری *
۱۳۹	بوڑھوں سے پرده کی زیادہ ضرورت *
۱۴۰	نامحرم کی طرف دلی رغبت بھی حرام ہے *
۱۴۱	بزرگوں سے زیادہ پرده کی ضرورت *
۱۴۲	مدت تک بے پرده رہنے سے پرده معاف نہیں ہوتا *
۱۴۳	اچاک نظر پڑ جانے سے پرده معاف نہیں ہوتا *
۱۴۴	شرعی پرده کے لئے الگ مکان ضروری نہیں *
۱۴۵	شرعی پرده میں شرعی آسانیاں *
۱۴۶	پرده عورت پر فرض ہے نہ کہ مرد پر *
۱۴۷	گھر میں شرعی پرده کروانے کے طریقے *
۱۴۸	صراط مستقیم
۱۵۱	سورۃ فاتحہ خلاصہ قرآن *
۱۵۲	نمازی کی عجیب شان *
۱۵۳	الفاظ مترادفہ سے جواب میں حکمت *

صفحہ	عنوان
۱۵۶	تعلق مع اللہ اور محبت بڑھانے کا نسخہ *
۱۵۸	ایک باہم شخص کا قصہ *
۱۶۰	اہل محبت کے لئے دین بہت آسان ہے *
۱۶۱	عبادت کا معتبر طریقہ *
۱۶۲	مضامین قرآن کی ذوقیں *
۱۶۳	اہل اجتہاد *
۱۶۴	اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب *
۱۶۵	صراط مستقیم *
۱۶۶	گمراہی کا راستہ *
۱۶۷	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معیارِ حق ہونے کی عقلی دلیل *
۱۶۸	بات سمجھنے میں چہرہ کے آثار کو دخل *
۱۶۹	احادیث نقل کرنے کا ایک عجیب انداز *
۱۷۰	بدعات کے مفاسد *
۱۷۲	حکومت الہیہ کی متوازی حکمت *
۱۷۲	بدعت دخول جہنم کا باعث ہے *
۱۷۳	نجات کا راست صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے *
۱۷۴	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا راست چھوڑنے والوں کا حال *
۱۷۵	صالح اور فاسق کی مثال *
۱۷۶	صراط مستقیم کی تفسیر خود قرآن مجید سے *
۱۷۸	بدعت سے بڑھ کر شرک بھی *
۱۷۸	ایصال ثواب کا صحیح طریقہ *
۱۷۹	بدعات کے ماحول میں وجوب وصیت *

صفحہ	عنوان
۱۸۰	اہل میت کے روئے سے میت کو عذاب کیوں؟ *
۱۸۱	ایک نیک خاتون *
۱۸۲	صفات القرآن
۱۸۵	قرآن کی چار صفات..... *
۱۸۶	① نصیحت *
۱۸۷	رب کے معنی *
۱۸۸	② شفاء *
۱۸۹	③ ہدایت *
۱۹۰	۴ رحمت *
۱۹۱	قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے *
۱۹۲	دعوت قرآن *
۱۹۳	تقویٰ *
۱۹۴	کسی سے ڈرنے کی وجہ *
۱۹۵	① کسی قسم کی ایذا اپنے کا خوف *
۱۹۶	② سزا کا خوف *
۱۹۷	③ محظوظ کی ناراضی کا خوف *
۲۰۱	نظم عبادت کی وفتیں *
۲۰۲	① ظاہری *
۲۰۳	② قلبی *
۲۰۴	قرآن مجید ہدایت و رحمت کیسے؟ *
۲۰۵	نفس و شیطان کے حلے *

صفحہ	عنوان
۲۰۲	پہلا حملہ
۲۰۳	دوسرا حملہ
۲۰۴	تیسرا حملہ
۲۰۵	بدنی کے تین فریب
۲۰۶	پہلے دو فریبوں کا جواب
۲۰۷	حقیقت سمجھنے کے لئے تین مثالیں
۲۰۸	پہلی مثال
۲۰۹	دوسری مثال
۲۱۰	تیسرا مثال
۲۱۱	تیرے فریب کا جواب
۲۱۲	چوتھا حملہ
۲۱۳	صحبت کا اثر
۲۱۴	مجلس کا اثر
۲۱۵	دارالفداء کے ایک طالب علم کا قصہ
۲۱۶	سودخوری بہت بڑی لعنت
۲۱۷	عبادت کے معنی
۲۱۸	معبود صرف اللہ ہے
۲۱۹	رحمن کے ساتھ شیطان کو خوش کرنے والے
۲۲۰	سودخوروں کو اللہ کی دھمکی
۲۲۱	اللہ کی خاطر دنیا قربان کر دی

عنوان	صفحہ
شامتِ اعمال	
۲۲۵ اعمالکم عمالکم	*
۲۲۶ پانچ کام	*
۲۲۷ ① اپنی بد اعمالیوں کا اقرار کریں	*
۲۲۸ ② استغفار کریں	*
۲۲۹ ③ ہت بلند کریں	*
۲۳۰ ④ دعاء	*
۲۳۱ ⑤ تبروں میں وقت ضائع نہ کریں	*
۲۳۲ دنیا غیر اختیاری آخرت اختیاری	*
طریقِ اصلاح	
۲۳۳ دو اصلاح طلب موضوع	*
۲۳۴ ① مقامات کی طرف توجہ	*
۲۳۵ ② ازالہ رذائل و تحسیل فضائل	*
۲۳۶ مقامات کی طرف توجہ مضر ہے	*
۲۳۷ انسیاک پور	*
۲۳۸ مقامات کے چکروں میں پاگل ہونے والے	*
۲۳۹ پاگل نمبر ایک	*
۲۴۰ پاگل نمبر دو	*
۲۴۱ پاگل نمبر تین	*
۲۴۲ طالبان مقامات کے قصے	*

صفحہ	عنوان
۲۵۲	(۳) دن میں تارے نظر آنے لگے.....*
۲۵۳	(۴) درندوں کی انتریاں نظر آنے لگیں.....*
۲۵۴	(۵) ولایت کے ابواب.....*
۲۵۵	(۶) مقام احادیث کا مرائب.....*
۲۵۶	(۷) مریدوں کو غوث اور صہدی بنا دیا.....*
۲۵۷	(۸) مقام مریم.....*
۲۵۸	(۹) مقامات کا فور ہو گئے.....*
۲۵۹	(۱۰) مدھی ولایت.....*
۲۶۰	(۱۱) مقام حماریت.....*
۲۶۱	(۱۲) ازالہ رذائل و تحصیل فضائل.....*
۲۶۲	امراض کے بارے میں کتب کی فوایت.....*
۲۶۵	عیسائیت پسند مسلمان
۲۶۸	آج کل کے مرید.....*
۲۶۹	بدوی کا قصہ.....*
۲۷۰	قری سال کی اہمیت.....*
۲۷۱	پہلی حکمت.....*
۲۷۲	دوسری حکمت.....*
۲۷۳	تیسرا حکمت.....*
۲۷۴	غماز.....*
۲۷۵	زکوٰۃ.....*
۲۷۶	عمر.....*

صفحہ	عنوان
۲۸۰	سن بلوغ *
۲۸۰	جیض، نفاس اور استحاضہ *
۲۸۰	نکاح *
۲۸۱	طلاق *
۲۸۱	عدت *
۲۸۱	مفقود *
۲۸۱	چوخی حکمت *
۲۸۲	انگریز کا پنچا *
۲۸۲	انگریزی بولنے کی حیثیت *
۲۸۳	انگریزی سے نفرت کا سبب *
۲۸۴	ضرورت کے تحت انگریزی لکھنا *
۲۸۴	ششی تقویم کا بے ڈھنگا پن *
۲۸۸	مسلمان کے قلب پر انگریز کا رعب *
۲۹۱	یسوسی تقویم کی ابتداء *
۲۹۳	دارالعلوم دیوبند کا مقصد تائسیں *
۲۹۵	میئون کی تفصیل *
۲۹۶	دنوں کی تفصیل *
۲۹۷	ہفتہ کی ابتداء و انتہاء *
۲۹۸	قمری نظام *
۳۰۲	انگریزی سال شروع ہونے پر خوشی منانا *
۳۰۳	آج کے مسلمان کا ذوق *
۳۰۶	امریکا کی حالت زار *

عنوان	صفحہ
نماز کھانے کا نقصان.....*	۳۰۷
گھر کی شہادت.....*	۳۰۸
قرآن سے بے رثی.....*	۳۱۰
ہر پریشانی کا علاج.....*	۳۱۰
درد دل.....*	۳۱۳
دوستی کا معیار.....*	۳۱۵
آخری بات.....*	۳۱۶
عید کی بچی خوشی	۳۱۹
عید کی بچی خوشی.....*	۳۲۲
شعر کا مطلب.....*	۳۲۲
دنیا کی دوستی کی حقیقت.....*	۳۲۳
دعاۓ لقاء محبوب.....*	۳۲۹
دعاۓ کا پہلا جملہ.....*	۳۲۹
ہندو بچے کا بادشاہ پر اختیار.....*	۳۳۰
سود کی لعنت.....*	۳۳۲
دل بن جانے کی ایک علامت.....*	۳۳۲
پلطف زندگی کی دعا.....*	۳۳۳
موت محبوب چیز ہے.....*	۳۳۴
جال کئی کے وقت.....*	۳۳۵
دعاۓ دیدار محبوب.....*	۳۳۷
تحمل فراق کے نفع.....*	۳۳۰

صفحہ	عنوان
۳۲۰	* پہلی نسخہ
۳۲۰	* "خدانخواست مرنہ جائے"
۳۲۰	* دوستوں کے مختلف جوڑے
۳۲۲	* حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۳۲۳	* دوسرا نسخہ
۳۲۳	* تیسرا نسخہ
۳۲۵	* عید کی خوشی کس چیز کی ہے؟
۳۲۵	* عارف کا مطلب
۳۲۶	* ہمیشہ مالک کی رضا ہمیشہ نظر رہے
۳۲۶	* دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے
۳۲۸	* مقام صبر
۳۲۸	* صابر نام رکھنا
۳۵۰	* سچی خوشی کی علامت
۳۵۱	* بیرونی اقوام کی بکثرت فہمی کاراز
۳۵۲	* کراچی کے پر آشوب حالات میں سویوں کی تقسیم
۳۵۵	* شوق وطن
۳۵۶	* معیار ولایت
۳۵۷	* اولیاء اللہ کی خوشیاں
۳۵۸	* سوچنے کی عادت پیدا کرنے کا نسخہ
۳۵۸	* قوانین سعیخنے کی اہمیت
۳۵۸	* دیور سے پر دو فرض ہے
۳۵۹	* علم سے عمل کی توفیق مل سکتی ہے

صفحہ	عنوان
۳۶۰	* بہشتی زیور کی تعلیم.....
۳۶۰	* سرسری محاسبة
۳۶۰	* دلوں میں خوشی شمولیں.....
۳۶۳	* نزول ملائکہ کا وقت
۳۶۵	* قرآن سے یہ اعتمانی
۳۶۶	* قرآن مرضِ حب دنیا کے لئے شفاء ہے.....
۳۶۶	* آج کے مسلمان کو معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے
۳۶۷	* پرده کا حکم دیکھ کر چینیں نکل گئیں
۳۶۷	* قرآن کی دولت پر کون خوش ہوتے ہیں؟
۳۶۸	* خوشیاں منانے کے مختلف انداز
۳۶۸	* مسئلہ معاملتہ
۳۶۸	* میں سماں بناتا نہیں بتاتا ہوں
۳۷۰	* دوسرا حصہ
۳۷۲	* مضمون کے بار بار تحریر میں حکمت
۳۷۵	* ہر ماہ فتح قرآن ہونا چاہئے
۳۷۵	* خلاصہ

سیاری

— وَعْظ —

فِقِیہُ الْعَصَمِیٰ مُفْتَحُ الْعُظُمَیٰ اَفْدَلُ الْجَمِیْلَیٰ صَاحِبُ الْحَدِیْثِ الْعَالَمِیٰ

— نَاسِئِ —

کتاب کھنگ

نااظم آباد لاہوری کراچی

فیصلہ علیٰ مصطفیٰ نبی و امیر المؤمنین علیہ السلام

و عذ: ۱

نام: ۱
سیاسی فتنے

بمقام: ۱

جامع مسجد دارالاوقاء والارشاد ناظم آباد کراچی

تاریخ: ۱

برقت: ۱
بعد نماز عصر

ہاتھ خط پنج ملہ: ۱ ذی قعده ۱۴۲۳ھ

طبع: ۱
حسان پرنگپریس فون: ۰۲۱-۶۶۳۱۰۱۹

ناشر: ۱
کتابخانہ ناظم آباد ناظم آباد کراچی

فون: ۰۲۱-۶۶۰۲۳۶۱
فیکس: ۰۲۱-۶۶۲۲۸۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سیاسی اختلافات کا یقینی حل

وطن عزیز پاکستان اس وقت موت وزیست کی جس کیفیت سے دوچار ہے اس کو سوچنے سے کلیجا منہ کو آتا ہے، ہر ذی شعور انسان اس بارے میں فکر مند ہے اور ہونا چاہئے، مگر اہل دل علماء کے قلوب جس قدر درود مند اور بے چین ہیں وہ انہی کا حصہ ہے، دوسروں کے لئے ان کے جذبہ دروں کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے، ظاہر ہے قلب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی امت کا درد اتنا ہی زیادہ ہو گا۔ انہی تابغہ روزگار اور اہل دل شخصیات میں فقیر العصر، مفتی اعظم حضرت اقدس دامت برکاتہم کی شخصیت بھی ہے، جن کا دل امت کے حالات پر ہر وقت رنجیدہ رہتا ہے اور امت کی اصلاح اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی اہمیت اور ترغیب پر انتہائی درد سے بیان فرماتے رہتے ہیں، خصوصاً گذشتہ تقریباً دو ماہ سے جمع کے دن کا چھٹوار وار بیان ”موجودہ سیاسی اختلافات اور ان کا حل“ کے موضوع پر ہی چل رہا ہے ذیل میں ان بیانات کا خلاصہ درج کیا جا رہا ہے۔

۶۔ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں مری بات

محمد

استاذ دارالافتاء والارشاد

ناظم آباد کرچی

۲۸ صفر ۱۴۲۴ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وعظ

سیاسی فتنے

(امرم ۱۴۳۶ھ)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور انسنا ومن سياسات
اعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي
له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

الرحمن الرحيم

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَعَذِّبَكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ
تَحْتِ أَرْجُولَكُمْ أَوْ يَلِسَّكُمْ شَيْئًا وَيُنِيبَ عَصْمَكُمْ بَأْسٌ بَعْضُهُ^{مُّ}أَنْظَرَ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّنَتْ لَعْنَهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ (۶۵-۷) (ب)

ترجمہ: "آپ کہئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب
تمہارے اوپر سے بیچ دے۔ (جیسے پھر یا ہوا یا طوفانی بارش) یا تمہارے

پاؤں تلے سے (جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا) یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے آپس میں بھڑادے اور تمہارے ایک کو دسرے کی لڑائی کا مزاچھا دے، آپ دیکھنے تو سبی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔“

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ الْأَنْوَاسُ
لِذِي قَهْمَمَ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ ﴾(۱۱)﴾ (ب ۲۱ - ۴۱)

ترجمہ: ”خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلا میں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزا انہیں چھایس تاکہ وہ باز آ جائیں۔“

سیاسی بحران کے اسباب:

اس وقت جو سیاسی کشمکش جاری ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور پورا ملک اور قوم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا ایک سبب ظاہری ہے اور دوسرا باطنی۔

ظاہری سبب:

تمام سیاسی جماعتیں خواہ ان کا تعلق اقتدار سے ہو یا نہ ہو بلکہ ہر جماعت کا ہر ہر فرد اپنے اپنے مطالبات تسلیم کروانا اور اپنے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ حاصل نہیں ہو رہے، شیخ قتل و غارت تک نوبت پہنچ جانا لازمی ہے۔

باطنی سبب:

مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام پورے نہیں کر رہے اور نافرمانیاں نہیں چھوڑ رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا إِلَّا هُمْ يَرْجِعُونَ ﴾۱۱﴾ (ب ۲۱ - ۲۲)

ترجمہ: "خنکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلا میں بھیل رعنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزا انہیں چکھائیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔"

بعض اس لئے فرمایا کہ اگر سب بد اعمالیوں پر عقوباتیں مرتب ہوں تو سب ایک دم ہلاک ہو جائیں۔

اور فرمایا:

﴿وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

وَيَغْفُلُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾۲۰﴾ (ب ۲۰ - ۲۱)

ترجمہ: "اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے لئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور بہت سی نافرمانیوں کو تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔"

نافرمانیاں نہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے نقد عذاب کی دھمکی بھی دی ہے جس کی ایک صورت آپس کا لڑائی جھگڑا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَعْلَمَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ

نَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِسْكُمْ شِبَاعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْنَانِ بَعْضٍ أَنْظُرْ

كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْعَلُونَ ﴾۶۵﴾ (ب ۷ - ۸)

ترجمہ: "آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے (جیسے پھر یا ہوا یا طوفانی بارش) یا تمہارے پاؤں تلے سے (جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا) یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے

آپس میں بھڑادے اور تمہارے ایک کو دوسرا کی لڑائی کا مزاچھا دے، آپ دیکھنے تو سبی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔“

سبب باطنی کا علاج:

اس سبب باطنی سے پیدا ہونے والے مرض اختلاف اور قتل و غارت کا حل تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے توبہ کریں گذشتہ پرورو و کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے ترک منکرات کا عزم مصمم کریں۔ اور اس عزم پر استقامت اور اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے اہل علم اہل اللہ سے تعلق رکھیں۔ نجیبہ دنیا و آخرت میں چین و سکون کی لازموں وال دوست سے ملا مال ہوں۔

سبب ظاہری کا علاج:

سبب ظاہری یعنی اپنے اپنے مطالبات منوانے کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کا حل یہ ہے:

یہ دنیا کا ایک مسلسلہ قاعدہ ہے کہ جب دو افراد یا دو جماعتوں کا اختلاف آپس کی گفت و شنید اور مذاکرات سے حل ہوتا نظر نہ آئے تو تیرے کو ”حکم“ بناتے ہیں، جسے ”فیصل“ اور ”ٹالٹ“ بھی کہتے ہیں۔ پھر وہ سمجھدار اور غیر جانبدار شخص جو فیصلہ کرتا ہے جانہن اسے قبول کرتے ہیں، مثلاً سلامتی کوسل اور اقوام متحده کا ادارہ اسی مقصد کے لئے قائم کیا گیا ہے کہ وہ مختلف ممالک کے درمیان ہونے والے اختلافات کو طے کروائے۔

اگرچہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سلامتی کوسل اور اقوام متحده اسلام اور

مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہاں ان کا ذکر اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ عالمگیر سطح پر
ثالث بنانے کا طریقہ کار رائج ہے اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حکم بنانے کی تاکید:

اللہ تعالیٰ نے بھی آپس کے اختلافات ختم کرنے کے لئے حکم بنانے کا حکم فرمایا
ہے، چنانچہ میاں بیوی کے اختلافات کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ وَإِنْ خَفَثَتِ الْمِشَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُؤْفِقَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَمِيرًا ﴾ (۲۵) (ب ۵ - ۶)

ترجمہ: "اور اگر تمہیں ان میاں بیوی میں کشاکشی کا اندیشه ہو تو تم ایک
شخص جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے اور ایک شخص
جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو، اگر دونوں کو
اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق فرمادیں گے،
 بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑے خبر والے ہیں۔"

میاں بیوی کے اختلافات کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں،
اسی لئے شیطان اپنے جن چیزوں کو دنیا میں فساد برپا کرنے اور لوگوں کو گناہوں میں
بتلا کرنے کے لئے بھیجا ہے شام کو تخت پر بیٹھ کر ان سے پورے دن کی کارگزاری سنتا
ہے کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے قتل کروادیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کے
درمیان لڑائی کروادی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو فلاں گناہ میں بتلا کیا، شیطان کسی
سے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان
اختلاف پیدا کر کے طلاق دلوادی، اس پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی بغل
میں تخت پر بٹھا لیتا ہے کہ تو ہے میرا بینا شاباش بیٹھے شاباش! تو نے کام کیا۔ میاں بیوی
میں اختلاف اس قدر بڑی چیز ہے اور شیطان اس پر اس قدر خوش ہوتا ہے، ظاہر ہے

وہ ہر فریق کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں کس قدر کوشش کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”حکم“ بناؤ، اگر ان میں اخلاص ہوگا اور وہ صدق دل سے صلح کروانا چاہیں گے، تو شیطان کے علی الرغم اللہ تعالیٰ میاں یہوی کے درمیان اتفاق پیدا فرمادیں گے اور شیطان کی ایک نہیں چلے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو حکم الحاکمین ہیں ان کا وعدہ ہے۔

حکم کے بنایا جائے؟

رہایہ سوال کہ حکم کے بنایا جائے تو اس پارے میں بھی اس علیم و خیر ذات نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے:

﴿إِنَّمَا يَهْبَطُ الْأَذْرِيقَ إِذَا أَمَّنَّا أَطْبَعْنَا اللَّهُ وَأَطْبَعْنَا الرَّسُولَ وَأَفْلَى الْأَمْرُ مِنْكُمْ^۱
فَإِنْ لَتَرَعَمُمْ فِي سَقَرٍ وَفِرْدُوْدَةٍ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَأَنْتُمْ بِالْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (۵۹ - ۶۰)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو اہل علم ہیں ان کا بھی، پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔“

اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ علماء کی اطاعت کا ذکر خصوصاً اس لئے فرمایا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ ہر ایک کو حکم نہیں دیتے، وحی رسولوں پر نازل ہوتی تھی جو سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لئے علماء کا ذکر فرمایا کہ اگر ایسا موقع آجائے کہ براہ راست اللہ و رسول سے قوانین کی آگاہی کی خاطر رجوع نہ کیا جا سکے تو علماء سے فیصلہ کرواؤ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ و قوانین کو سمجھنے والے علماء کرام ہی ہیں اور یہ دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ

ہر فن کی بات اس فن کے ماہرین ہی سے پوچھی جاتی ہے۔

علماء ہی پر اعتراض کیوں؟

یہ عذر قابل قبول نہیں کہ آج کل کے علماء تو ایسے ہیں ویسے ہیں؟ اس لئے کہ سب تو ایسے ویسے نہیں ہیں، کچھ تو ضرور صحیح ہوں گے۔ دوسرا عذر نگ علماء کے باہمی اختلاف کا بتایا جا سکتا ہے، یہ اس لئے صحیح نہیں کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان کچھ فروعی اختلافات تو ہیں مگر اسلامی طرز حکومت کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔

دنیا کے دوسرے فنون اور شعبوں میں بھی بہت سے لوگ بے کار اور دھوکا دینے والے موجود ہیں مثلاً ڈاکٹری ہی کافن لے لیجئے کتنے ڈاکٹر ہیں جو بہت مشہور ہیں اور بہت اونچے ڈاکٹر شمار ہوتے ہیں مگر ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، چنانچہ ایک ہی انجکشن سے کام تمام کر دیتے ہیں، کتنے حکیم ایسے ہیں جو فنِ حکمت کے الف باء سے بھی واقف نہیں اور لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، چنانچہ ایک حکیم صاحب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو چہرہ رومال سے چھپا لیتے تھے، کسی نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ سارے میرے ہی مارے ہوئے ہیں اس لئے شرم آتی ہے۔

ہر شعبے اور ہر فن میں اس کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں۔ اس کے باوجود کوئی جسمانی مرض پیش آئے گا تو ڈاکٹر یا طبیب ہی سے پوچھیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج کل ڈاکٹر اور حکیم دھوکا دیتے ہیں، بے کار ہیں اس لئے علاج کروانے کے لئے کسی موبائل یا بھنگی کے پاس جائیں۔ اس لئے علماء کیسے ہی کیوں نہ ہوں، دین کا مسئلہ پیش آئے گا تو علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ علماء نہیں بتائیں گے تو بتائیے! اور کون بتائے گا؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں اختلاف ہو جائے تو اپنا معاملہ اللہ اور رسول کے پرد کر دو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ علماء کو فیصل بناؤ تاکہ وہ قرآن و

حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ پھر اسے صدق دل سے قبول کرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرو، ورنہ ایمان کے دعوے چھوڑ دو۔

حکم شریعت، ہی میں بہتری ہے:

آخر میں فرمایا کہ آپس کے نزاع کو دور کرنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا اس میں بظاہر اگر تمہیں اپنا نقصان ہی نظر آئے تو بھی اسے قبول کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت سے وہ اس میں بہتری پیدا فرمادیں گے اور اس کا انعام اچھا ہوگا۔

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرُّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوَا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۱۳)

(ب) (۲۱۶ - ۲)

ترجمہ: ”ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لئے بہتری ہو یا اس کے برعکس تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لئے شر اور نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی برائی کو تم سے بہتر جانتے ہیں۔“

بہترین نمونہ:

صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں مشرکین مکہ کے خلاف ایسا جوش پایا جاتا تھا کہ دنیا میں اس کی نظر نہیں مل سکتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلح کرنے کا حکم آگیا اور صلح میں جو شرائط طے پائیں وہ سر امر مسلمانوں کے خلاف تھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم قبول کیا اور بظاہر ہر ذلت قبول کر کے صلح کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اسلام کو غالبہ عطا فرمایا۔

حکم کے فیصلے کی خلاف ورزی پر شدید وعید:

ٹالٹ بنانے اور آپس میں اختلافات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ختم کروانے اور مسائل حل کروانے کا یہ حکم اس قدر موکد ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر قرآن مجید میں شدید وعید میں وارد ہیں۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

»فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُعَكِّرُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا إِمَّا فَصَنَّيْتَ
وَإِمَّا سِلَّمْتَ إِلَيْمَا (۶۵-۶۶) (ب۔ ۵)

ترجمہ: ”پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے درمیان جو جھگڑا واقع ہواں میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کروائیں (اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے) پھر آپ کے اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورے طور پر تسليم کر لیں۔“

دوسری جگہ فرمایا:

»وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمْ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا لَمْ يَنْدِنَا (۲۲-۲۳) (ب۔ ۲۲)

ترجمہ: ”اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان مؤمنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا۔“

خلاصہ کلام:

تمام سیاسی جماعتوں اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لئے ملک کے مقتدر علماء کرام اور معتبر مفتیان عظام کا اجتماع بلاعیں اور اپنا اپنا مدعای ان کے سامنے رکھیں یقیناً اس کا حل نکل آئے گا۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے اس حکم پر عمل کرو، میں تمہارے اندر اتفاق اور محبت پیدا کر دوں گا۔

پھر ساری سیاسی جماعتوں مل کر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر حکومت الہی قائم کرنے کے سلسلے میں علماء کرام سے تعاون کریں۔

بعض اوقات پریشانی تو ہوتی ہے مگر اس کا سبب اور اس کا حل معلوم نہیں ہوتا، پریشانی بڑھتی رہتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو جو مسائل اور پریشانیاں درپیش ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ ملک میں اسلامی حکومت نہیں۔ اسلامی حکومت ہو گی تو اونی سے اونی مسلمان کا یہ یقین ہے کہ جماعتوں بلکہ ہر جماعت کے ہر فرد کو اس کے جائز حقوق ملیں گے۔ اگر کسی کو اس میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔

مسلمان اور کافر کی ترقی کے طریقے مختلف ہیں:

ایک شخص درخت پر چڑھ گیا۔ اترنا جانتا نہیں تھا۔ شور چارہا ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے گاؤں کے چوہدری ”بوجھ بھکڑا“ کے پاس گئے۔ اس نے آگر پہلے تو سب کو ڈانت پلانی:

”یہ کیا مشکل کام ہے جس کے لئے مجھے بلایا۔ تم بڑے بے ڈوف ہو اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔“

پھر کہا کہ ایک رسالاً، رسائل کو اس شخص کی طرف پھینکا اور کہا اسے اپنی کمر سے مضبوط باندھ لیا۔ اس نے باندھ لیا، پھر لوگوں سے کہا کہ سب مل کر زور سے جھکتا

لگاؤ، انہوں نے جھٹکا لگایا تو اس شخص کی بڑی پسلی ایک ہو گئی اور مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو بوجو بھکر صاحب فرمانے لگے کہ اس کی سوت آئی ہوئی تھی مر گیا اور نہ میں نے تو ہزاروں لوگوں کو اسی طریقے سے کنویں سے نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔

اب سنئے! مسلمان بلندی پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معزز بنایا ہے اور کافر پستی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بنایا ہے، ذلیل لوگوں کی ترقی اور مسائل کے حل کے لئے کچھ اور تدابیر ہوتی ہیں اور عزت والوں کی ترقی اور مسائل کے حل کی تدابیر کچھ اور۔ اگر معزز لوگ ذلیل لوگوں والی تدابیر اختیار کریں گے۔ اہل مغرب اور کفار کی تدابیر اختیار کریں گے تو وہی بوجو بھکر و اقصہ ہو گا، تباہ ہوں گے۔ عزت والوں کے مسائل اس طریقہ سے حل ہوں گے جو اپنے تفصیل سے بیان ہو چکا درنہ ذلت اور تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا۔

گناہ چھوڑے بغیر نجات کا گمان نفس و شیطان کا دھوکا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کل امتنی معافی الا السجاہرین“ (رواہ البخاری)

ترجمہ: ”میری پوری امت لاکن عنو ہے مگر اللہ تعالیٰ کی علامیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔“

اکثر عوام کو ان کھلی بغاوتوں کا علم نہیں، اس لئے کچھ بغاوتیں بیان کی جاتی ہیں:

❶ ڈاڑھی موٹڈنایا ایک مشت سے کم کرنا۔ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں؟

❷ عورتوں کا شرعی پرداہ نہ کرنا۔

وہ قرآنی رشید دار جن سے پرداہ فرض ہے:

❸ پچازاد ❹ پھوپھی زاد ❺ مامون زاد ❻ خال زاد ❽ دیور ❻ جیونھ ❷

خطبائُ الرشید

- ۱۳ شوہر کا بھانجا
- ۱۲ شوہر کا بھتija
- ۱۱ خالو
- ۱۰ پھوپھا
- ۹ بہنوی
- ۸ نندوی
- ۱۷ شوہر کا ماموں
- ۱۶ شوہر کا پھوپھا
- ۱۵ شوہر کا خالو
- ۱۴ مردوں کا تختنے ڈھانکنا۔
- ۱۶ بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر بنانا، بنوانا، دیکھنا، رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا۔
- ۱۵ لی وی دیکھنا۔
- ۱۴ گانا باجا سنتنا۔
- ۱۳ حرام کھانا جیسے بینک اور انشورز کی کمائی۔
- ۱۲ غیبت کرنا۔

ان بغاوتوں کی تفصیل اور ان پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعیدوں کا بیان وعظ "اللہ کے باغی مسلمان" میں ہے۔

بغاوتوں سے بچنے کا نسخہ اکسیر:

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں اور نافرمانیاں چھوڑنے کی ہمت نہیں پاتے وہ ان ہدایات پر عمل کریں:

- ۱ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مجرم ہونے کا اقرار کریں۔
 - ۲ استغفار کریں، صرف زبانی استغفار کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کی ندامت کے ساتھ گناہوں سے توبہ کریں۔
 - ۳ دعاء میں گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔
 - ۴ اہل دل علماء سے گناہ چھوڑنے کی تدبیریں معلوم کیا کریں۔
- یہ نسخہ بہت مختصر بھی ہے، بہت آسان بھی، بہت موثر بھی، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس نسخہ اکسیر کیمیا تاثیر کے صرف چند روز استعمال سے ہی گناہ چھوٹنے لگیں گے اور پر سکون زندگی حاصل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ:

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ إِنَّ اللَّهَ بِلَغَ أَمْرِهِ قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (۲۸ - ۳۰) (ب)

ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ سے ڈر کرنا فرمانیاں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہماں کے لئے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اندازہ اپنے علم میں مقرر کر رکھا ہے۔“

آئیے! آج ہی اور ابھی ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے توبہ کر کے دلوں کی نفرتوں کو محبتوں سے بدلنے کے لئے مل بیٹھ کر علماء کرام کی نگرانی میں اپنے معاملات طے کیجئے اور آج ہی سے اپنے پیارے وطن میں اپنے خالق و مالک اور اس کے جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ قوانین کے نفاذ کے لئے علماء کرام کے ساتھ تعاون کر کے دنیا و آخرت کی حقیقتی کا میابیوں اور خوشیوں کا مشاہدہ کیجئے۔

اس وقت میں نے مثال کے طور صرف چند آیات پڑھی ہیں، ورنہ اس مضمون کی آیات، احادیث اور ان کے مطابق عبرت کے قصے بے شمار ہیں، جن کی کچھ تفصیل وعظ ”ہر پریشانی کا علاج“ میں ہے۔

عذاب الہی سے بچنے کی غلط تدبیر:

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی دینی ترقی کی تدبیر کچھ اور ہیں اور کافروں

کی دنیوی ترقی کی تدابیر کچھ اور اہل مغرب کی تقلید کر کے مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اب کفار کی تقلید کے علاوہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے اور جیں و سکون حاصل کرنے کے لئے جو دوسری غلط تدابیر اختیار کرتے ہیں ان میں سے مختلف قسم کے ختم کرنے کے کوئی بیان مقصود ہے۔

مختلف قسم کے ختم:

اجماعی قرآن خوانی، یہیں کا ختم، ختم خواجہاں، آیت کریمہ کا ختم، استغفار کا ختم وغیرہ کرو اکر آج کل کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے فتح جائیں گے۔ اس لئے جو مصیبت بھی آتی ہے اس قسم کے ختم اور خوانیاں شروع کر دیتے ہیں، یہ نظریہ کافی وجہ سے غلط اور قابل اصلاح ہے:

❶ اللہ تعالیٰ بار بار اعلانوں پر اعلان فرماتے ہیں کہ جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے دنیا و آخرت میں میرے عذاب سے نہیں فتح سکتے۔ اور آج کل کے مسلمان نے طے کر رکھا ہے کہ نافرمانی بلکہ کھلی بغاوت ہرگز نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے یہیں کا ختم کر لیا ہے، ختم خواجہاں کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی کیا مجال کہ وہ انہیں عذاب دے۔ گویا کہ معاذ اللہ! انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیا ہے، اس کے لکھنے نکادیئے ہیں، اب وہ انہیں عذاب نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور بار بار کے اعلانات کا مدقق اڑا رہے ہیں۔

❷ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو اور آئندہ کے لئے گناہ سے بچنے کا عزم ہو، اصلاح کی فکر اور کوشش ہو۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا ہے:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَنْصَلُوا﴾ (ب۔ ۲ - ۱۶۰)

ترجمہ: ”عذاب سے صرف وہ فتح سکتے ہیں جو تو بہ کریں اور آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لیں۔“

توبہ ہے اسی وہی جس کے بعد اصلاح بھی ہو، ورنہ وہ توبہ قبول نہیں۔ آج کل کے مسلمان جو گھروں میں سوا سوالاکہ بار استغفار کا ختم کر رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ نافرمانیاں تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، کویا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ! تو معاف فرمادے ہم اور گناہ کریں گے۔

بتائیے! کیا یہ استغفار ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے رہے ہیں۔

ایک نافرمان کی وجہ سے نبی کی دعاء بھی قبول نہ ہوئی:

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں خط پڑا بارش رک گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقاء کی نماز پڑھائی مگر بارش نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص ایسا گنہگار ہے کہ جب تک وہ باہر نہ نکل جائے بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو گنہگار ہے وہ نکل جائے اس کی وجہ سے سب لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔

دیکھئے! ایک کی نافرمانی کی وجہ سے سب لوگ عذاب میں مبتلا ہیں اور اللہ کے نبی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور وہ بھی کسی ظاہری گناہ میں مبتلا نہیں تھا ورنہ ویسے ہی پکڑ کر نکال دیتے، شکل و صورت مسلمان جیسی تھی کوئی پوشیدہ گناہ ہو گا۔

لوگ دیکھنے لگے کہ کون اٹھا ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا اور بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ”یا اللہ! اٹھا تو کوئی بھی نہیں بارش کیسے شروع ہو گئی؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اس نے توبہ کر لی ہے۔“

نہ اس نے توبہ کی نماز پڑھی نہ گزار دیا اور نہ لوگوں کو پتا چل جاتا، صرف دل میں ندامت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا اور سب مصیبت سے نجع گئے۔

یہ ہے استغفار کی حقیقت، اگر دل میں ندامت نہ ہو، آئندہ گناہوں سے نجتنے کا عزم نہ ہو، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش نہ ہو اور زبان سے استغفر اللہ! استغفر اللہ! کی

رث لگائے رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

۱۰ ان تدابیر کو لوگ شریعت سے ثابت سمجھتے ہیں حالانکہ اجتماعی خوانی وغیرہ کا شریعت میں قطعاً کوئی ثبوت نہیں، شریعت میں تو وہی نہ خدا بتایا گیا ہے کہ نافرمانیوں سے توبہ کریں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت قائم کریں۔

بدعۃ کو ثابت کرنے کی غلط تاویلیں:

بعض لوگ اس بدعت کو جائز ثابت کرنے کے لئے مختلف قسم کی تاویلات کرتے ہیں مثلاً:

پہلی تاویل:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان طریقوں کو ثابت نہیں سمجھتے، ویسے ہی کرتے ہیں۔

جواب:

۱ شریعت سے ثابت طریقہ چھوڑ کر غیر ثابت طریقے کیوں اختیار کرتے ہیں؟

۲ اگر کچھ لوگوں کے عقائد صحیح بھی ہوں تو بھی دوسرے دیکھنے سننے والوں کو دو دھوکے ہوں گے۔

۱ وہ انہیں شریعت سے ثابت سمجھیں گے۔

۲ وہ عذاب سے بچنے کے لئے ان تدابیر کو کافی سمجھیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے۔

۳ ان تدابیر کو اختیار کرنے سے نتیجہ دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ظاہر ہو گا تیری کوئی صورت نہیں، یا تو مقصود حاصل ہو جائے گا یا نہیں ہو گا، دونوں صورتوں میں کفر تک نوبت پہنچنے کا خطرہ ہے۔

اگر کسی کا کام بن گیا، مقصود حاصل ہو گیا تو وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ! جھوٹ بولتے ہیں کہ نافرمانی چھوڑے بغیر مصیبت سے نہیں بچ سکتے۔ دیکھئے انہوں نے خوانی کی اور مصیبت مل گئی۔ اس کفر کے علاوہ مزید یہ فساد کہ آئندہ اور بھی زیادہ بغاوتیں کرے گے۔

اور اگر کام نہیں ہوا تو یہ چونکہ ان طریقوں کو شریعت سے ثابت سمجھتا ہے اس لئے کہے گا کہ دیکھئے اللہ بڑا طالم ہے، کہا کہ یہیں کا ختم کرو یا ختم خواجگان کرو، میں مصیبت دور کر دوں گا، انہوں نے اتنے ختم کر لئے پھر بھی مصیبت دور کرتا ہی نہیں، مارتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں کفر ہوا یا نہیں؟

پریشانیوں سے نجات کے لئے بعض ادعیہ و اذکار اپنے طور پر انفراداً پڑھنا بلاشبہ ثابت ہے مگر ان میں بھی اجتماعی ختم ثابت نہیں اور یہ شرط بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچیں، نافرمانی چھوڑے بغیر کچھ فائدہ ہوا بھی تو بالآخر دو بھی عذاب ہی ثابت ہو گا۔

دوسری تاویل:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان گنہگار ہیں اور گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، مگر اللہ کا نام لینے سے قلب پر ضرور اثر پڑتا ہے اس کی برکت سے گناہ چھوٹنے لگیں گے۔

جواب:

اولاً یہ تو بدعت ہے، بدعت سے اللہ کا غصب اور زیادہ جوش میں آئے گایا اللہ کا قرب حاصل ہو گا؟

ثانیاً اگر کوئی ان کو شریعت سے ثابت نہ بھی سمجھے تو بھی آج کل کے مسلمان کے قلب پر اثر نہیں ہوتا، اس لئے کہ اللہ کا نام لینے یا خوانی کرنے کی تین صورتیں ہیں:
 ① یہ نیت ہو کہ اس کا قلب پر اثر ہو اور اصلاح ہو جائے۔ اس صورت میں اثر ہوتا

ہے اور بہت جلد ہوتا ہے۔

۱ خالی الذہن ہو کر اللہ کا نام لے۔ اس صورت میں بھی اثر ہوتا ہے مگر دریے سے۔

۲ گناہوں کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رکھا ہو اور اس کا اہتمام کرتا ہو خدا خواستہ ذکر اللہ کا دل پر اثر نہ ہو جائے گناہوں کی لذت چھوٹ نہ جائے۔ ظاہر ہے اس صورت میں کیا اثر ہو گا؟

سے بحمد و رکف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ
محصیت را خندہ می آید بر استغفار ما
ترجمہ: ”ہاتھ میں تسبیح زبان پر استغفار اور دل گناہوں کے نشے میں
ست ایسی توبہ پر گناہوں کو نہیں آتی ہے۔“

دل میں ذوق گناہ کے ساتھ صرف زبانی استغفار بھی کچھ نہ کچھ اثر کرتی ہے جیسا کہ نمبر ۲ میں بتا چکا ہوں، مگر جب گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور فیصلہ کر رکھا ہو کر مرتبے دم تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہیں گے تو استغفار اور وظائف کا کچھ بھی اثر نہ ہو گا اس لئے کہ طلب ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے ارشاد ہے:

﴿أَنْلِزِ مُكْمُوْهَا وَأَنْتَمْ لَهَا كَنْرِهُونَ ﴾(۶۸)﴾ (ب ۱۲ - ۲۸)

ترجمہ: ”تو کیا ہم اسے تمہارے گلے مژہ دیں اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ۔“

بعض مدارس دینیہ میں بھی اسی قسم کے ختم کروائے جاتے ہیں، اس میں بدعت کے علاوہ مزید فساد یہ بھی ہے کہ تعلیم دین تو فرض ہے اور ادعیہ واذ کار نفل، فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہے، زیادہ ثواب کا کام چھوڑ کر کم ثواب کا کام کرنا اور اس کی وجہ سے زیادہ ثواب والے کام اور بہت اہم فرض میں حرج واقع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو ثواب کی بجائے الثا عذاب ہو گا اور پریشانیوں سے نجات کی بجائے مزید

پریشانیوں کا سبب۔ پھر وہ بھی اس صورت میں کہ ادعیہ و اذکار سنت کے مطابق انفراداً پڑھے جائیں، اجتماعی ختم میں بدعت کا گناہ مزید، فرض کام چھوڑ کر بدعت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو فہم دین عطا فرمائیں۔

وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ

وصحبہ اجمعین۔

والحمد للہ رب العلمین۔





شادی مبارک

— وَعْظٌ —

فِقِيْهُ الْعَصْرِ مُفْتَنٌ عَظِيمٌ حَضَرَ أَقْدَسَ شَيْءَ الْحَلَا صَاحِبُ الْجَمَالِ

— نَاسِرٌ —

کِتاب کھڑک

ناظم آباد ۱۷ کراچی

فَقَدْ أَنْجَى اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

وَعَظْلَهُ: ن

شادی مبارک

نام: ن

جامع مسجد دارالافتاء والارشاد علم آباد پاچی

بعقام: ن

بتاریخ: ن

برقت: ن بعد فناز عصر

تاریخ طبع مجلد: ن ربيع الاول ۱۴۲۹ھ

طبع: ن حسان پرنگ پریس فون: ۰۲۱-۶۶۳۱۰۱۹

نام: ن

کتابخانہ کھلنا علم آباد پاچی ۷۵۲۰۰

نامش: ن

فون: ۰۲۱-۶۶۲۳۸۱۳ لیکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۳۶۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعن

شادي مبارك

﴿تَأَيَّهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا اَتَقْوَا اللَّهَ حَقًّا تَعْبُدُهُمْ وَلَا يَمْنَعُنَّ
إِلَّا وَآتَيْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠٢) (ب٤ - ٤)

﴿تَأَيَّهَا النَّاسُ اَتَقْوَا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَقْسٍ وَجَهَنَّمَ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِبَابًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي نَسَاءَ لَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١) (ب٤ - ١)

﴿تَأَيَّهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا اَتَقْوَا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ
يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٧١) (ب٢٠ - ٢٢)

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وعنهم عن
النبي صلى الله عليه وسلم تنکح المرأة لاربع لمالها
ولحسها ولجمالها ولديتها فاظفر بذات الدين تربت
يداك. (متفق عليه)

و عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهمما
وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا
متاع و خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. (رواہ مسلم)

و عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال
النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسره
مؤنة رواه البیهقی فی شعب الایمان.

و عنها رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي
صلى الله عليه وسلم ان من اعظم النساء بركة ايسرهن
صداقا. (رواہ البیهقی فی السنن الکبری)

شکر نعمت:

نکاح پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا:

دنیا میں ایک ناط و سورچل پڑا ہے کہ لوگ عام موقع کی بہبیت تین موقع پر
زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک شادی کے موقع پر، دوسرے ولادت کے موقع پر اور
تیسرا کسی کے مرنے پر، حالانکہ یہ تین موقع ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو زیادہ
سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کی زیادہ
سے زیادہ رعایت کرنا چاہئے اس لئے کہ پہلی دو چیزیں یعنی شادی اور ولادت تو بہت
بڑی نعمتیں ہیں اور یہ ایک فطری اصول ہے کہ نعمت ملنے پر انسان کا دل اپنے منعمر اور
محسن کی طرف خود بخود کھینچتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ کوئی کسی
پر احسان کرے تو محسن کی محبت اور اس کی اطاعت پیدا کرنے کے لئے انسان کو کچھ
توجه نہیں کرنا پڑتی اور دل کو کھینچ کر اس طرف نہیں لانا پڑتا بلکہ محسن کی طرف دل خود
بن جو کھینچتا ہے، بے اختیار کشش ہوتی ہے اور زبان پر شکر کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ

شکریہ جناب بہت بہت شکریہ۔ انگریزی والے کہتے ہیں ”تحینک یو تھینک یو“ اور اللہ کے بندے کہتے ہیں ”جزاک اللہ جزاک اللہ“ حالانکہ دنیا میں کسی نے احسان کیا تو اس کا کوئی اتنا بڑا اکمال نہیں ہے۔ جس پر احسان کر رہا ہے وہ خود مخلوق ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جس نے احسان کیا اس کا اپنا کچھ نہیں اس کو ساری دولت اور یہ تمام فضیل اللہ تعالیٰ نے ہی دیں پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے کسی پر احسان کرنے کے لئے جو دل میں داعیہ پیدا ہوا، اور جذبہ ابھرا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، غرض سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے یہ احسان کرنے والا تو محض پیالہ ہے ”خالی پیالہ“ اس کو بھرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حقیقت میں دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں یہ محسن دینے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔

محسن کی غرض:

دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس میں محسن کا اپنا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔

① آپ غور کریں گے تو یہ احسان فائدہ سے خالی نظر نہیں آئے گا محسن کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اس میں پوشیدہ ہوگا، حسن تو محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بہت رحم کرنے والے ہیں اور رحم کرتے ہیں بدلہ بھی نہیں چاہتے، اس لئے یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، مخلوق میں کسی کو حمّن نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ مخلوق جب بھی کسی پر احسان کرے گی تو اپنا فائدہ ضرور مدنظر رکھے گی۔

مثال: کوئی شخص دوسرے پر اس لئے احسان کرتا ہے کہ جس پر احسان کیا ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کے کام آجائے گا۔ احسان کرتے وقت یہ بات عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ لوگ احسان کے بدلتے احسان کریں گے اسے رہن اور گذر اوقات میں آسانی ہوگی، زندگی آرام سے گزرے گی۔

② اور کوئی اس لئے احسان کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو بڑا سمجھی ہے،

بڑے بڑے لوگوں پر اس کے احسانات ہیں، اس سے عزت میں اضافہ ہوگا، ہر طرف داہ داہ شاباش کی صدائیں بلند ہوں گی، دنیا میں نام ہوگا۔

● جو شخص طمع سے پاک اور بالکل مخلص ہو گا وہ اس نیت سے احسان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں اللہ کے بندے جس شخص پر احسان کرتے ہیں اس سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اس سے کہتے ہیں:

(لَا نُنْهِنُ مِنْكُمْ جَزَّالَ وَلَا شُكُورًا) (۱۰) (ب۔ ۲۹)

ترجمہ: ”نہ ہم تم سے بدلہ چاہیں اور نہ شکریہ۔“

جن پر احسان کرتے ہیں ان سے کوئی طمع نہیں رکھتے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے کہ وہ آکر ہمارا شکریہ ادا کریں، مال و متاع، اطاعت و خدمت کی صورت میں ہمارا احسان اتنا ریس کچھ نہیں چاہتے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ جو شخص اتنے اخلاص سے احسان کر رہا ہے وہ بھی درحقیقت یہ کام اپنے فائدہ کے لئے کر رہا ہے اس لئے کہ مسلمان کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شخص بے غرض ہے بغیر کسی طمع اور فائدہ کے احسان کر رہا ہے یہ توبہ سے زیادہ ہوشیار ہے اتنا ہوشیار کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہوشیار اور عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ دنیا میں مختلف چیزوں کے طالب ہوتے ہیں، کوئی اقتدار کا، کوئی مال کا، کوئی بیوی کا، کوئی اولاد کا مگر یہ مالک کا طالب ہے۔ پوری کائنات جس کی ملک ہے وہ اس کا ہو گیا تو اور کیا چاہئے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو بغیر کسی دنیوی طمع کے احسان کر رہا ہے یہ سب سے بڑھ کر دانا ہے۔

● اگر بالفرض کسی کے دل میں احسان کرنے سے نہ کوئی دنیوی غرض ہے نہ آخرت کی طلب، کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا تو کم سے کم اتنا فائدہ تو وہ اپنا ضرور چاہے گا کہ اس کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا اسے تسلیم مل جائے۔ کسی سے متعلق اسے خیال آیا اور دل میں ایک حرکت پیدا ہوئی کہ اس پر احسان کرنا چاہئے اس پر

احسان کر دیا تو دل کو تسلیم حاصل ہوگی دل میں سرور و اطمینان کی ایک کیفیت محسوس ہوئی۔ یہ بھی تو ایک فائدہ ہے۔ سواں کا احسان بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ ایسا احسان جو کسی قسم کی طمع و غرض سے پاک اور ہر قسم کے فائدہ سے خالی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ وہی ایک ذاتِ حُمن ہے پھر اس کی اطاعت کیوں نہ کی جائے؟

احسان کا تقاضا:

بات یہ چل رہی تھی کہ جب کوئی نیتِ نعمت آئے تو منعم کی طرف دل کو صحیح کرنیں لانا پڑتا بلکہ اس کی طرف از خود دل کھینچا چلا جاتا ہے، شادی یا بچے کی ولادت بڑی نعمتیں ہیں، ان موقع پر انسان کو چاہئے کہ اپنے منعم اپنے محظی اور اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکام پر قربان ہو جائے ایسے موقع پر تو چاہئے کہ مسلمان کی محبت کو جوش آنے لگے اور اس میں مالک کے احکام پر مر منٹنے کا جذبہ پیدا ہو۔

تمیرا موقعِ موت کا ہے اس میں انسان غور کرے تو بڑی عبرت کا سامان ہے کہ ہماری جان کس کے قبضے میں ہے اور دنیا سے رخصت ہو کر یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور ان مرنے والوں کی جان کیسے نکل رہی ہے؟ اور یہ کہ ہماری باری بھی آنے والی ہے ہماری جان کیسے نکلے گی؟ ان باتوں پر غور کریں تو یہی صدا آئے گی کہ سنجبل جاؤ! سنجبل جاؤ! سدھر جاؤ! اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ ان کی نافرمانی سے باز آ جاؤ! مراقبہ موت کے ساتھ اس بات کو خاص طور سے سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جان بہت سختی سے نکالی جاتی ہے اور فرمائیں برداروں کی جان بہت زیستی سے، محبت سے نکالی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نازعات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنادیا ہے کہ فرشتے نافرمان لوگوں کی جان بہت سختی سے نکالتے ہیں اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کی جان بہت زیستی سے نکالتے ہیں۔ پھر آگے کے مراحل قبر، حشر اور حساب و کتاب سے تعلق سوچیں کہ ان میں کیا حالات ہوں گے۔ کسی کی موت ہے کیوں

خطبائت الرشید

کر انسان کو اپنی موت یاد آنا چاہئے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دینی چاہئیں دنیا میں جتنی متیں ہو رہی ہیں، جتنی موتیں کی خبر سن رہے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جتنے لوگوں کو قبروں میں خود اپنے ہاتھوں اٹا رہے ہیں ایک ایک موقع پر اگر انسان ایک ایک گناہ بھی چھوڑتا جائے تو مکمل ولی اللہ بن جائے۔ چند دنوں کے اندر اندر سارے گناہ چھوٹ جائیں۔ سو جیسیں جہاں ہمیں جانا ہے اور جہاں جانے کے لئے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس میں تاخیر کیا ہے؟ وہ گھری تو سر پر آئی کھڑی ہے ابھی گئے اور ابھی گئے۔ جیسے شادی کے موقع پر منعم کی طرف دل خود بخود کھینچتا ہے ایسے ہی موت۔ کی موقع پر انسان کو اپنی موت خود بخود یاد آنا چاہئے۔

ان تین موقع پر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہئے اسے یہ فکر ہونی چاہئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی اطاعت کروں مجھ سے ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو مگر حالت یہ ہے کہ انسان کہلاتا تو ہے اللہ کا بندہ لیکن یہ اللہ کا بندہ نہ ہے۔ یہ تین موقع ایسے تھے جن میں شرع کے علاوہ عقل کی رو سے بھی مسلمان کو مجسم اطاعت بنا ضروری تھا مگر مسلمان کا مال دیکھ لیجئے کہ انہی تین موقع پر وہ گناہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ پہلے کی نسبت خوب دل کھول کر گناہ کرتا ہے۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ میں حُنْ کی نعمتیں استعمال کر کر کے حُنْ نی کی نافرمانی کرتا رہتا ہوں دیکھئے حُنْ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا۔ نہ میری ناگنگ توزی نہ میری آنکھ چھوڑی کچھ بھی نہیں کیا۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے تو ہی غالب ہے تیرا شیطان بھی غالب ہے جو مرضی میں آئے کرتا رہے۔

نا فرمانی کا انجام:

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (پ ۲ - ۵۴)

یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ڈھیل دے دیتے ہیں اور ڈھیل دیئے رکھتے ہیں مگر جو نبی اس کی پکڑ ہوتی ہے ساری کسر نکل جاتی ہے۔ نعمت عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھنے شادی کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں، طرح طرح کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں کہ نھیک ہے کہ لوگناہ اس کا انجام بھی عنقریب دیکھ لے گے۔ دیکھنے اسی طرح ولادت جس پر خوشی کے شادیاں نے بجائے گئے تھے جی بھر کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی کئی تھیں مگر یہ اولاد بڑی ہو کر نافرمان ہوتی ہے خوشی کی بجائے پریشانیوں کا سبب بنتی ہے اور والدین کے سر پر جوتے برستی ہے کھٹ کھٹ کھٹ جوتے پر جوتا برستا ہے تو آنکھیں تھلتی ہیں اب کہتے ہیں کہ ایسی نالائق اولاد کی ولادت پر ہم نے بے جا خوشیاں منائیں ہمیں یہ انجام معلوم ہوتا تو اس کی آمد پر خوشی کی بجائے ماتم کرتے۔ میرے پاس ٹیلیفون پر ٹیلیفون آتے ہیں کہ اولاد بہت بگز چکلی ہے برا حال ہے دعا کر دیجئے کوئی تعویذ دے دیجئے یہ ہوا ولادت کی خوشیوں کا انجام، چھلکی کی مثال تو دیا ہی کرتا ہوں کہ شکاری نے کانے میں بولنی انکا کر چھلکی کو ڈال دی وہ بہت خوش ہوئی کہ آگیا رزق، غیب سے مدد آگئی، فلاں و نظیفہ پڑھا تھا اور فلاں بابا سے وسعت رزق کا تعویذ لائے تھے تعویذ بڑا موثر ثابت ہوا آخر رزق آہی گیا یہ سوچ کر خوش ہو رہی ہے۔ اور شکاری بھی خوش ہے چھلکی کے کانٹا نگلتے ہی وہ بھی خوش ہو جاتا ہے میرا رزق آگیا۔ دونوں اپنی جگہ خوش ہیں، لیکن چھلکی کو اس وقت پتا چلتا ہے جب کانٹا حلق میں اٹلتا ہے اور شکاری اسے ایک دم سے کھینچ کے باہر کنارے پر ناتا ہے پھر گھر لے کر جاتا ہے تو چھلکی کو پتا چلتا ہے ارے میں کیا کچھی

تمی اور یہ کیا ہو گیا، سن لمحے شادی اور ولادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ بھی نادان مچھلیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس وقت دھیل دے دیتے ہیں کہ ہاں ابھی مزے لوٹ لو، مستیاں کر لو مگر عنقریب ہی اس کا انعام بھی دیکھ لو گے۔ پھر چند دنوں بعد ہی جب بیوی چلاتی ہے کہ چھلی اور دنوں آپس میں ہوتے ہیں دست و گریبان تواب پچھاتتے ہیں کہ کاش نہ یہ شادی ہوتی نہ اس پر خوشیاں مناتے۔ پھر ان دنوں کی یہ آپس کی لڑائی اور مار کٹائی صرف میاں بیوی تک محدود نہیں رہتی بلکہ آگے خاندان اور برادریوں تک تجاوز کر جاتی ہے اور دنوں جانب سے اعتراضات اور احرامات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھکڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لڑائی شروع تو ہوئی تمی میاں بیوی سے مگر بڑھتے بڑھتے خاندانوں کے خاندان اس کی پیٹ میں آگئے سب اپنی جگہ پریشان اور سرگردان ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں۔ ذرا سوچئے! یہ ساری مصیبت اس لئے آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کی ناقدری کی، نعمت ملنے پر شکر کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ شادی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں نکاح کے خطبے میں ہمیشہ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں:

”خیر مناع الدنباء المرأة الصالحة“ (مسلم)

کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے، یہ تو شوہر کے حق میں ہے اور بیوی کے حق میں سب سے بڑی نعمت نیک شوہر ہے۔

ولادت بھی بہت بڑی نعمت ہے اس کے ذریعے انسان عدم سے وجود میں آتا ہے اور یہ وجود کی ایک نعمت مدار ہے تمام نعمتوں کے لئے وجود نہ ہوتا تو کوئی نعمت ظاہر نہ ہوتی، باقی سب نعمتوں وجود کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، پھر نیک اولاد والدین کے لئے دنیا و آخرت دنوں میں ترقی، راحت و سکون کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بنتی ہے اتنی بڑی

نعت اور اتنی بڑی خوشی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کرنا چاہئے اور اس کی نافرمانیوں سے باز آ جانا چاہئے، مگر آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں ولادت کے موقع پر اطاعت کی بجائے نافرمانی کرو اور خوب کرو۔ جو گناہ عام دنوں میں نہیں کرتے وہ بھی اس موقع پر کر دو۔ یاد رکھئے! یہ تین موقع ایسے ہیں کہ نہیں دیکھ کر، سن کر یا سوچ کر انسان ہر قسم کے گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن جو ایسا ذہیت ہو کہ مجبور ہونے پر بھی گناہ نہ چھوڑے تو اس کی کیا سزا ہوئی چاہئے؟ اس کا دین اس کی عقل اور اس کی غیرت اسے مجبور کر رہی ہے کہ ان موقع پر ہر قسم کی نافرمانی سے باز آ جاؤ یہ ایسے موقع ہیں کہ ان میں گناہ کا نام بھی مت لو، گناہ کے قریب بھی نہ بھکلو، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے کہ وہ اس قسم کے موقع پیدا کر کے انسان کو نافرمانی چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں کان سے پکڑ کر جنم جھوڑ رہے ہیں، جنم جھوڑ رہے ہیں کہ بندے! سدھرجا، نافرمانی چھوڑ دے، بغاوت سے باز آ جا۔

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ إِلَّا وَلَذِكْرَهُ، أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَثْبَعَ
هَوَّةً﴾ (ب ۹- ۱۷۶)

ترجیحہ: ”او راگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔“

تجھبُور کرنے کے معنی:

یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ مجبور کرنے کی دو فسیلیں ہیں۔

❶ ایک تو یہ کہ کسی کو کان سے پکڑ کر زبردستی اس سے کوئی کام کروایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں یہی مضمون ہے کہ

ایسے ہم کسی کو مجبور نہیں کر سیں گے۔ اگر ایسے کرنے لگیں تو بندوں کا امتحان کیا ہوگا؟ سب کو پڑھ پڑھ کرو! اللہ بنادیں تو بندوں کا امتحان کیسے ہوگا اور یہ امتیاز کیسے ہوگا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں اور شیطان کے بندے کون؟ یہ تو معلوم ہی نہ ہو سکے گا۔

● مجبور کرنے کی دوسری قسم یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے کسی کو مجبور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات جتا جتا کر، اپنی قدرت کے نمونے پیش کر کر کے، جنت اور جہنم کا بار بار تذکرہ فرمائے، فرمائے بردار اور نافرمان لوگوں کا انجام ذکر فرمائے، بالخصوص انبیاء سالقین کی سرکش امتوں کا تذکرہ اور ان کا عبرت ناک انجام بیان فرمائے کر جھنجوڑ رہے ہیں اور ماننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مجبور کرنے سے مراد وہ نہیں جو عوام سمجھتے ہیں یعنی زبردستی کسی سے کوئی کام لینا بلکہ یہ معنی ہیں کہ کسی کے سامنے ایسے دلائل اور واقعات پیش کرنا کہ مخاطب میں ذرہ برابر بھی صلاحیت ہو تو اسے مانے بغیر چارہ نہ رہے کسی منکر کو دلائل کے زور سے قائل ہونے پر مجبور کر دینا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو دلائل پیش کئے ہیں کسی بہت دھرم منکر کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا انکار تو ممکن ہی نہیں اور یہ اصول ہے کہ "الانسان عبد الا حسان" یعنی انسان احسان کا بندہ ہے۔ انسان کیا یہ چیز تو جانوروں کی فطرت میں بھی ہے۔ کوئی کتنے کورونی کا نکڑا ڈال دے تو اس کے سامنے کتام ہلانے لگتا ہے۔ دم ہلانے نہ ہلانے لیکن اب اسے کائٹ گا نہیں بلکہ اس سے محبت کرے گا۔ ایک بار کتنے کے سامنے نکڑا ڈال دیں بس ہمیشہ کے لئے دوست بن جائے گا۔ جو نبی دور سے آپ پر نظر پڑے گی دم ہلاتا خوش آمدید کہتا ہوا آئے گا اور آکر آپ کے سامنے جھک جائے گا۔ یہ روشنی کا نکڑا ہے جو کتنے کو جھکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ کتنا تو احسان مان کر جھک جاتا ہے لیکن آج کا مسلمان اپنے محسن کے سامنے نہیں جھلتا۔

ان تین مواقع میں مسلمان کو گناہ چھوڑ دینے چاہئیں مگر ان تینوں مواقع میں کھل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ شادی اور ولادت کے مواقع پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو خوش کر دے کسی سے کوئی گلہ شکوئی نہ رہے چنانچہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں کسی کو اس سے کچھ شکایت ہو رنجیدگی ہو تو اس کے پاس خود چل کر جاتا ہے اور خوشامد کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کے کہنے سے وہ نہیں مانتے تو انہیں منوانے کے لئے دوسروں کو ساتھ لے جاتا ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں اور آمادہ کریں کہ مہربانی کر کے ہماری شادی پر آ جائیں اور جو کچھ آپس میں کہا سنا ہے سب معاف کر دیں۔ شادی میں خوشامد کر کے سب کو جمع کر لیتے ہیں اور ہر قیمت پر انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ظلم دیکھنے کہ سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے ذرا ایک طرف ہو جائیں۔ اس وقت آپ کی بجائے ہم نے شیطان کو بلا لیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں شیطان کا خوف اللہ تعالیٰ کے خوف سے بڑھ کر ہے۔ اسی لئے شادی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے کر شیطان کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے کہ اس وقت تو اپنی تقریب میں ہم نے شیطان کو بلا لیا ہے اس لئے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لئے ایک طرف کو ہو جائیں تاکہ ہم شیطان کو کھل کر راضی کر سکیں۔ اس کے بعد پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے اور آپ کے سامنے جھک کر آپ کو راضی کر لیں گے لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لئے ذرا آپ ایک طرف ہو جائیں۔ شیطان کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر دیا۔

خطبہ کی آیات:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبہ میں یہ تین آیتیں پڑھا کرتے تھے جو

میں نے پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لئے ان آیات کا انتخاب فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سے بچنے کی ہدایات دی ہیں اور یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اس موقع پر لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں بہت کرتے ہیں۔ پہلے سے بڑھ کر نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دھمکی دی ہے کہ خبردار یہ نعمت میں نے دی ہے خوشی میں آکر اتراؤ میں۔ میں چاہوں تو اپنی نعمت چھین بھی سکتا ہوں۔ شادی تو تم نے کر دی آگے میاں بیوی میں توافق پیدا کرنا میرا کام ہے میری قدرت میں ہے کہ اس کو نعمت بناؤں یا عذاب۔

میری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، جس نعمت پر تم اترار ہے ہو اتنی خوشیاں منا رہے ہو میں چاہوں تو اس نعمت کو عذاب میں بدل ڈالوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حق میں عذاب اور مصیبت بن جائیں۔ یہ سب میری قدرت میں ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ شادی کرنے والوں کو تنبیہ فرمائے ہیں کہ ہوش میں آجائے ایسا نہ ہو کہ شامت اعمال سے یہ خوشیاں تمہارے لئے وباں بن جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاں جہاں انسان کے بھٹکنے کا احتمال ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اسے بیدار کر دیتے ہیں بلکہ جسمی خودتے ہیں کہ میرے بندے بھٹک نہ جانا۔ یہ امتحان کا موقع ہے ہوشیار رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ورنہ اگر وہ خبردار نہ کریں اور انسان بھٹک جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا بگزیرے گا؟ یہ بندوں پر ان کی رحمت اور شفقت ہے۔ یوں تو انسان کو قاتل کرنے اور اسے مجبور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے احسان بھی کافی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے۔ عقل کے علاوہ شریعت بھی دی ہے۔ ڈرانے والے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ موقع بموقع بار بار متوجہ فرماتے رہے ہیں کہ متوجہ ہو جاؤ غفلت سے باز آ جاؤ۔ کتنی بڑی شفاوت قلب ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود یہ مسلمان پھر بھی بغاوت سے باز نہیں آتا پھر وہی نیزی گی چال گویا کہ اسے مرتا

عنی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی جانا ہی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل شادیوں میں خرافات اور غلط کام بہت ہوتے ہیں۔

ایک سمجھیں غلطی:

ان میں سے ایک غلط کام یہ بھی ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکی سے اجازت یعنی کے لئے ولی اقرب جائے یعنی لڑکے رشتہ داروں میں جو قریب سے قریب تر رشتہ دار ہے وہی لڑکی سے جا کر پوچھنے کہ اس لڑکے سے تیرناکھ کر رہے ہیں تجھے قول ہے؟ اگر لڑکی کنوواری ہو اور پوچھنے والا قریب تر رشتہ دار ہو تو پوچھنے پر لڑکی کے خاموش رہنے سے نکاح ہو جاتا ہے صراحت اجازت دینا ضروری نہیں، اگر لڑکی کنوواری نہ ہو، پوچھنے والا قریب تر رشتہ دار نہ ہو تو لڑکی کا صراحت اجازت دینا ضروری ہے خاموش رہنے سے نکاح نہ ہوگا، لڑکی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ والد۔ والد جا کر پوچھے کسی کا والد نہیں ہے تو والد کے بعد دادا کا نمبر ہے دادا جا کر پوچھے والد بھی نہ ہو دادا بھی نہ ہو تو بھائی پوچھے پھر بھائی کے بعد سبھی کا نمبر ہے۔ مسئلہ نہیں کہ سبھی کا درجہ چھپا سے بھی پہلے ہے بھائی سبھی اور سبھیوں کی اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر چھپا، ولی ہے۔ لڑکی کے اولیاء کی یہ ترتیب ہے اس کی رعایت ضروری ہے اگر والد کے ہوتے ہوئے بھائی نے پوچھ لیا یا چھپا نے پوچھ لیا اور لڑکی خاموش رہی تو اس کا پوچھنا نہ پوچھنا برابر ہے ذرہ برابر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ گویا لڑکی سے پوچھا ہی نہیں بغیر پوچھنے نکاح کر رہے ہیں البتہ نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ نہیں کہ کہیں اس شہر میں نہ پڑ جائیں کہ مرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ نکاح ہو جائے گا دو وجوہ سے: ایک یہ کہ جیسے دستور ہو گیا ہے لڑکی کو پہلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنے جو بھی آئے اور جو کچھ بھی پوچھنے بہر حال اسے اباہی نے بھیجا ہوگا۔ جب اسے معلوم ہے کہ جو میرا اصل ولی ہے یہ اسی کا بھیجا ہوا ہے اس نے پوچھا ہے تو نکاح

ہو جائے گا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو اتنا عالم بھی نہ ہو کہ والد نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے۔ تو یہ نکاح لڑکی کی اجازت پر موقوف رہے گا بعد میں جب لڑکی رخصتی کے لئے تیار ہو گئی اور خوشی سے شوہر کے گھر رخصت ہو گئی تو گویا اس نے قبول کر لیا۔ اب نکاح نافذ ہو جائے گا۔ مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ پوچھنے کے لئے ولی اقرب جائے لیکن لوگوں میں دستور یہ ہے کہ باپ دادا یا بھائی کی بجائے ماں وہ کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ کسی غیر محرم کی بجائے ماں وہ کا ہی انتخاب کیا۔ اتنی سی عقل تو آگئی کہ لڑکی کے پاس اس کے ماں وہ کو بھیج دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ماں وہ کسی درجے میں بھی لڑکی کا ولی نہیں اس کی بجائے چچا کو بھیجتے تو بھی ٹھیک تھا کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں تو ولی ہے کہ والد، دادا اور بھائی بھیجنے نہ ہوں ان سب کے بعد آخر میں چچا ولی ہے اور وہ پوچھ سکتا ہے ماں وہ کوئی حق ہے ہی نہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اور زیادہ جہالت، بے دینی اور پر لے درجہ کی بے حیائی کی بات یہ کہ بعض لوگ لڑکی کے بہنوں کو پوچھنے کے لئے بھیجتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف تو ہے ہی عقل اور غیرت کے بھی خلاف ہے۔ انتہائی درجے کی بے حیائی ہے۔ بہنوں کو دینی تو ویسے ہی سالیوں پر جھیٹنے میں بہت مشہور ہیں، سالی کو بھی بیوی بنائے رکھتے ہیں؟ لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے کے لئے ایسے خطرناک رشتے کا انتخاب کتنی بڑی بے حیائی ہے اور لڑکی کے والدین کس قدر بے غیرت، بے حیاء اور دیوٹ ہیں۔ ذرا سوچنے کیا انجام ہو گا اس قسم کی شادیوں کا؟ بے دینی کی نحوس سے عقل پر تو پرده پڑھی گیا تھا شرم و حیاء بھی رخصت ہو گئی۔ کتنی بے حیاء قوم ہے۔ یہ سب گناہوں کی نحوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے دل سے حیاء بھی نکل گئی۔

بے حیائی:

دنیا میں سب سے بڑی اور اول نمبر کی بے حیائی مردوں کا ڈاڑھی منڈانا کثانا اور

عورتوں کا بے پرده پھرنا ہے۔ جب اتنی بڑی بے حیائی گوارا کر لی تو سالی سے اجازت لینے کے لئے بہنوئی کو بھیجننا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔

۷۰ اذا فاتك الحباء فافعل ما شئت

بے حیا باش و هرچه خواہی کن

حیاء ہی چھوڑ دی تو اب خواہ نگئے ناپتے رہو۔ بے حیائی سے روکنے والی چیز تو شریعت ہے یا پھر حیاء۔ جب دونوں سے آزاد ہو گئے شریعت کا لحاظ رہا نہ حیاء رہی تو اب نگئے ناپتے رہو۔ حیوانوں کی طرح دولتیاں مارتے رہو جو چاہے کرتے رہو۔ مسلمان نے ڈاڑھی پر چھاؤڑا چلا کر حیاء کا اڈہ ہی اڑا دیا۔ پہلے کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ کسی سے کوئی غلیظ حرکت صادر ہو گئی بے حیائی کا ارتکاب ہوا تو لوگ فوراً کہتے ارے! تمہارے منہ پر ڈاڑھی ہے، ڈاڑھی رکھ کر ایسی غلط حرکتیں کرتے ہو؟ آج کل تو لوگ ایسے نہیں کہتے ہوں گے بلکہ یہ کہہ کر نوکتے ہوں گے کہ ارے! آلو جیسا تمہارا چہرہ ہے پھر ایسے غلط کام کرتے ہو؟ ایسے تو نہیں کہتے ہوں گے کہ تمہارے منہ پر ڈاڑھی ہے اور پھر بھی ایسے کام کرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے ایسے؟ نہیں! اشاید کوئی پرانے لوگ اب بھی کہتے ہوں ورنہ یہ کہنے کا اب دستور نہیں رہا۔ جب ڈاڑھی ہی نہیں رہی تو ایسے کون کہے گا؟ اب تو کسی کو نوکتے کے لئے کہنا چاہئے ارے! تمہارا چہرہ تو زنانہ بالکل عورتوں جیسا پھر بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ عورت تو کمزوری مخلوق ہے تم عورت ہو کر یہ کام کر رہے ہو؟ عورتوں کو یہ کام زیب نہیں دیتے۔ ڈاڑھی منڈانے والے مردوں کو آج کل ایسے کہنا چاہئے۔ پہلے زمانے میں جب مسلمان ڈاڑھیاں رکھتے تھے تو اپنے اوپر اعتماد دلانے یا کسی کو نوکتے کے لئے یوں کہتے تھے کہ میرے چہرے پر ڈاڑھی ہے یا تیرے منہ پر ڈاڑھی ہے پھر بھی ایسا کام؟ مطلب یہ ہے کہ ڈاڑھی تو حیاء کی علامت ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے لیکن مسلمان نے حیاء کا اڈہ ہی اڑا دیا۔ اب جتنی چاہے حیائی کرتے رہو نہ کوئی نوکے گانہ طعنہ دے گا۔

خطبہ الرشید

ای طرح بے پرده عورتوں نے چہرے سے پرده اتار کر حیاء کا اذانی اڑا دیا ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر حماقت اور بے حیائی دیوٹی یہ کہ نکاح کی اجازت لینے کے لئے بہنوئی کو سالی کے پاس بھیجا جا رہا ہے، وہ دیے ہی سالی پر مر رہا ہے پھر لڑکی کا دیوٹ ابا اسے شادی جیسے محکم موضوع کے سلسلہ میں سالی کے پاس بحیثیت کر اس کی خباثت کو مزید شدے رہا ہے درحقیقت پرده عورتوں کے چہروں سے اتر کر مردوں کی عقولوں پر پڑ گیا ہے۔ بہنوئی کو اجازت لینے کے لئے بھیجا بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ ایسی بے حیائی جس کا کوئی غیرت مند انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات صرف شریعت کے ہی نہیں غیرت کے بھی خلاف ہے بڑی بے دینی اور انہائی بے حیائی کی بات ہے اور بہت بڑی دیوٹی ہے۔

بحمد اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت ہے ان سے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ جذبہ ڈال دیا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے تم بھی ان سے محبت کرو۔ محبت کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نقصان سے بچاؤ اور ان سے وہ سلوک کرو جن سے ان کو فائدہ پہنچے۔ دیکھئے چھوٹا بچہ اگر یہاں پڑ جائے تکلیف میں بنتا ہو تو والدین اسے کڑوی دوائیں پلاتے ہیں انجکشن لگواتے ہیں بلکہ مرض بگڑ جائے تو آپریشن کروانے سے بھی دریغ نہیں کرتے حالانکہ والدین سے بڑھ کر بچہ کسی کو پیار نہیں ہوتا مگر وہ بچے کی جان بچانے کے لئے اس کے فائدے کے لئے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح بچے کا جسم میلا ہونے لگتا ہے تو گڑ رگڑ کر نہلاتے ہیں صابن لگاتے ہیں ملتے ہیں۔ اس دوران بچہ چیختا چلاتا ہے مگر والدین ذرہ برابر اس کی پردا نہیں کرتے اس کی چیخیں سن کر رگڑائی نہیں چھوڑتے صرف یہ کہتے جائیں گے کہ جتنا کوئی بات نہیں بس تھوڑی دری میں پاک صاف ہو جاؤ گے۔ میں بھی لوگوں سے گناہ چھڑوانے کے لئے ان کی رگڑائی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو محبت اور ہمدردی کا جذبہ ہے وہ چھوڑنے ہی نہیں دیتا۔ مجھے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں

گے نہیں کہ میرے بندے تیرے پاس آتے تھے تو نے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیوں نہیں کیا؟ یقیناً پوچھیں گے اور ہر اس شخص سے پوچھیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے گناہ چھڑا کر انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کی۔

مصلح کا کام:

اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک نہلانے دھلانے والے کے پاس مجھ دیا اس نے نہلا دھلا کر صاف کر دیا۔ یہ میرا معمول ہے کہ کسی کو گناہوں سے میلا اور آلووہ دیکھتا ہوں تو ذرا صفائی کر دیتا ہوں۔ عقل مند لوگ تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ احمق لوگ شاید گھبرا جاتے ہوں گے کہ کہاں پھنس گئے۔ مگر معانع بھی مریض کی رائے نہیں لیتا وہ اپنا کام کرتا ہے۔ مریض کی چیزوں پر کان نہیں دھرتا بلکہ اپنا کام کر کے رہتا ہے نادان مریض چیختا چلاتا ہے ڈاکٹر کو برا بھانگ کہتا ہے لیکن عقل مند اور دانا مریض ڈاکٹر کا شکریہ دا کرتا ہے۔ انجکشن کی تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا شکریہ بھی اواہ کرتا ہے۔ یہی حالت روحانی مریض اور روحانی معانع کی ہوتی ہے مریض میں عقل ہو تو انجکشن لگنے کے بعد روحانی معانع کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری اصلاح کر دی، مجھے صحیح راہ پر لگا دیا۔ درستہ میں بھلک جاتا۔ جہنم میں چلا جاتا لیکن جس مریض میں عقل نہیں وہ معانع کی شکایت کرتا ہے، عقل کس میں نہیں ہوتی؟ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور باغی ہو۔

گناہوں کا دبال سب سے پہلے عقل پر پڑتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے انسان کی عقل مسخ ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص سے جتنی خیرخواہی کی جائے جس قدر امانت نے جائے وہ سمجھی کہے گا کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ مگر اسکی باتوں سے ہماری محبت اُتم نہیں ہوتی، خیرخواہی کا جذبہ سرد نہیں پڑتا۔ عقل مند سے دیسے عقی محبت ہوتی ہے کہ وہ قدر ہے یہ محبت کے لائق مگر کم عقل یا بے قوف سے بھی عداوت نہیں بلکہ ایسا شخص (۱۰۰)

کا مستحق ہے۔ اس کی حالت زیادہ قابل رحم ہے۔ اس لئے دونوں کی اصلاح کی جاتی ہے دونوں کا حق ہے اور حق محبت کا ادا کرنا ضروری ہے۔

خطبہ میں جو تین آیتیں اور چار حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان سے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں مگر پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ نکاح کے لئے خطبہ پڑھنا کوئی شرط لازم نہیں جیسے جو سے پہلے خطبہ شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے نکاح کے لئے خطبہ لازم نہیں لیکن پھر بھی کیوں پڑھا جاتا ہے؟

خطبہ کی مصلحت:

اس کی مصلحت سمجھ لیں سمجھ میں آجائے تو مسلمانوں کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں مگر لوگوں نے اس خطبہ کو بھی رسم کی شکل دے دی ہے۔ اس کی مصلحت نہ کوئی سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ نکاح خواں خطبہ پڑھ کر سنادیتا ہے سننے والے سن کر اٹھ جاتے ہیں مگر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس خطبہ کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں ہمیں حکمت معلوم ہے وہ یہ کہ خطبہ اگرچہ ضروری نہیں اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے مگر اس کے پڑھنے سے برکت ہوگی۔ برکت کے لئے پڑھتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچنے کہ برکت توجہ ہو کہ خطبہ میں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو ذرا اس بات کو سوچنے اور بار بار سوچنے کہ مجلس نکاح میں بیٹھے تمام شرکاء کو اور خاص طور سے نکاح کرنے والے فریقین کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں احادیث سنائی جا رہی ہیں مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد گھر پہنچتے ہی انہیں تو زنا شروع کر دیں ایک ایک حکم کو توڑتے چلے جائیں تو شخص سننے سے کیا حاصل ہوگا؟ برکت ہوگی یا عذاب نازل ہوگا؟ نکاح سے پہلے خطبہ کا مقصد ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے باخبر کرنا ہے۔

شادی مبارک کہنے کی رسم:

غالباً شادی کی تقریب پر بلانے کے لئے جو کارڈ چھاپے جاتے ہیں ان پر ”شادی مبارک“ لکھا ہوتا ہے میں نے ”غالباً“ اس لئے کہ محمد اللہ تعالیٰ میں الیس خرافات سے بہت دور ہوں، اس لئے مجھے پوری تحقیق نہیں، بہت عرصہ ہوا کسی شادی کارڈ پر نظر پڑ گئی تھی غالباً اس یہ ”شادی مبارک“ لکھا ہوا تھا۔

پھر نکاح کے بعد اسی مجلس میں ہر طرف سے ”شادی مبارک، شادی مبارک“ کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے انٹھنے کے بعد کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، بچے کی ولادت پر بھی یونہی ہوتا ہے جو بھی سنتا ہے مبارک باد دیتا ہے ہر طرف مبارک کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اسی طرح عید مبارک، نیا مکان یا ایسی نیشن مبارک، نئی تجارت مبارک، وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہر خوشی کے موقع پر مبارک دینے لینے کا عام دستور ہے مگر یہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ رات دن بولا اور سنایا جا رہا ہے لیکن اس کا مطلب سمجھنے سے اتنی غفلت کہ اس پر جتنا تعجب کیا جائے کم ہے۔

”شادی مبارک“ کہنے کا مطلب:

اس کا مطلب غور سے سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔

”مبارک باد“ دعاء ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نعمت اور خوشی پر یہ دعاء دی جا رہی ہے اس نعمت سے جو مقصد ہے اس سے فائدہ تام ہو اور اس میں دوام ہو یعنی فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور یہ فائدہ ہمیشہ رہے بلکہ اس میں روز بروز ترقی ہوتی رہے، مثلاً ”شادی مبارک“ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لئے دنیا و آخرت میں راحت و سکون کا ذریعہ بنیں، اور صالح اولاد پیدا ہو جو والدین کے لئے

صدقہ جاریہ ہو۔

دعا کی حقیقت:

دعا کی حقیقت یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے دعا مانگ رہے ہیں دل میں بھی اس کی بھی طلب ہو، اگر دل میں طلب نہیں صرف اوپر اور سے زبان سے مانگ رہے ہیں تو یہ دعا نہیں بلکہ خود فرمی ہے یا اللہ تعالیٰ کو فریب دے رہے ہیں ہے دل میں طلب ہے ہی نہیں اور زبان سے مانگ رہے ہیں، یہ نفاق ہے اسکی دعا، قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ حقیقت یہ دعا ہے ہی نہیں۔

دل سے طلب کی علامت:

دعا، مانگنے والے کے دل میں بھی طلب ہے یا نہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے دعائیں کر رہا ہے اور کرو رہا ہے اس مقصد کے لئے حسب استطاعت و شکل بھی کرے، کوشش کے بغیر دعائیں کرتا کرو اما اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں طلب نہیں، اس لئے اسکی دعا، مانگنے والے کو ہر شخص احتمق کہے گا، مثلاً کوئی پیاسا پانی کے پاس جیٹھا ہے اور وہ ہاتھ پڑھا کر پانی پینے کی بجائے خوب گز گز اکر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ! پیاس گلی ہے میری پیاس بچھا دے، کیا اس کی دعا، قبول ہو جائے گی اور پیاس بچھ جائے گی؟ کیا اس سے بڑھ کری احتمق ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر شادی کرتا نہیں اور اولاد پیدا ہونے کے لئے وظائف پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، کرو رہا ہے تو کیا اس کے اپنے پیٹ سے پچھل آئے گا؟ ایسے ہی اگر کوئی رزق کے لئے وظائف اور دعائیں تو بہت کرتا کرو رہا ہے مگر کمانے کا کوئی دریو احتیار نہیں کرتا تو کیا اسے پر لے درجہ کا احتمق نہیں کہا جائے گا؟ غرض یہ کہ دل نے بہ آنے کی دلیل یہ ہے کہ دعا، کے ساتھ کوشش بھی کرے۔

مقصد میں کامیابی کی شرط اولین:

کسی بھی مقصد کے لئے جتنی بھی کوششیں کی جاسکتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم بلکہ بنیادی کوشش یہ ہے کہ اس مقصد کا پورا کرنا جس کے اختیار میں ہے اسے راضی کیا جائے، اور یہ حقیقت تو دنیا کا حمق سے احمق بھی بخوبی جانتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی مخالفت چھوڑے بغیر ہرگز راضی نہیں کیا جاسکتا۔

اب ان سب مقدمات کو ملا کر غور کیجئے کہ دنیا کا ہر مقصد اور ہر ہر چیز، خر و شر، راحت و عذاب، سکون و پریشانی سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے جس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں اور یہ عقیدہ ایسا مشکم ہے کہ ایمان کی بنیاد ہے اس میں کسی کو ذرا سا بھی کوئی شبہ ہو تو ایمان رخصت۔

پھر اس پر غور کیجئے کہ جب سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے تو اسے راضی کئے بغیر اس کے خزانے سے کیسے لے سکتے ہیں؟

پھر یہ سوچئے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور نافرمانی نہیں چھوڑیں گے وہ راضی نہیں ہو گا اس لئے اس سے کچھ بھی نہیں لیا جاسکے گا، اگر اس نے کچھ دے بھی دیا تو عذاب بنایا کر دے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانیاں چھوڑے بغیر صرف ظیفوں اور دعاوں کے زور سے اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ! ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کو مخالفت اور بغاوت کا علم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیصلہ نادیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں تو رسوا کریں گے ہی دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔

حاصل یہ کہ دنیا و آخرت کی ہر پریشانی سے بچنے کا واحد نہ سزاکر سراف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور ہر فحسم کی نافرمانی سے توبہ کر کے اسے راضی کیجئے، وعظ "ہر

پریشانی کا علاج،" میں اس کا مفصل بیان ہے۔

آپ نے خطبہ میں قرآن مجید کی تین آیات سنیں جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کھول کھول کر سنائے جا رہے ہیں۔ ان کے بعد جو چار حدیثیں پڑھی گئیں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین ہی بتائے گئے ہیں۔ نکاح کے خطبہ میں ان تینوں آیتوں کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطبہ نکاح میں پڑھنا اگرچہ ثابت نہیں لیکن ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیثیں انہیں اس موقع پر اس لئے پڑھ دیتا ہوں کہ ان میں بھی نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ایک ایک آیت اور ہر حدیث کی تشریع کی جائے تو وقت بہت زیادہ چاہئے اس لئے الگ الگ تشریع کی بجائے مختصر بتاتا ہوں۔

نعمت کی بجائے زحمت:

تینوں آیتوں کا حاصل ایک ہی ہے وہ یہ کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈر و جہنم کی الگ سے ڈر اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تینوں میں یہی مضمون ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نعمتیں بنادیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑی اس کی بغاوت سے بازنہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اس نے دنیا میں جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ ان نعمتوں کو نہیں رہنے دیتے بلکہ انہیں عذاب بنا دیتے ہیں نعمتیں عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور وبال بن جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ وہ اللہ جس نے شادی کی نعمت دی وہ اس نعمت کو زحمت میں بدل کرنا ہے۔ وہ چاہے تو گھوڑے کو نیچے نکال کر اوپر چڑھا دے۔ اس قسم کی شادیوں کا جس میں دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے انجام تو سب کو معلوم ہے۔ بیگم تھوڑے طوں بعد جب صریح ہوتے بر سانا شروع کرتی ہے تو اس کی خوشامدیں کرتے

ہیں ارے یگم معاف کر دے، ارے یگم معاف کر دے۔ جب وہ معاف نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ بھاتی ہے تو تعویذ گندوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی ایک پیر کے پاس جاتے ہیں کبھی دوسرے کے پاس اور کبھی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کسی نے بتا دیا کہ نہش میں فلاں بزرگ کی قبر ہے وہاں جائیں تو شاید یہ مصیبت مل جائے۔ بھاگے جا رہے ہیں قبر کی طرف۔ کبھی ادھر سر گردان ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حرم کو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ کر صحیح صحیح بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

آج کا مسلمان:

ایک شخص ہنا کشا بازار میں بیٹھا کہہ رہا تھا یا اللہ! گھوڑا دے دے یا اللہ! گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے نہ جانے کتنی دیرے بیٹھا ہیں رہ لگا رہا تھا یا اللہ! گھوڑا دے دے۔ ادھر سے کسی سپاہی کا گزر ہوا۔ اس کی گھوڑی بیالی اس نے بچہ دیا سپاہی کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اس پنجیہے کو اصطبل تک کون پہنچائے؟ وہ سپاہی ادھر دیکھنے لگا اس پر نظر پڑ گئی۔ یہ ہنا کشا جوان فارغ اور نکلا بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا دعا کر رہا ہے یا اللہ! گھوڑا دے دے یا اللہ! گھوڑا دے دے۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر ایک چاک رسید کیا اور کہا اخفاو یہ پچھیرا اسے اصطبل میں پہنچاؤ۔ اس نے جلدی سے انھا لیا۔ پچھیرے کو سر پر انھائے لئے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے یا اللہ! تو دعاء ستاتو ہے سمجھنا نہیں۔ سن لیتا ہے مگر سمجھنا نہیں میں نے گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لئے تو نے اوپر چڑھا دیا۔ تباہی اسکی ستائی کے بعد یہ کافر ہوا یا نہیں؟ جس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اللہ سخت لڑے سمجھنا نہیں ایسا شخص مسلمان کہاں رہا؟ آپ آج کے مسلمانوں کے حالات غور۔ تھے وہ کمیں تو بالکل اس جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر پائیں گے۔ حالات کا ذرا اندازہ لگا دیجئے۔ متوفی دعائیں کرتے رہتے ہیں کرواتے رہتے

خطبات الرشید

ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ جس ذات سے مانگ رہے ہیں ساتھ ساتھ اسے ناراض بھی کئے جا رہے ہیں اس کی نافرمانی سے باز نہیں آتے ایسے لوگوں کی دعاء قبول ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے گھوڑا دے بھی دیا تو وہ نیچے کے لئے نہیں دے گا بلکہ گھوڑا اور چڑھادے گا اور چند ہی دنوں کے بعد پتا چل جائے گا کہ جس کو نعمت سمجھ رہے تھے اور نعمت کی رث لگا رہے تھے وہ نعمت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے اس نعمت کو عذاب بنادیا ہے۔ زیادہ درینہیں لگتی بس چند دن گزرنے پر ہی پتا چل جاتا ہے۔ خطبہ میں پڑھ گئی تینوں آیات پر غور کریں تو ان میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے میاں بیوی کے حق میں اور دونوں خاندانوں کے حق میں بھی، اس سے مسلمان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اس سے دونوں خاندانوں میں محبت بڑھتی ہے میل جوں پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ ابھرتا ہے۔ لیکن کان کھول کر سن لیں کہ یہ نعمت جب ہی نعمت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں اس کی بغاوت سے باز آ جائیں۔ اگر نافرمانیاں نہیں چھوڑ دیں تو وہ گھوڑا نیچے کی بجائے اور چڑھادے گا پھر دیکھئے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت سمجھنے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی اور قلب، قوا اور عمل اپنی نعمتوں کا شکر اداء کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بات تو مختصری تینوں آیات سے متعلق بتا دی۔

احادیث کی تشریح:

آیتوں کے بعد چار حدیثیں بھی پڑھی تھیں پہلی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ لوگ جب شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو رشتے کا انتخاب کرتے وقت مختلف چیزوں مدنظر رکھتے ہیں۔ بعض مال کو بعض حسب و نسب کو اور بعض حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مال کا ذکر فرمایا کہ بہت سے لوگ لڑکی کے

انتخاب میں مال کو سامنے رکھتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان مالدار ہونا چاہئے ان کے پاس مال ہو خواہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ نہ صورت نہ سیرت، بس مال پر مرے جارہے ہیں۔ رشتہ کرتے وقت اکثر لوگ مال کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ حسب کو دیکھتے ہیں کہ اونچا خاندان ہو کوئی بڑا منصب ہوا اور اپنی لوگ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا رنگ روپ اور اس کی شکل و صورت اچھی ہو۔ سیرت خواہ کسی ہی برقی ہو۔ کچھ لوگ دین کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی دیندار ہونی چاہئے خواہ مال یا دوسرا چیزیں ہوں یا نہ ہوں لیکن دین ہو۔ فرمایا کہ دیندار رشتے کا انتخاب کرو اس سے تمہاری شادیوں میں برکت ہوگی اور دنیا و آخرت میں اسن و سکون نصیب ہوگا۔ سکون اللہ تعالیٰ نے صرف دین میں رکھا ہے باقی چیزوں میں کچھ نہیں۔ اس لئے تم لوگ جہاں کہیں رشتے کرو دین کی جنیاد پر کرو۔ یہی ایک چیز کافی ہے باقی تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ہو یا نہ ہو اسے مت دیکھو۔

دوسرا حدیث میں فرمایا کہ یہ پوری کی پوری دنیا عارضی سامان ہے:

”گذر گئی گذران کیا جھونپڑی کیا میدان۔“

یہ تو گزرنے والی چیز ہے بلکہ خود گزرگاہ اور مسافرخانہ ہے ایک عارضی اور وقتی چیز ہے لیکن ان عارضی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے، اسی پر یہ بھی قیاس کر لیں کہ بیوی کے لئے دنیا میں سب سے بڑی نعمت نیک شوہر ہے۔ فرمایا دنیا ساری کی ساری عارضی ہے اس کی نعمتیں بھی سب عارضی جلد فنا ہونے والی ہیں لیکن ان فانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی (اور نیک شوہر) ہے یہ ایک نعمت دنیا کی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ اس سے دنیا و آخرت دونوں کا سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔

تمیری حدیث کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جتنے نکاح ہوتے ہیں تمام نکاحوں میں سب سے بارکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں تکلفات کم سے کم ہوں۔ یہاں ایک

خطبات الشید

بات سوچیں کہ کسی کام سے اچھے نتائج پیدا کرنا بارے نتائج پیدا کرنا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نا؟ تو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے کرو گے تو نتائج بہتر رہیں گے اور ایسے ایسے کرو گے تو نتائج بد سے بد تر اور خراب سے خراب تر ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو اسی کا معتبر ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر برکت نکاح وہ ہے جس میں تکلفات کم ہوں۔

چوتھی حدیث میں فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ جتنا مہر کم ہو گا اتنی ہی وہ عورت برکت والی ہو گی۔ برکت کا مطلب پہلے "شادی مبارک" کی تشرع میں بتا چکا ہوں۔

کچھ اپنے واقعات:

اس بارے میں کچھ اپنے خصوصی حالات بتانا چاہتا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیں تو بہت کچھ بتاتا ہے مگر خود عمل نہیں کرتا۔ مولویوں سے متعلق اس قسم کی باتیں آج کل لوگوں کی زبان پر عام ہیں کہ ان کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے کچھ اپنے واقعات سنارہا ہوں۔ میرے حالات میں اتنا تو کہیں لوگوں نے پڑھا ہو گا کہ میری شادی میں باراتی کل ڈھائی آدمی تھے یونہی لطف یعنے کے لئے اس واقعہ کو بارات کا نام دے رہا ہوں ورنہ ڈھائی آدمیوں کی کیا بارات ہوتی ہے۔ بارات تو آج کل اس کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کا پورا لا ڈلٹکر ہو۔ ہم ڈھائی آدمی بھی کون تھے؟ ایک میں۔ دوسرہ کو تو بارات میں شمارتی نہیں کیا جاتا۔ بارات تو دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے، ڈھائی باراتیوں میں ایک میں دوسرے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور تیسرے چھوٹے بھائی جن کی عمر تقریباً دس گیارہ سال تھی ابھی نابالغ تھے، ان کو شامل کر کے ڈھائی آدمی بنے۔ یہ کیفیت تھی میری شادی کی۔

پھول کی شایاں کیسے کیں؟ ان کے قصے تو میری شادی سے بھی عجیب ہیں۔ بیان نہیں کرتا بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ قصے تو بہت سے لوگوں نے ”انوار الرشید“ میں پڑھ لئے ہوں گے ان کو دہرانے کی بجائے ایک دوسری بات بتاتا ہوں جونہ کسی نے سنی ہوگی اور نہ پڑھی ہوگی وہ یہ کہ اپنی شادی کے قصہ میں جو ذہانی آدمیوں کی بارات بتا رہا ہوں تو یہ سن کر شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ممکن ہے ان کے گھر میں اس وقت ہوں ہی کل ذہانی افراد اور کوئی شخص ہو ہی نہ، اس صورت میں انہی ذہانی آدمیوں کو آنا تھا اور لوگ کہاں سے لاتے؟ سونئے اس وقت مجھ سے تمیں بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات بلند فرمائیں۔ تمیوں بہت بڑے عالم تھے۔ ان میں سے ایک تو میرے استاذ بھی تھے۔ یہ تمیوں حضرات مختلف دینی مدارس میں دینی خدمات انجام دے رہے تھے۔ علوم دینیہ کی تدریس میں ہمتن مشغول تھے اور جن جن مدارس میں یہ حضرات پڑھا رہے تھے وہ ہمارے گھر سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے قریب قریب ہی تھے۔ ان حضرات کا آنا کچھ مشکل نہ تھا۔ لیکن والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سوچ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ حضرات چھوٹے بھائی کی شادی میں شریک ہوں اس سے بہتر ہے کہ دین کی خدمت میں مشغول رہیں اور اپنے اپنے مدارس میں بینٹھ کر علم دین پڑھائیں۔ انہیں مدارس سے نکال کر اور دین کا نقصان کر کے جس تقریب میں بلائیں گے اس میں کیا برکت ہوگی؟ دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان۔ اس لئے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق یہی فیصلہ فرمایا کہ علم دین پڑھانے میں مشغول رہیں نکاح ان کے سوا بھی ہو جائے گا۔ ان بھائیوں کے علاوہ مجھ سے دو بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں مگر زیادہ دور نہ رہتی تھیں قریبی شہروں میں تھیں شادی میں شرکت کے لئے بآسانی آسکتی تھیں مگر ان کو بھی نہیں بلایا گیا۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ارشاد تھا کہ سب سے بارکت نکاح وہی ہے

جس میں تکلفات کم سے کم ہوں۔ ذہانی آدمیوں کی بارات لے کر گئے جیئے بنیوں تک کونہ بلایا۔ شاید بہت سے لوگ میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آسمان سے گرا دیا دنیا میں اس کا کوئی ہے، ہی نہیں بس یونہی اکیلا کہیں سے فلک پڑا۔ خوب سمجھ لیں ایسی بات نہیں ہے میں بھی آپ جیسا انسان ہوں۔ بھائی بہن تو بتا چکا ہوں ان کے علاوہ بھی ہر قسم کے رشتے دار موجود تھے۔ چھا تھے، پھوپھیاں تھیں، ماموں تھے، خالائیں تھیں۔ بھائی بہنوں کے بعد قریب رشتہ دار یہی ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے رشتے دار تو والدین اور دادا نانا وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بعد بھائی بہنوں کا نمبر آتا ہے پھر چھا اور پھوپھیاں۔ ان کے بعد ماموں، خالائیں۔ میری شادی کے وقت یہ چاروں قسم کے رشتے دار بحمد اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ میں بھی دنیا میں آپ کی طرح انسانوں میں پیدا ہوا ہوں میرا بھی خاندان ہے۔ بہت بڑے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے پھر خاندان بھی کوئی بھوکا نگاہ نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑا زمیندار خاندان ہے۔ چل کر دیکھنا چاہیں تو اپنی زمینیں دکھا سکتا ہوں۔ میرا خاندان ہر لحاظ سے مشہور اور معزز ہے۔ علمی شہرت تو ہر طرف مسلم تھی ہی دنیوی اعزاز میں بھی بہت اوپر مقام تھا۔ وقت کے بڑے بڑے وزراء جن میں کچھ صلاحیت تھی، ہمارے گھر پر حاضری دیتے رہے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین اور سردار عبدالرب نشرت وغیرہ خود ہمارے ہاں حاضری دیتے تھے لیکن ان سب باتوں کے باوجود دیکھنے کیسی سادگی اور خاموشی سے شادی کر دی۔ نہ چچا، نہ پھوپھیاں، نہ ماموں، نہ خالائیں۔ جب بھائی بہنوں کو ہی نہیں بلا یا تو دوسروں کو کیا بلا تے؟ گویا سب کو بتا دیا اور ان کے سامنے مثال رکھ دی کہ رشتے داروں کو اور خاندان برادری کو اکٹھا کئے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے اور کر کے دکھادی۔ ایسا تو نہیں کہ بڑی بارات اور بڑے تکلفات کے بغیر شادی ہی نہ ہو۔

سبق آموز واقعہ

میری شادی کا قصہ آپ حضرات نے سن لیا ہے اس سے سبق لجھے۔ اپنا قصہ تو سنادیا اپنی بھی کا قصہ بھی سنادوں۔ جب میٹی کا نکاح ہوا میں اس وقت جامعہ دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا۔ اتنے بڑے ادارے میں سب سے بڑا استاذ جامعہ کے مہتمم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے وہ میرے استاذ تھے اور اپنے وقت کے سب بڑے مفتی، مفتی اعظم پاکستان۔ ان کا مقام و مرتبہ پوری دنیا میں مسلم تھا اور میرے تو شفیق استاذ تھے۔ اب سننے دارالعلوم میں نماز عصر کے بعد بھی کا نکاح ہونے والا تھا۔ نماز سے کچھ پہلے میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب دارالعلوم سے باہر کہیں شہر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ نماز کے بعد نکاح ہے ذرا اٹھر جائیے اور نکاح پڑھا کر جائیے برکت ہو جائے گی۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی بزرگ شخصیت، پھر ان سے اتنا گہر اتعلق، ان کو دو چار دن پہلے اطلاع دیتا یہ بات تو رہی الگ، عین وقت سے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں بتایا۔ بس خاموشی سے نماز اداء کی اور نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ سنت کے مطابق نکاح ہو گا جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کی بھی باقاعدہ دعوت نہیں دی بلکہ اعلان کر کے صرف اطلاع دی کہ سنت کے مطابق نکاح ہو گا جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں۔ دوسرے دن حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ملے۔ فرمانے لگے کہ کچھ لوگوں نے آپ کی شکایت کی کہ آپ نے مجھے بھی اطلاع نہ دی حالانکہ میں آپ کے سامنے اسی وقت شہر جا رہا تھا نہ مجھے اطلاع دی نہ انتظار کیا بلکہ خود ہی نکاح پڑھا دیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے شکایت کرنے والوں کو میں نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ایک دائرے کے اندر اگر پابندی رہے تو بہت اچھا ہے، لیکن دائرے سے کھک کر انسان ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو بس پھر

خطبہ الشیعہ

ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس کی کوئی انہانیں رہتی۔ بس کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت خوب کیا اگر آپ صرف میری رعایت کر لیتے تو بھی اعتراض ہوتا آخر دارالعلوم میں اور بھن تو بڑے بڑے اساتذہ ہیں ان کو دکھ ہوتا اور کہتے کہ اتنے عرصہ سے ہم ساتھ پڑھاتے آرہے ہیں اتنا قریبی تعلق ہے لیکن ہمیں بتایا تک نہیں۔ اب کسی کو کہنے کا منہ نہیں رہا کہ ہمیں کیوں نہ بتایا؟ بجائے اس کے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کوشکایت ہوتی آپ بہت خوش ہوئے۔

اصول کی پابندی:

مزید سننے ہمارے ہاں اصول کی پابندی کس حد تک ہوتی ہے۔ میرے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو سوچا کہ دعوت ویمه میں کن کن لوگوں کو بلا یا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے درجے میں تو بڑے بڑے علماء اور بزرگ رکھے جائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ ان اکابر کو تو پہلے درجے میں رکھا۔ دوسرے درجے میں دارالعلوم کے درجہ علیا کے اساتذہ و طلبہ کو رکھا تیرے درجے میں اپنی مسجد کے بالغ نمازی رکھے۔ یہاں ہماری اصطلاح میں بالغ وہ کہلاتا ہے جو ڈاڑھی منڈانے اور کٹانے کے گناہ سے محفوظ ہو، جو شخص ڈاڑھی منڈا تایا کٹا تا ہے اس کا جسم اگرچہ بالغ ہو گیا لیکن عقل بالغ نہیں ہوئی اس لئے ہم اسے نابالغ کہتے ہیں۔ لڑکے کے ویسے میں مسجد کے بالغ نمازوں کی دعوت کی۔ اس موقع پر گھر والے کہنے لگے کہ جو خواتین بیان سننے آتی ہیں ان میں سے دو سے مجھے مناسبت ہے۔ یوں تو بیان سننے سینکڑوں خواتین آتی ہیں لیکن ان میں سے صرف دو سے مناسبت ہے انہیں بلا یا جائے تو اچھا ہے میں نے کہا کہ اگر میں نے بلا یا تو یہ میرے اصول کے خلاف ہو جائے گا لہذا اپنا اصول توڑنے کی بجائے آپ کی طرف سے ان دونوں خواتین کو

دھوت دیتا ہوں لیکن ان کے شوہر ہمارے دائرے میں نہیں آتے اس لئے وہ دائیرے سے باہر ہی رہیں گے۔ میں نے دنوں کے شوہروں کو ایک ایک کر کے فون کیا کہ گھر والوں نے آپ کی بیگم صاحب کی دعوت کی ہے میں نے نہیں کی اس لئے کہ وہ میرے دائیرے سے باہر ہیں۔ گھر والوں نے ان کی دعوت کی ہے آپ کی دعوت نہیں۔ صاف صاف کہہ دیا انہوں نے کہا ہم اپنے گھر والوں کو پہنچا دیں گے گھر والوں کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا وہ تدبیریں ہیں ایک یہ کہ گھر والوں کو پہنچا کر چلے جائیں پھر اندازے سے اتنے وقت کے بعد جس میں وہ کھانے سے فارغ ہوں واپس آکر لے جائیں۔ گھر والوں کی خاطر یہ تکلیف گوارا کر لیں۔ دوسری آسان تدبیر یہ ہے کہ گھر والوں کو اندر بھج دیں اور آپ خود مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائیں جب تک وہ کھانا کھائیں آپ عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ کتنی عمدہ تدبیر ہے۔ میں نے اپنا اصول نہیں توڑا صرف وہ شخص دائرہ سے باہر تھے انہیں باہر ہی رکھا اگر دائیرہ میں ذرا سی وسعت پیدا کر کے صرف ایک شخص کی بھی رعایت کر دیتا تو کتنے لوگوں کی زبانیں کھل جاتیں کہ دیکھئے فلاں کو تو بلا لیا مگر ہمیں نظر انداز کر دیا۔ فلاں کی بے جارعایت کی اور ہمیں پوچھا تک نہیں۔ پھر ایک ایک شخص کو کون چپ کرائے۔ لوگوں کی زبانوں سے پچنا بہت مشکل ہے اس لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرے اور لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ کوئی راضی رہے یا ناراض ہم نے تو دائیرہ کھٹیج کر کام آسان کر دیا جو اس کے اندر آجائے بلا لیں گے باہر رہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ خواہ کچھ بھی کہتے رہیں۔ دائیرہ کھٹیج کر اس تک محمد درہنے میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں مگر اسے بڑھانے میں مصیبت اور دردسر ہی ہے۔

اب یہی قصہ لے لیجئے میں نے کہلوادیا تھا کہ صرف دوہما، ان کے والد اور بھائی آئیں کسی اور رشتہ دار کو مت لا ایں مگر لے آئے۔ میرے بھی بہت قریبی رشتہ دار یہیں کراچی میں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک بہت بڑا گھر اتنا یہیں بہت قریب

خطبات الرشید

مکشن اقبال میں ہے۔ ان سے ایک چھوٹ چار رشتے ہیں۔ گھر والوں کے بھائیوں ہیں اور ان کی الہیہ گھر والوں کی بھائیوں کی بھائی ہمارے گھر میں ہماری بھائی، ان کے گھر میں اتنے قریبی رشتہ دار ہیں مگر ان لوپاں نہیں۔ اگر وہ شکایت کریں تو میں ان کو سوائے اس کے کیا جواب دوں گا کہ دوسروں کو بھی میں نے روکا تھا لیکن وہ از خود ہی چلے آئے۔ بس رشتہ داروں کی خاطر یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو میری طرف سے ان کو کسی شکایت کا موقع نہ ملے ورنہ اصل جواب جس کے لئے ہر مسلمان کو فکر مندر ہنا چاہئے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ رشتہ داروں کے سامنے جواب دہی تو صرف اور صرف ان کی دل جوئی کے لئے ہے۔

(دولہا کو مخاطب ہو کر) آپ اور آپ کے والد صاحب اور بھائی میرے کمرے میں آجائیں آپ کو چند منٹ اپنے کمرے میں بٹھاؤں گا دوسرے حضرات ۔ ہیں تو مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائیں اور چاہیں تو دفتر میں جا کر بیٹھ جائیں۔ جن حضرات کو بلوایا تھا ان کو تھوڑی دری کے لئے اپنے خصوصی کمرے میں لے جا رہا ہوں اور جو حضرات خود تشریف لائے ہیں وہ باہر رہیں گے تاکہ کچھ امتیاز ہو جائے کہ کون اجازت سے آئے اور کون بلا اجازت۔ (دولہا بولے) حضرت والا کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا گیا ورنہ میں ایسی غلطی ہرگز نہ کرتا دولہا کے والد بولے حضرت ہم معاف چاہتے ہیں (حضرت والا نے فرمایا) معافی مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں بس میں نے اپنا اصول بتا دیا کہ ہمارے یہاں یہ اصول ہے اور یہ کہ ہم اپنا اصول کسی قیمت پر توڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اصول کی پابندی اگر یہاں بھی نہ ہو تو دنیا میں کہاں ہو گی؟ (انہوں نے دوبارہ کہا) حضرت! یہ غلطی آپ معاف فرمادیں (فرمایا) نہیں ایسی کوئی بات نہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلئے آپ کی تسلیم کے لئے کہہ دیتا ہوں میری طرف سے سب کچھ معاف ہے۔

یا اللہ! ہمارے تمام معاملات اپنی مرضی کے مطابق بنادے۔ ہماری زندگی،

موت، شادی اور غمی کو یا اللہ! ہمارے تمام افعال و اقوال اور تمام تر حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بنा۔ اپنی رضا عطا فرما۔ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائجس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائجس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ! ہر قسم کی نافرمانیوں سے برائیوں سے بچا کر دنیا و آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ! اس عقد کو جانبین کے لئے مبارک فرما۔ یا اللہ! انہیں دین و دنیا کے ہر کام میں ایک دوسرے کا معاون بننا۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت والفت پیدا فرما اور انہیں ایک دوسرے کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں راحت و سکون کا ذریعہ بننا۔

وصل اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی الہ
وصحبه اجمعین والحمد للہ رب العلمین۔

لَهُمْ لِي وَلِي

شیخ پردو

— وَعْظ —

فِي الْحَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْجُنُونِ أَقْدَمْتُ لِرَسْنِ الْجَنَّةِ حَمْمَةً إِلَى الْعَالَمِ

— نَاسِئْ —

کتاب کہدا

ناظم آباد لاکراچی

فَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأَرْضَ مَهْوَى لِلشَّيْطَانِ إِذَا دَخَلَهُ
وَعَذَّلَهُ
شَرِعِيٌّ پُرْدَه
نَازِلٌ
جَامِعٌ مسْجِدٌ دَارُ الْإِقْنَاءِ وَالرِّشادِ نَاظِمٌ آبَادِ کَپُچِي
بِعْقَامٌ
بِتَارِیْخٍ
بِوقْتٍ
بَعْدَ نَهَارِ عَصْرٍ
تَارِیْخُ طَبْعَهُ مجلدٌ نَّ مُحَمَّدٌ ۱۴۲۳ هـ
طَبْعَهُ حَسَانٌ پَرِنْگَ پَرِسْ فُونِ ۰۱۹-۰۲۱-۲۲۳۱۰۲۱
نَاثِرٌ
کَاتِبٌ کَھْرَبَرَا نَاظِمٌ آبَادِ بَرِرَہ کَپُچِي ۷۵۶۰۰
فُونِ ۰۱۹-۰۲۱-۲۲۳۲۱۰۲۱ فُلَیْسِ ۱۳۸۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

واعظ

شرعی پردا

(ربع الثاني ۱۴۰۳ھ)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَّ
بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يُشْرِقُنَّ وَلَا يُزَرِّنَّ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِنَّ
بِبُهْتَنٍ يَفْرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

(۲۸ - ۱۲) ﴿

”اے نبی! جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ انہیں ان
باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی اور نہ
چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور
نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے باتھوں اور پاؤں کے درمیان
بنالیں اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی تو آپ ان کو
بیعت کر لیا کجیے اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کجیے بے شک
اللہ عفور رحیم ہے۔“

اس زمانہ میں ایمان پر بیعت ہوا کرتی تھی کہ ہم ایمان لے آئے، جو شخص ایمان

لانا چاہتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کرتا تھا کہ ایمان پر بیعت کر لجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”جب یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورت میں آئیں اور آپ سے بیعت کی درخواست کریں تو آپ ان سے چند چیزوں کا وعدہ لیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو بیعت کرنے کا طریقہ:

یہ یاد رکھیں کہ عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوتی تھیں تو پرده میں ہوتی تھیں، پرده ہی کا بیان چل رہا تھا، اس لئے یہ بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان ہے، وہ عورتیں جو ایمان لانے کے لئے بیعت ہونا چاہتی ہیں تو وہ بھی پرده سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرده ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرده کروار ہے ہیں، اب آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاک دامن ہیں ہمارے یہاں پرده کی ضرورت نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ لوگ زیادہ پاک دامن ہیں؟ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن یعنی صحابی عورتوں سے ان کی خواتین زیادہ پاک دامن ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو امت کی مائیں ہیں ان کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پرده تھا، تو کیا آج کل کی عورتیں جو نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتیں، بلکہ پاکی اور پلیدی تک کی تمیز نہیں رکھتیں ان سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ کچھ سوچنا تو چاہئے کچھ غور کرنا چاہئے۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ بیعت کے وقت کوئی عورت اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں دیتی تھی، خواتین سے بیعت کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑیں، ہاتھ کے اشارہ سے بیعت ہوتی تھی، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے رسول ہیں،

اور والد کے قائم مقام ہیں، یہ تعلق اور یہ رابطہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس پر پرده کا اتنا اہتمام۔

شرک سے بڑا گناہ:

فرمایا کہ جب یہ عورتیں آئیں، ایمان پر بیعت کرنے کی درخواست کریں تو آپ بیعت کے وقت ان سے وعدہ لیں کہ "أَن لَا يُشْرِكَنَ بِإِلَهٍ شَيْئًا" سب سے پہلی بات یہ کہ "اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا" گذشتہ بیان میں اس پر بات چل رہی تھی یہ آیت عورتوں کے بارے میں ہے مگر اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتوں سے اس بات پر بیعت لینے کا ذکر ہے، مگر ظاہر ہے کہ مردوں کے لئے بھی یہی احکام ہیں، "اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے" سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتے؟ میرے "عظیم ایمان کی کسوٹی" میں تفصیل سے یہی بیان ہے، ہر شخص یہ سوچے کہ وہ شرک سے بچتا ہے یا نہیں؟ شرک کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر کو ترجیح دینا یہی شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا شرک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا پھر تو وہ شرک سے بھی اوپنجی بات ہو گئی، اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف آپ کے ماحول کا، معاشرہ کا، والدین کا، بھائیوں اور بہنوں کا، احباب و اقارب کا، یوں کا یا یوں کے لئے میاں کا، تو دونوں کے درمیان مقابلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں، اگر کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، دیور اور جیٹھے کے سامنے، بچپڑا، پھوپھی زاد کے سامنے، ماموں زاد، نالہ زاد کے سامنے، بہنوئی، نندوئی کے سامنے، پھوپھا، خالو کے سامنے، اگر چہرہ کھولنا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، میں نے اسے حرام کر دیا ہے ایسا ہر گز مت کرنا، اور دوسری طرف یہ سارے "زاد" یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پرده کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے دیور کہتا ہے کہ اگر پرده کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا،

بہنوئی کہتا ہے پرده کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، نندوئی کہتا ہے پرده کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، ایسی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں یہ واقعات میرے علم میں ہیں، ایک خاتون نے بہنوئی اور نندوئی سے پرده کر لیا تو وہ لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے یہ کہہ کر کہ ہم کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرک سے بڑھ کر گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے مقابلہ میں اعزہ واقارب کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، ان کے ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھا کر عمل کر رہے ہیں، ان کا حکم مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے، شرک سے کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے، مگر آج کا مسلمان برابر تو کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیتا ہے، اپنے اعزہ واقارب سے اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتا، اعزہ واقارب کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہیں، غیر کے حکم کو اتنا مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اتنا نہیں مانتا۔

اس کے بعد اپنے نفس کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ گناہ کا کام مت کرنا، اگر کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مگر دل کہتا ہے کہ یہ گناہ بھی کرلو، یہ گناہ بھی کرلو، نفس کے تقاضے ہیں کہ گناہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت کرو، نفس کہتا ہے کہ گناہ کرو، ایسے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہے، ان کی محبت کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے نفس کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرتے تو معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، نفس کی اطاعت کی، گناہ کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے، تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے بڑا اللہ مانتے ہیں۔

فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ اپنی خواہش نفس کو اللہ بنائے ہوئے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کا قصہ اکثر بتاتا رہتا ہوں، اسے سوچتے رہنا چاہئے، وہ اکیلے بیٹھے بول رہے تھے:

”نہ میں تیرابندہ نہ تو میرا اللہ، تیری بات کیوں مانوں؟“

کسی نے سن لیا حاکم سے شکایت کر دی کہ یہ کفر بک رہا ہے، حاکم نے بلا کر پوچھا آپ کے خلاف یہ شکایت ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے: ”نہ میں تیرابندہ نہ تو میرا اللہ، تیری بات کیوں مانوں؟“ انہوں نے کہا:

”ہاں صحیح ہے، میں یہ کہہ رہا تھا، مگر میرا مطلب ان لوگوں نے نہیں سمجھا، میرا نفس کسی گناہ کا تقاضا کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں گناہ کرو، میں نہیں کر رہا تھا، وہ مجبور کر رہا تھا، بہت اصرار کر رہا تھا کہ یہ گناہ کر لو تو میں نے نفس کو خطاب کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے مرد و نفس! نہ میں تیرابندہ، نہ تو میرا اللہ، تیری بات کیوں مانوں؟ یہ تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا۔“

نفس سے کبھی کبھی اسی باتیں کیا کریں، جہاں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں فوراً سوچئے کہ میرا اللہ کون ہے؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ بندہ ایک کا اور غلامی کر کے کسی دوسرے کی؟ جو ایسا کرتا ہے اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے بڑا سمجھا، نفس کی عظمت زیادہ کی۔

رزق کا مالک کون؟

فرمایا کہ بیعت یوں یعنی:

﴿عَلَّٰٰ أَنَّ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُ وَلَا يَرْتَبِعَ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (ب ۲۸ - ۱۲)

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔“

نہ ماں کونہ باپ کو، نہ بھائی کونہ بہن کو، نہ شوہر کونہ بہنوئی کو، نہ مندوئی اور نہ اپنے نفس کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کا حکم نہیں مانیں گی۔

”چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔“

اس زمانہ میں اولاد کو قتل کرنے کا دستور تھا، بعض لوگ تو صرف لڑکیوں کو قتل کرتے تھے اس جہالت سے کہ کوئی داماد نہ بن جائے، اور بعض لوگ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں ہی کو قتل کرتے تھے کہ رزق کہاں سے آئے گا؟ جیسے آج کل کی نالائق حکومتوں کا خیال ہے، جب لوگ کوئی دعوت کرتے ہیں تو پچاس کو بلانا ہو تو احتیاطاً سانحہ (۲۰) کا کھانا تیار کرواتے ہیں تاکہ وقت پر کم نہ پڑ جائے، ضبط تولید کے مشورے دینے والوں کو اتنی عقل بھی نہیں کہ ہم تو سو (۱۰۰) کی دعوت کریں تو ایک سو پچس (۱۲۵) کا کھانا پکوانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے نفوس پیدا فرمادیے کیا ان کو اس کا علم ہی نہیں کہ نہیں کتنے نفوس کو کھانا کھلانا ہے، اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے علم و مصلحت سے بڑی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کو بے وقوف سمجھتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہی نہیں کہ ہم جتنی رو جیں پیدا کر رہے ہیں ان سب کا انتظام کرنا ہے، یا یہ کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کہیں کسی کو نے میں سوئے پڑے ہیں اور رہ جیں خود بخود نکلی چلی جا رہی ہیں، ان کو پتا ہی نہیں کہ کتنی پیدا ہو گئیں؟ ہائے! آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ کہلائیں مسلمان اور ایسے نظریات؟ یا اللہ! یا تو یہ لوگ اسلام کا دعویٰ چھوڑ دیں یا ان کو صحیح مسلمان بنادے۔

اولاد کے قتل سے بڑا جرم:

وہ لوگ اولاد کو اس لئے قتل کرتے تھے کہ رزق کہاں سے آئے گا؟ قتل کر کے ان کی دنیوی زندگی ختم کر دیتے تھے، مگر اس سے بچوں کا فائدہ ہو جاتا تھا، وہ یوں کہ وہ

بالغ ہو کر حالتِ کفر میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے، مگر بچپن میں مر جانے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اگر جنت میں نہ بھی گئے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کفار کی نابالغ اولادِ مر جائے تو اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن بہر حال جہنم میں نہیں جائیں گے، عذاب سے فی گئے، دنیا کی زندگی باقی نہیں رہی، بہر حال مرنا تو تھا ہی ذرا پہلے مر گئے، مگر آج کا مسلمان اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، کافر قتل کر کے اولاد کو جہنم سے بچا لیتے تھے اور آج کا مسلمان اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، برے ماحول میں بھیجا، برے معاشرے میں تربیت دلانا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں بھیجا ہے۔

فرمایا کہ اس بات پر بیعت کریں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اللہ اذ راسوچنے کہ آج کل آپ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرنے سے کہیں زیادہ سخت سزادے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ جہنم میں بھیج رہے ہیں یا نہیں؟

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانا:

﴿وَلَا يَأْتِينَ بِثُمَّةٍ﴾ (ب ۲۸ - ۱۲)

تَرْجِحَهُمْ: "کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔"

سوچئے کہ آپ خانہ زادروسم اور خود ساختہ بدعاات کو دین اسلام میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان نہیں لگا رہے؟ اس کی تفصیل میرے وعظ "بدعاات مروجہ" میں دیکھیں، جب کسی انسان پر بہتان لگانا جائز نہیں، اور ایسا سخت جرم ہے کہ اس سے نکتے پر بیعت لی جا رہی ہے تو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانا کتنا بڑا جرم ہوگا؟

شرک کے بعد چار باتیں گنو کر آگے ایک قاعدہ بیان فرمادیا:

﴿وَلَا يَعْصِيَنَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (ب ۲۸ - ۱۲)

تَرْجِمَة: ”کسی نیک کام میں آپ کے خلاف نہیں کریں گی۔“
آپ کا جو حکم بھی ہوگا اس کو تسلیم کریں گی۔

دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا:

میں بیعت ہونے والے کو پہلے کفر، شرک، بدعت، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرواتا ہوں، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ادا کرنے کا وعدہ لیتا ہوں، اس کے بعد یہ وعدہ لیتا ہوں کہ ”میں پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا“، اس زمانے کا مسلمان جہاد سے بہت ڈرتا ہے، لمبے لمبے وظیفے تو پڑھ لے گا مگر جہاد کے تصور سے بھی جان نکلتی ہے، اس لئے میں بوقت بیعت یہ وعدہ بھی لیتا ہوں:

”اگر اللہ کی راہ میں جان یا مال دینے کا موقع پیش آیا تو بخوشی دوں گا۔“

اگر کوئی صدق دل سے یہ وعدہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنی ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، وہ آخرت کے لئے کوشش کرنے والے کو کبھی محروم نہیں فرماتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خواتین بیعت کی درخواست کرتی تھیں ان کے لئے آخری جملہ بیعت میں وعدہ لینے کا یہ ہوتا تھا کہ کسی بات میں بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، جو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں وہ آپ کی بیعت میں شامل ہو جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئیں، پھر بیعت ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ جی! پرداہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، فلاں گناہ چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، مسلمان بننا تو بڑا مشکل ہے، اگر مسلمان بننا بڑا مشکل ہے تو اس مشکل کام کو چھوڑ دیجئے کون کہتا ہے کہ آپ مسلمان بنیں، اسلام کو چھوڑ دیجئے، اسلام کو تو نہیں بدلا جاسکتا، اسلام تو وہی رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کا قانون نہیں بدل سکتا، اگر کسی کو یہ اسلام مشکل

گلتا ہے تو چھوڑ دے، اس کو مسلمان رہنے کی کیا مجبوری ہے؟ جو دین بھی آسان لگتا ہے وہی دین اختیار کر لے۔

سے یا مکن با چیل باناں دوستی

یا بنا کن خانہ برانداز چیل

ترجمہ: ”یا تو ہاتھی والوں سے دوستی مت رکھو، یا پھر مکان اتنا بڑا بناؤ کہ جس میں ہاتھی سما سکے۔“

ان کے ساتھ دوستی ہے تو نہانے کے طریقے سوچو۔

لبی چوڑی بات سے کیا فائدہ؟ دوٹوک بات کرو، دو کاموں میں سے ایک کام کر لو، دو غلاپن صحیح نہیں ہے، یا تو اپنا بدن دوست کی رضا میں فنا کر دو، دوست کا جو حکم ہو اس پر اپنے آپ کو مٹا دو ”مردہ بدست زندہ“ بن جاؤ۔ مردہ کو زندہ لوگ اٹھیں پلٹیں، جیسے جی چاہے کریں، دوست کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو، مکمل مسلمان بن جاؤ، کوئی اپنی خواہش باقی نہ رہے، اپنے آپ کو اس دوست کے پرورد کر دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو محبت کا دعویٰ چھوڑ دو، محبت کا دعویٰ کر کے حکم کے خلاف کرنا نفاق ہے، بچپن میں جب مجھے پوری طرح ہوش بھی نہیں آیا تھا ایک شعر کہیں سے سن کر یاد ہو گیا تھا اور وہ میں بہت

سے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا

دونغلہ پن چھوڑ دیجئے یا تو موم بن جائیے اور اگر موم بننے کو تیار نہیں تو پھر بن

جائیے۔

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِيمَانُهُمْ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

﴾ وَلَقَدْ فَتَنَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ (ب ۲۰۲ - ۲۰۳)

تَرْجِمَة: ”کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر جھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور ہم تو ان لوگوں کو آزمائچے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔“

﴿فَالْيَتِ الْأَغْرَى بِهِ أَمْنًا أَقْلَمْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آتَلَمَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَيْمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (ب ۲۲ - ۱۴)

تَرْجِمَة: ”ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں فرمایا، بہت سے لوگ کہتے ہیں: ”امنا“ وہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں موسمن کون ہوتے ہیں؟“

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ لَذْهَابٌ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (ب ۲۲ - ۳۶)

تَرْجِمَة: ”کسی موسمن مرد اور کسی موسمن عورت کے لئے کوئی گنجائش نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آجائے پھر وہ اسے قبول نہ کرے۔“

یہاں صرف ”موسمن“ پر اکتفاء نہیں فرمایا، تاکہ موسمن عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو مردوں کو کہا گیا ہے ہم تو آزاد ہیں، ہمارے لئے کچھ نہیں ہے، اس لئے خاص طور پر صراحت کے ساتھ فرمادیا کہ کسی موسمن مرد اور کسی موسمن عورت کے لئے گنجائش نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دے دیا تو پھر بندہ کا اپنا اختیار بھی کچھ اس میں ہو، ان کو کوئی اختیار نہیں، جو حکم ہو گا اس پر عمل کرنا ہو گا اور جو نہیں کرتا وہ سخت گمراہ ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

» فَلَا وَرِيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقًّا يُحَكِّمُواكَ فِيمَا شَجَرَ
بِنَهْمَةَ ثُمَّ لَا يَحْدُثُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿٦٥﴾ (ب ۵۰ - ۶۵)

کیا غلام انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قسم کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے جن بندوں کو پیدا کیا وہ ایسے نالائق ہوں گے، ایسے نالائق ہوں گے ان کو سمجھانے کی خاطر مجھے قسمیں بھی اٹھانا پڑیں گی، ”فَلَا وَرِيْكَ“ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تیرے رب کی قسم! ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا؟ بھی کوئی فرد ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا خواہ وہ کچھ بھی کہتا رہے، اسلام کے کیسے ہی دعوے کرتا رہے، مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں، آج کا مسلمان ”عبد الرحمن“ سے ”رحمٰن“ بن گیا ہے، یہ اچھی ترکیب سوچی ہے، ”عبد الرحمن“ کہلاتا ہے تو پھر کام کرنے پڑیں گے نا، اس لئے ”عبد“ اتار دو ”رحمٰن“ بن جاؤ اب یہ خود ”رحمٰن“ بن گیا ہے خود اللہ بن گیا ہے، اب اس کی حکومت ہے، معاذ اللہ! اللہ بھی اس کا بندہ بن گیا ہے۔

ایک شخص کا نام ”عبداللہ“ تھا، وہ ٹیلی فون پر بتاتا تھا کہ ”اللہ بول رہا ہوں“ سب ایسے ہی ہیں، ”روف صاحب“ ”حق صاحب“ ”شکور صاحب“ اور اگر کسی نے بہت ہی رعایت کی تو کیا ہوا؟ ”اے رحمٰن“ بن گئے، یعنی ”عبد“ بنے میں ذلت محسوس کرتا ہے، ”عبد“ کے معنی ہیں ”بندہ“ اور ”بندہ“ کے معنی ہیں ”غلام“ احکام کو تسلیم کرنے والا، اس کو بندہ بننے میں، احکام تسلیم کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا غلام بننے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونے میں عار آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو ”روف“ خود ہی بن گیا، ”رحمٰن“ بھی خود ہی بن گیا ”رحمٰن“ بھی خود ہی بن گیا ”عظیم“ بھی خود ہی بن گیا، اور اگر کسی نے کہا کہ اے! کیا کہہ رہو ہوتم اللہ نہیں ہو، تو کہتے ہیں میں تو ”اے رحمٰن“ ہوں ”عبد الرحمن“ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا تو مصیبت آجائے گی، ”عبد الرحمن“ بھی نہیں کہے گا،

والدین نے تو بندہ بنانے کی کوشش کی مگر یہ بندہ بننا نہیں چاہتا، اللہ کے بندو! آئندہ ایسا نام ”عبد“ والا نام رکھنا چھوڑ دیجئے، نتیجہ سامنے ہے، نام ”عبد الرحمن“ رکھتے ہیں وہ ”رحمٰن“ بن جاتا ہے، ایسے نام رکھنے ہی نہیں چاہئیں جن کا نتیجہ برا ہو۔

معیاری ایمان:

ہاں تو بات چل رہی تھی کہ ہرگز ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہو گا جب تک کہ آپس کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم نہیں کر لیتے، صرف یہی نہیں کہ حکم تسلیم کر لیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے حکم میں ذرہ برابر بھی مشکل و شہہ نہ ہو، اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی ناگواری نہ ہو، تو مومن نہیں ہو سکتے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پردوہ وردہ کے احکام بہت مشکل ہیں، آج کل ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ذرا سوچئے کہ اگر کسی حکومت نے ایسے قوانین بنادیئے جن پر رعیت کو عمل کرنا مشکل ہو تو کیا ہو گا؟ لوگ شور کریں گے کہ یہ بہت سخت قانون ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ حکومت بڑی ظالم ہے، اس کے خلاف جلوے کرو، جلوں نکالو، مردوں کے نفرے لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔

آج بھی اسلام پر عمل کرنا آسان ہے:

سو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ! ایسے ہی ظالم ہیں کہ ایسے احکام نازل کر دیئے جن پر انسان عمل نہیں کر سکتا، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم بالکل ظلم نہیں کرتے، ہم بڑے ہی رحیم ہیں، بڑے رحمٰن ہیں، ہم کبھی ظلم نہیں کرتے۔

﴿رُبِّكُمْ أَنْتَ رَبُّ الْأَنْوَارِ وَلَا يُؤْبِدُ بِعَذَابِ الْمُفْتَرِ﴾ (۱۸۵-۲)

ہم تو تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ہم تو آسان آسان احکام دیتے ہیں، ہم تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، سوچئے تو رب کریم کے دیئے ہوئے احکام ہیں، پھر وہ بار بار فرمائے ہیں کہ یہ بہت آسان ہیں، بہت ہی آسان، اور مسلمان اللہ

تعالیٰ کا بندہ کھلا کر آج یہ کہتا ہے کہ نہیں ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، آج کے معاشرہ میں نہیں ہو سکتا، میرے بارے میں تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شروع ہی سے ایسے معاشرے میں ہے، اس کے لئے کرنا کرنا کچھ نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کہیں آنانہ جانا، کسی سے نہ میل نہ جوں، ارے! میں بھی اسی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی دنیا میں رہ رہا ہوں، اب بھی رہ رہا ہوں، کہیں اوپر سے گرنہیں پڑا، میرا بھی خاندان ہے، اچھا مجھے چھوڑئے، میں ایسی خواتین کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں جن کا پورا خاندان بے پرده تھا، اور اب بھی بے پرده ہے، اور وہ امریکہ میں خود گاڑی چلایا کرتی تھیں، ایک نہیں کئی ایسی مثالیں ہیں، ان خواتین کے قلب پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ پرده کیا وہ پرده کیا کہ مثال قائم کر کے دکھادی، ان کے پرده پر پورا خاندان ناراض ہے، ان کی بہنیں ناراض، بہنوئی ناراض، نندوئی ناراض، ماں باپ ناراض، بھاوجیں ناراض، اور خود کس ماحول میں ہیں؟ امریکہ میں، اور امریکہ میں گاڑی خود چلاتی تھیں کیا ان کا خاندان نہیں ہے؟ ان کی مجبوریاں نہیں ہیں؟ کچھ تو سوچیں، انہوں نے پرده کے حکم پر عمل کیے کر لیا؟ بات یہ ہے کہ اگر انسان ہمت کر لیتا ہے تو پھر کوئی مجبوری سامنے نہیں آتی، اور جب کام کرنا ہی نہیں ہے تو ہزاروں مجبوریاں ہیں، یا اللہ! تیری وہ رحمت جوان خواتین کے دلوں پر نازل ہوئی تیرا وہ کرم جس نے ان کی ایسی دستگیری فرمائی کہ ان کے دلوں میں ایسا عظیم انقلاب آگیا کہ تیرے حکم کے سامنے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہ رہی، یا اللہ! تو یہی رحمت سب مسلمانوں کے دلوں پر نازل فرما، اور سب کی ایسی ہی دستگیری فرما۔

پرده کو بے کار سمجھنے کا وباں:

کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرده نہ کرنے سے کوئی خطرہ کی بات نہیں، ماشاء اللہ! ہماری بیوی بہت نیک ہے، بیٹیاں، بہنیں، بہنوئیں بہت نیک ہیں،

خطبات الرشید

بہت شریف ہیں، ان کی آنکھ میں توبہ ای آہی نہیں سکتی تو دل میں کہاں سے آئے گی؟ یہ تو بہت بعید ہے، اور ہمارے بھائی اور دوسرے قریبی رشتہ دار ہمارے چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد سارے زاد شامل کر لیں بہت ہی شریف زادے ہیں، اس برائی کا تو ہمارے یہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

یہ مسئلہ جتنا اہم ہے اتنی ہی اس معاملہ میں زیادہ غفلت پائی جاتی ہے عوام کے علاوہ خواص میں، علماء میں بھی بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، قرآن کریم کے صریح حکم پر عمل بالکل نہیں ہو رہا، گویا کہ یہ حکم قرآن کریم میں نازل ہی نہیں ہوا، ان کے عمل اور حالات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا پرداز کا حکم قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔

دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس اہم اور ضروری مضمون کے بیان کو آسان فرمادیں موثر بنادیں، دلوں میں اتار دیں، اس کی اہمیت دلوں میں پیدا فرمادیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس عمل کو قبول فرمائیں، اس میں برکت عطا فرمائیں، یعنی تھوڑی محنت پر نتیجہ زیادہ مرتب فرمائیں، اثر زیادہ عطا فرمائیں، آمین۔

میری خواہش یہ ہے کہ یہ مضمون زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کانوں میں پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور قبول فرمائیں "لا حول ولا قوة إلا بالله" یا اللہ! کام بنا صرف تیری مدد پر موقوف ہے، تیری دشمنی ہو گی، مدد ہو گی تو یہ کام ہو گا، بغیر تیری مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ تو مدد فرم۔

عبرت کے لئے ایک خاندان کا قصہ بتاتا ہوں جو بہت پارسا سمجھا جاتا تھا انہیں خود بھی اپنی پارسائی پر جب ناز اور غرور ہوا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور پرداز نہیں کیا تو انجام کیا ہوا؟ یہ کوئی گذشتہ زمانہ کا قصہ نہیں، بھی کا ہے، اور کراچی ہی کا ہے، اگر ان کے خاندان کی بے عزتی کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کے نام اور پتے بھی بتا دیتا، تاکہ خود جا کر دیکھ لیں، اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پرداز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر خاندان کو خود ہی بے عزت و ذلیل کیا

ہے، اب قصہ سنئے، اللہ کرے کہ بات دل میں اتر جائے۔

ایک حاجی صاحب تھے، بہت نیک، بہت ہی پارسا، ان میں دین کا جذبہ اتنا تھا کہ جب میں دارالعلوم کو رنگی میں تھا وہ شہر سے میرا وعظ سنئے وہاں جایا کرتے تھے، خود وعظ سنئے اور شیپ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی سنایا کرتے تھے، شہر سے کو رنگی پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں، کتنا مجاہد ہے، اب آمد و رفت کی سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں، ان دونوں میں تو اتنی سہولتیں نہیں تھیں، وہ بلا ناغہ ہر وعظ میں شریک ہوتے اور شیپ کرتے، اتنے نیک، اور لوگوں کو ان سے اتنی عقیدت اور ان پر اتنا اعتماد کہ لاکھوں کی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھیں، ایک بار ان کے کچھ عزیز میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ اس کے اپنے سالی سے ناجائز تعلقات ہو گئے، یہوی کے ہوتے ہوئے، اسی گھر میں یہوی موجود، سرال کے سب لوگ موجود اور سالی سے ناجائز تعلق ہو گیا، اور کیا کیا؟ چکپے سے پاسپورٹ بنایا اور کسی ملک کا وزیر الگوایا، ڈاڑھی منڈوائی، کوٹ پتلون پہنا، اور کسی غیر ملک میں بھاگ گئے۔ لوگوں کی امانتیں بھی سب کی سب لے گئے۔ بہت دیندار، مقدس اور پارسا نظر آتے تھے، ان کی صورت اور دینی حالات ایسے کہ کسی کو دور کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شخص ایسا برا ہو سکتا ہے، مگر ہوا کیا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ ہمارے یہاں تو ایسی بدکاری کا کوئی امکان ہی نہیں، میرے گھرانہ اور ما حول تو بڑا ہی پاک و صاف ہے، اب اس خوش فہمی اور خام خیالی کا کیا علاج؟

ایک بزرگ کا قصہ سنئے، ان کے ایک مرید سفر پر جانے لگے، خیال ہوا کہ باندی بہت حسین ہے، کہاں چھوڑ کر جاؤں؟ خطرات ہیں، سوچا کہ پیر صاحب ہی کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، پیر صاحب نیک تو تھے مگر ہو شیار نہ تھے، درحقیقت عقل و ہوش کے کمال کے بغیر انسان صحیح طور پر نیک نہیں ہو سکتا، اس لئے عقل کامل چاہئے، عقل جو وجی سے کامل ہوئی ہو، جس کو وجی کا نور حاصل ہو، عقل کامل ہوئی ہے جب جا کر

انسان پورا و بندار بنتا ہے، جیر صاحب کو مرید کی بے بی پر حرم آگیا، سوچا کہ برائی کا خطرہ واقعی ہے، اب اسے کہاں چھوڑ کر جائے؟ اسے خطرہ سے بچانا چاہئے، اجازت دے دی کہ اچھا میرے پاس چھوڑ جاؤ، قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ کہیں اچانک نظر پڑ گئی، اور رغبت ہو گئی، اور اگر وہ ہوتا کوئی ایسا ویسا پیر، ان حاجی صاحب جیسا جو سالی کو اڑا کر لے گئے تو وہ جیر صاحب تو بہت خوش ہوتے کہ اچھا ہوا مرغی خود ہی گھر میں پہنچ گئی، بہت خوش ہوتے گردوں نیک تھے، آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں تھا جیسے ہی خیال آیا اور دل میں رغبت پیدا ہوئی، فوراً پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ”یا اللہ! یہ کیا معاملہ ہے، کیسے بچوں؟“

امراض باطنیہ سے بچنے کا نسخہ:

ایسی حالت میں فکر ہونی چاہئے اور کسی سے نسخہ دریافت کرنا چاہئے، گھر بیٹھنے میں کام نہیں ہوتا، جہاں کسی گناہ کی طرف التفات ہو، توجہ ہو، رغبت ہو، فوراً کسی باطنی ڈائرنر کے پاس پہنچا جائے، کسی دینی طبیب کے پاس جا کر اپنے حالات بتائے جائیں اور نسخہ حاصل کیا جائے۔

نَفْسٌ نَّوْانٌ كُشٌّ إِلَّا طَلْ بَيْر
وَاسِنٌ أَيْنَ نَفْسٌ كُشٌّ رَا وَمَكْبِرٌ

نفس کو شراتوں سے روکنا، اس گھوڑے کو لگام دینا، یہ سوائے کامل کی صحبت کے نہیں ہو سکتا، کسی کامل کی صحبت اختیار کی جائے اور اپنے حالات بتائے جائیں، نسخہ حاصل کئے ہیں، ان نسخوں کو استعمال کیا جائے، اور پھر بعد میں یہ بھی بتایا جائے کہ ان نسخوں سے فائدہ ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو کتنا فائدہ ہوا؟ جسمانی علاج کے لئے ڈائرنر سے پہلے تو وقت لینا پڑتا ہے، وقت لینے کے لئے گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے، بہت بھاری فیس دینی پڑتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، اور پھر

جب دوبارہ دکھانا ہو تو پھر نئے سرے سے گھنٹوں قطار میں کھڑے رہیں، اور فیس بھی دوبارہ دیں، چند منٹوں میں ہزاروں روپے جیب میں ڈال لئے پھر مریض تدرست ہو یا نہ ہو، لیکن باطن کے ڈاکٹر مریضوں سے کوئی فیس نہیں لیتے اور نہ ہی ان کے ہاں مریضوں کو قطار میں کھڑے رہنا پڑتا ہے، مریضوں پر ان کی شفقت و محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کی دنیا و آخرت بنانے کے لئے رات دن محنت کر رہے ہیں، پھر ان کے نسخے ایسے اکسیر کہ ان کے استعمال سے صحت یقینی ہے، یہاں ناکامی کے وہم و گمان کا بھی کوئی گذر نہیں، باطنی ڈاکٹر سرکاری ملازم ہیں، اس لئے یہ مریضوں سے تو کوئی فیس نہیں لیتے مگر ان کی تخلوہ اس سرکاری خزانہ سے ہے، یہ بڑی سرکار (اللہ تعالیٰ) کے درباری لوگ ہیں، اس خزانہ سے ان کو کیا کچھ ملتا ہے؟ بس کچھ نہ پوچھئے، اس سے اندازہ لگائیں کہ جس دربار میں ذرا سی بات پر خزانے بھادیئے جاتے ہیں وہاں اتنی محبت کرنے والوں کے لئے کیا کچھ ہوگا، یہ سرکاری ڈاکٹر ایسے ہیں کہ ان کے پاس جانے والے مریض بھی سرکاری بن جاتے ہیں اور سرکاری خزانے سے ان کا وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، یہ لوگ ایک سینڈ میں کروڑوں کماتے ہیں، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جائے، آخرت کی فکر پیدا کر لے، وہاں کی دولت کمانے کی فکر ہو جائے تو چند سینڈ میں کروڑوں کمالے، یہ کیا فرمایا:

”کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان“

”ثقلیتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ“

العظمیم“ (رواہ البخاری)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، کیا پیارے کلمات ہیں، کیا ہی پیاری زبان ہے، فرمایا دو کلمے زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں مگر ترازو میں بہت وزنی، وہاں جب اعمال کا وزن ہو گا تو ترازو میں یہ دو کلمے بہت وزنی ہوں گے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ دو کلمے حمّن کو بہت ہی محبوب ہیں، تو جس زبان پر کلمے

جاری ہوں گے وہ زبان ان کو محبوب ہو گی یا نہیں؟ اور جس جسم میں وہ زبان ہو گی وہ محبوب ہو گا یا نہیں؟ یہ دلکشی کیا ہیں؟

”سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم“

ان کے ادا کرنے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ صرف تین سینٹ، میں نے گھر میں دیکھا تجربہ کے بعد بتارہا ہوں، اور فرمایا:

”لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنة“ (مسند

(احمد)

ایک بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے سے جنت کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے، یہ کلمہ کہنے میں بھی صرف تین سینٹ صرف ہوتے ہیں، تین سینٹ میں اتنا بڑا خزانہ پھر یہ خزانہ بھی جنت کا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ اگر اس دنیا جیسی ہزاروں دنیا پیدا کر دی جائیں تو وہ جنت کی اولیٰ سے اولیٰ نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتیں، مگر یہ خزانے جب ملیں گے کہ یہ کلمہ ذرا دل میں اتریں یعنی گناہوں کو چھوڑا جائے اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے اور یہ کلمات کہہ لئے تو ایسا ہو گا جیسے شہد کی بھری ہوئی بوتل میں چند قطرے سکھیا کے مدادیں، فوراً اثر ختم ہو جائے گا بلکہ سب زہر بن جائے گا۔

میں بتاتا رہتا ہوں کہ جب انسان باہر لکھتا ہے تو اگر کسی ناجائز چیز کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر پنچی کر لی تو یہ اتنا بڑا مقام ہے اور اس سے اتنے درجات قرب حاصل ہوتے ہیں کہ ہزاروں سال کے نوافل سے یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، جب ایک گناہ چھوڑنے پر اور گناہ کے تقاضے کے وقت اس سے فیجی جانے پر اتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہئے۔ اگر فکر پیدا ہو جائے تو پھر ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے اور جب فکر ہی نہ ہو تو ہدایت زبردستی نہیں ملتی۔

ان بزرگ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، غلطی کر بیٹھے، اجازت دے دی، کہ ہاں! باندی چھوڑ جاؤ، مگر جہاں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا فوراً علاج کی فکر ہوئی، اب تلاش کرنے لگے کہ کس کے پاس علاج کے لئے جاؤ؟ اس کے لئے بھی تلاش کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہر کس و ناکس کے پاس چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(الرَّحْمَنُ فَتَّلَ بِهِ، حَسِيرًا (۵۹) (ب ۱۹ - ۵۹)

ترجمہ: ”رحمٰن کی شان کسی باخبر سے پوچھئے۔“

باخبر کون ہے؟ یہ مضمون بہت طویل ہے آج بیان نہیں ہوگا، کچھ علامات ہیں، دلائل ہیں، حالات ہیں، جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص باخبر ہے، یہ علاج کر سکتا ہے، دوسروں سے علاج نہیں ہوگا، ان بزرگ نے تحقیق شروع کی کہ اس مرض کا علاج کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کی ترب پیدا ہو گئی، کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ وہاں پہنچے، اس شہر میں جا کر ان کا نام بتا کر معلوم کیا، کسی نے کہا۔

”ارے! کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو بہت بڑا بدمعاش ہے۔“

یہ بے چارے بہت پریشان ہوئے، جس نے بھیجا تھا اس سے آکر شکایت کی کہ آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ وہ بولے لوگ کچھ بھی نہیں، بہر حال آپ ان کے پاس ضرور پہنچیں، پھر گئے، تو بتایا گیا کہ فلاں شرایبوں کے محلے میں ان کا مکان ہے، وہاں پہنچے، مکان میں اندر گئے تو دیکھا کہ شراب کا پیالہ سامنے رکھا ہوا ہے، ایک حسین لڑکا بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، چونکہ ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، اور قلب میں بھی محسوس ہوا کہ ہاں! یہ کچھ ہیں، جو خود صاحب دل ہوتا ہے وہ صاحب دل کو پہچان لیتا ہے، پوچھا: حضور! یہ سامنے پیالہ میں کیا ہے؟ فرمایا شربت ہے، رنگ شراب کا تھا لیکن تھا شربت، پھر پوچھا: یہ لڑکا کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، پھر پوچھا: آپ نے شرایبوں کے محلے میں کیوں رہائش اختیار کی؟ انہوں نے فرمایا کہ شروع میں

خطبہ الرشید

جب میں اس مکان میں آیا تھا اس وقت یہ محلہ شرایبوں کا نہیں تھا، بعد میں لوگ شرابی بن گئے، مجھ پر شرعاً واجب نہیں کہ میں اپنا مکان نیچ کریہاں سے چلا جاؤں، اب ان صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اپنی ظاہری صورت ایسی کیوں بنا رکھی ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بد معاش ہے؟ ان پر ان مکی حالت منکشف ہو چکی تھی، فرمایا کہ میں نے خود کو اس لئے ایسا بنا رکھا ہے تاکہ مرید اپنی باندیاں میرے پاس نہ چھوڑ کر جایا کریں۔

دین ہر رشتہ پر مقدم ہے:

انہوں نے اس طرح سے احتیاط کی، ورنہ اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بدظفی کے موقع سے پچنا فرض ہے، اپنے آپ کو ایسا بانا جائز نہیں کہ لوگوں کو بدگمانی ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا قلب مضبوط ہونا چاہئے، کسی کی مردوت میں آکر ایسا کام ہرگز نہ کرے جس سے اپنے دین پر خطرہ کا کوئی بعید سے بعید امکان ہو، ثابت قدی سے کام لے اسی لئے تو فرمایا۔

سے دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است

دل پر وہ ضابطہ ہو کہ چاہے مزید منت ساجت کرے، خواہ ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو، دنیا کا کوئی فرد بھی ہو، جس کی بات مانے سے دین پر خطرہ ہو تو کسی کی مردوت میں ہرگز ایسا کام نہ کرے، بلکہ اپنے مالک حقیقی محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو کر یوں کہہ دے۔

سے اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری

اگر میرا اللہ مجھ سے ناراضی ہو اور دنیا والے سب راضی ہو جائیں تو باں برابر مجھے

فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اگر میرا اللہ راضی ہے تو ساری دنیا ناراض ہوتی رہے، میرا اس میں کچھ نقصان نہیں، قلب میں قوت ہونی چاہئے، اور قلب میں قوت جب پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وہ تعلق پیدا ہو جائے جس کے سامنے پوری دنیا کے تعلقات نیست و نابود ہو جائیں، قلب میں یہ قوت ہونی چاہئے کہ اگر کوئی مرید باندی واندی چھوڑنے آئے تو اس سے بچنے کے لئے اپنا ظاہر بگاؤنے کی ضرورت نہیں صاف کہہ دے ارے! تیری باندی و بچانے کے لئے میں اپنے دین کو خطرہ میں ڈالوں اور اپنی آخرت بر باد کر لوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تمہاری آخرت سنوارنے کے لئے میں اپنی آخرت بر باد نہیں کر سکتا، کسی کی جو تی کی حفاظت کے لئے اپنی گھڑی گنو دینا عقل کی بات نہیں ہے، جب کسی کی مردودت میں آکر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کیا جاتا ہے اس پر یہ و بال پڑتا ہے، اس قصہ سے کیا ثابت ہوا؟ وہ بزرگ تھے، متqi تھے، اسی لئے فکر پیدا ہوئی مگر انہوں نے اپنے نفس پر اعتماد کیا کہ باندی پاس رکھنے سے مجھ پر کوئی خطرہ نہیں، بس نفس پر اعتماد کرنے کی وجہ سے یہ و بال آیا، اللہ تعالیٰ نے دکھادیا کہ دیکھو! تمہیں اپنے تقویٰ پر ناز کیوں پیدا ہوا؟ اب ذرا ان لوگوں کی حالت کا اندازہ لگائیئے جو یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی خطرہ نہیں، خطرے سے غافل رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے۔

خطرے سے غافل رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے:

جو انسان یہ سمجھتا ہے سب سے بڑا خطرہ اسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی وجہہ ہیں، اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں:

❶ چہلی بات تو یہ کہ دشمن وارو ہیں کرتا ہے جہاں انسان غافل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”جہاں کہیں بھی خلوت میں دونا محروم مرد و عورت جمع ہوئے وہاں تمیرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔“ (ترمنی)

کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصری چیزے مقدس بزرگ بھی خلوت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی بدکاری میں جلا کر دے گا، عوام کا تو کیا کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جہاں بھی خلوت میں نامحرم مرد و عورت جمع ہوں گے وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے اور وہ بدکاری کرو کر چھوڑتا ہے، اسی لئے فرمایا کہ غیر سے اتنا پردا نہیں جتنا کہ شوہر کے اعزہ واقارب سے ہے، شوہر کے اعزہ واقارب سے زیادہ سخت پردا کا حکم ہے، فرمایا کہ شوہر کے رشتہ داروں سے اتنا سخت پردا کرو، اتنا ڈرو کہ جیسے موت سے ڈرتے ہو، جس سخت خطرہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے رشتہ داروں کو ”موت“ فرمایا بعینہ وہی خطرہ عورت کے نامحرم رشتہ داروں سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے رشتہ داروں کو ”موت“ کیوں فرمایا؟ اس لئے کہ غفلت اور اطمینان انسان کو ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے، فلاں آرہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارا دیور ہے، فلاں تو ہمارا پچاڑا بھائی ہے، فلاں پھوپھی زاد بھائی ہے، فلاں ماموں زاد بھائی ہے اور فلاں خالہ زاد بھائی ہے، جہاں ان سارے خطرات سے انسان غافل رہتا ہے سوچتا ہے کہ یہ تو اپنے ہی ہیں اور ان کے گھر میں آنے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ ان سے کسی قسم کی بدکاری ہوگی، شیطان غافل سمجھ کر وہیں حملہ کرتا ہے، خالہ زاد وغیرہ کو بھائی قرار دے کر ان سے بے تکلفی کا تعلق رکھا جاتا ہے، اس طرح یہ سب ”زاد“ ہمزاوی کی طرح ہر وقت لپٹنے رہتے ہیں، اللہ نے ان رشتہوں کے ساتھ بالخصوص شادی کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

﴿وَسَّنَاتِ عَمَّكَ وَسَّنَاتِ عَمَّتِكَ وَسَّنَاتِ خَالِكَ وَسَّنَاتِ

خَلَّتِكَ أَلَّقِ هَاجْرَنَ مَعَكَ﴾ (ب۔ ۲۲ - ۵۰)

چچا کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، ماموں کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں چاروں ”زاد“ کی تصریح فرمادی کہ ہم نے ان کو شادی کے لئے حلal کر دیا ہے، مگر اس زمانہ کا

دعا باز مسلمان ان کو بھیں بنا کر مرے اڑاتا ہے، پھر چاہیں تو بھن بھائی آپس میں شادی بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے عقل منع ہو جاتی ہے، اتنی موٹی سی بات، ماغ میں نہیں اترتی کہ بھن بھائی ہیں تو ان کی آپس میں شادی کیسے ہو گئی؟ بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں اور اپنی ہوس کے بندوں نے یہ جادو کی ڈبیہ بنارکھی ہے، اس میں ایک طرف سے دیکھیں تو بھائی بھن، فوراً اسی وقت دوسری جانب سے دیکھیں میاں بیوی، یا اللہ! تو ان دعا باز مسلمانوں کو چچے مسلمان بنا دے۔

❷ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا خاندان بہت پاک دامن اور نیک ہے، یہاں تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، بس جہاں کسی نے خود کو پارسا سمجھا اور دل میں عجب و پندرہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اسے گناہ میں جتنا کر دیتے ہیں۔

❸ ایسے خاندانوں کی بربادی کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم تو پارسا اور پاک دامن ہیں، ہمارے یہاں یہ بدکاری نہیں آ سکتی، یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بے کار سمجھتے ہیں، اگر کہیں کوئی خطرہ ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام نازل ہی کیوں فرمائے؟ یہ لوگ اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بے کار جانتے ہیں، سوجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بے کار بتائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کے دبال میں جتنا کر کے چھوڑیں گے اس پر یہ عذاب آتا ہے اس لئے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔

قرآن کے ساتھ آج کے مسلمان کا برداشت

اب ذرا سنئے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اچھا ہے آج

کے مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا حکم ہے؟ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کہیں قرآن خوانی کروادو، مکان بنایا تو خوانی کروالو، چائے بسکٹ کھالو، کوئی کارخانہ کھوالا تو خوانی کروالو، اور کوئی مر گیا تو پیسے دے کر خوانی کروالو، ایصالِ ثواب کردو، جن بھوت پڑھ گیا تو اسے طشتريوں پر لکھ کر پلاتے جاؤ، اور اس کے حصاء کھینچ لو، یہاں ہو گیا تو آیات شفاء پڑھ کر پھونکتے رہو، دم کرتے رہو، گھول گھول کر پلاتے رہو، یہ قرآن تو بڑا میٹھا میٹھا ہے جو لذ و کھلائے، چائے پلاتے بسکٹ کھلائے، یہ تو بڑا ہی مزے دار ہے۔

کسی نے کسی سے پوچھا کہ قرآن کریم کی دعائیں کون کون سی پسند ہیں؟ اس نے کہا، سبحان اللہ! قرآن کی دعائیں تو ساری ہی اچھی ہیں، لیکن مجھے ایک دعا بہت پسند ہے:

﴿رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَا يُبَدِّلُهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ (پ ۷ - ۱۱۴)

ترجمہ: "یا اللہ ہم پرآسمان سے دستِ خوان نازل فرماء۔"

پھر پوچھا، قرآن کا حکم کون سا پسند ہے؟ جواب دیا کہ حکم تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن مجھے تو ایک حکم بہت پسند ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا﴾ (پ ۸ - ۳۱)

ترجمہ: "کھاؤ پیو۔"

ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ نے قرآن کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ یہ قرآن کس مقصد کے لئے ہے؟ کیا ان مقاصد کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ اچھا ہے کہ قرآن کا مطلب صرف یہی سمجھا ہے، ورنہ اگر قرآن کا صحیح مقصد سمجھ میں آجائے اور معلوم ہو جائے کہ اس قرآن میں کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کو کیاڑی میں جا کر سمندر میں پھینک آئے گا، (معاذ اللہ) گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہو گا میرا یقین بلا دلیل نہیں، واقعات پر مبنی ہے، اس وقت صرف ایک قصہ بتاتا

ہوں، ایک شخص نے مجھے خود بتایا کہ اس کی بیوی نے ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کیا، بڑے شوق سے پڑھتی رہی، جب سورہ نور پر پہنچی اور وہاں آیا پرده کا حکم تو چلا اٹھی، بس بس رہنے دو ایسے قرآن کو، میں نے بس کی، توبہ کی، رہنے دو ایسے قرآن کو، اس شخص نے بتایا کہ اس نے بیوی کو بہت سمجھایا کہ پڑھ تو عمل نہ کرنا، اور شاید کبھی عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے دے، بیوی نے کہا، نہیں نہیں، بس کیا بس کیا، میں کبھی ایسے قرآن کو نہیں دیکھوں گی، مجھے ایسے قرآن کی ضرورت نہیں، میں نے توبہ کی ایسے قرآن سے۔ (معاذ اللہ)

اس عورت کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس وقت تو وہ اسے چوتھی ہو گی، آنکھوں سے لگاتی ہو گی، اچھے سے اچھے غلاف میں رکھتی ہو گی کتنی خوانیاں کرواتی ہو گی، اور جب اسے قرآن میں پرده کا حکم معلوم ہوا تو چھینیں نکل گئیں، اور چلانے لگی کہ مجھے ایسے قرآن کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہوا ایک پرده کا حکم، اس پر قیاس کر لجئے کہ جب قرآن کے سارے احکام سامنے آجائیں تو کیا ہو گا؟ بس یہی ہو گا کہ سارے قرآن جمع کر کے نیماڑی میں پھینک دو، یہی کہے گا آج کا مسلمان یا نہیں کہے گا؟ سوچنے اللہ! سوچنے، یا اللہ تو مدد فرماء، مسلمانوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرماء کہ آخر یہ قرآن کیا ہے؟ کیوں نازل ہوا؟ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج میں نزول قرآن کا مقصد بتاتا ہوں، اور اس لئے بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان سے یہ توقع ہے کہ ان شاء اللہ وہ قرآن کو سمندر میں نہیں پھینکیں گے، یا اللہ! اس دن (جمعہ) کی برکت سے اس جمع کی برکت سے سب کو پتا چل جائے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا:

﴿إِنَّهُ كَذِيرٌ، مَذَكُورٌ﴾ (ب ۲۹ - ۲۹)

ترجمہ: " بلاشبہ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔"

دنیا کے اسباب حاصل کرنے کے لئے، دنیوی ترقی حاصل کرنے کے لئے،

مال و دولت جمع کرنے کے لئے، جن، آسیب اور سفلی بھگانے کے لئے نہیں، یہ اور بات ہے کہ اس کی برکت سے یہ کام بھی ہو جائیں، مگر یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ فائدہ عارضی ہوگا، جب تک قرآن کا مقصد نزول نہیں سمجھیں گے اور اس میں بتائے گئے احکام پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک پر سکون زندگی ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی عذاب مسلط رہے گا، قرآن کریم جسمانی امراض کے علاج اور دینی امراض کی تخلیق کے لئے نازل نہیں کیا گیا، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ کتاب عمل کروانے کے لئے نازل کی گئی ہے۔

قرآن میں پرده کے احکام:

اب شعر قرآن کیا کہتا ہے:

❶ ﴿يَنِسَاءُ الْئِقْرَاءِ لَشَنَ حَكَمَرُ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَنْفَقْتِ
فَلَا تَخْضُعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا﴾ (ب ۲۲ - ۳۲)

مجھے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ نہ جانے کیا پڑھ رہا ہے؟ ارے! یہ قرآن میں ہے سورہ احزاب میں ہے۔ آج کے مسلمان کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اور مولویوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی پڑ گئی کہ اس طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی کہ یہ بھی قرآن میں ہے، یا اللہ! تو مد فرما، ہدایت فرم "لا حول ولا قوة الا بک" اصل دشکیری صرف تیری ہی طرف سے ہے، اگر تیری دشکیری نہیں ہوگی تو ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو ہی مد فرما، ہماری عاجزی پر رحم فرما، ہمارے ضعف پر رحم فرما، ایسے ما حول، ایسے معاشرہ میں یا اللہ! تو ہی مد فرما، دشکیری فرما، لوگ آج نزول قرآن سے چودہ سو سال بعد گناہوں میں رات دن دھت اور

مست ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہمارے یہاں کسی گناہ کا احتمال نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟

”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوا جب کسی ضرورت سے دین حاصل کرنے کے لئے کوئی شخص آکر دین کا مسئلہ پوچھنے تو اپنے لہجہ میں نرمی اور لپک پیدا نہ کرو، زناکت سے بات نہ کرو۔“

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن جن کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک پورے رکوع میں ان کی تطہیر اور پاک و امنی کا مقام بیان فرمایا ہے:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ الْرِّجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (۲۲ - ۲۳) (ب)

ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے کیا اس کے قریب کوئی خاشت و نجاست آسکتی ہے؟ کیا ان کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا تھا کہ غیر محروم کو جب مسئلہ بتائیں گی تو زناکت سے بولیں گی؟ یہ بات تو گمان میں بھی نہیں آسکتی، پھر جس کے بارے میں یہ وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، خیال بھی نہیں آ سکتا اسے روکا کیوں؟ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ زناکت سے بات نہ کریں، ان سے جب زناکت سے بات کرنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تو پھر یہ حکم کیوں فرمایا؟ اس لئے خوب سمجھ لیں اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی آواز میں جو طبعی و پیدائشی زناکت ہوتی ہے اسے خشونت و خشکی سے بدلو، بات آئی سمجھ میں؟ کبھی کسی غیر محروم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو عورت کی آواز میں جو پیدائشی زناکت ہے اس سے بھی بچو، آواز میں بحکلف درشتی اور روکھاپن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس زمانہ فساد میں کسی عورت کو مجبوری میں کبھی کسی غیر محروم سے بات کرنا پڑے تو بحکلف ایسا لہجہ بنائے کہ سننے والا یوں محسوس کرے کہ کوئی چڑیل بول رہی ہے۔

بات پوری طرح سمجھنے کے لئے چند چیزیں ذہن نشین کر لیں:

۱ ایک تو یہ کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتنا اوپنچا مقام ہے کہ ان سے گناہ کا وہم و مگان بھی نہیں ہو سکتا، گناہ کا و سورہ بھی نہیں آ سکتا، یہ ”مطہرات“ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے۔

۲ دوسری بات یہ امت کی مائیں ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف احتراماً امت کی مائیں نہیں فرمایا، بلکہ جس طرح حقیقی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی امت کے مردوں پر حرام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَيْفَيَةً﴾

عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿۵۲﴾ (ب ۲۲ - ۵۲)

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی یو یوں سے تم بھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔“

جس طرح ماں کے ساتھ کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے اسی طرح امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تا قیامت امت کے ہر فرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کا کوئی فرد آپ کی یو یوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔

۳ تیسرا بات، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بات کرنے والے کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کا تقویٰ وہ تقویٰ ہے کہ فرشتوں کو رشک آئے، جن کی پاک دائمی کی شہادت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دیں:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (ب ۲۸ - ۲۲)

ترجمہ: ”یہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم راضی اور جو ہم سے راضی۔“

اور فرمایا:

﴿وَكُلَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنُونَ﴾ (ب ۵ - ۹۵)

ترجمہ: ”سب کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ کہ سب کو بخشن دیا۔“

۲ ان کی آپس میں باتیں کیا ہوتی تھیں؟ دینی مسائل سیکھنا سکھانا۔

اب ساری چیزیں ملا کر دیکھئے، یہ عورتیں کون ہیں؟ امت کی مائیں ہیں، جو امت کے ہر فرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں، اور مرد کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی مقدس ہستیاں، اور کام کیا؟ دینی مسائل پوچھنا، ایسے موقع پر فرماتے ہیں کہ جب بات ہو تو زنانہ لہجہ میں جو پیدائشی نزاکت ہے اس کو خشی سے بدلا کرو، پیدائشی نزاکت بھی نہ آنے پائے، یہ تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہدایت دی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کیا ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَتْنَاهُنَّ مَتَّعًا فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ بَحَبَّاتِ﴾

(ب ۲۲ - ۵۳)

ترجمہ: ”جب بھی دین حاصل کرنے کے لئے امہات المؤمنین سے کچھ پوچھنا پڑے تو پردوہ کے پیچھے سے پوچھو۔“

سامنے آنے کی اجازت نہیں اللہ! غور کیجئے، جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے یہ مرد کون ہیں؟ اور یہ خواتین کون ہیں؟ کسی بزرگ نے تحسن بصری اور رابعہ بصریہ کا نام لیا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ مقدس عورتیں اور مقدس مرد ہیں، ان کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب دین بھی سیکھنا ہو تو پردوہ کے پیچھے سے بات کرو۔

قرآنی احکام سے کیسی غفلت:

﴿وَتَأْيِثَا النَّئِيْثُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّاْكَ وَبِنَافِكَ وَنَسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُذَرِّيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَّيْهِنَّ﴾ (ب ۲۲ - ۵۹)

مجھے نہیں آتی ہے اور رہ رہ کر تعجب بھی ہو رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ

خطبائُ الرشید

یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اللہ جانے کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ کرے یقین آجائے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہی ہے، مجھے تجھ اس لئے ہو رہا ہے کہ اس امت نے قرآن کو ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ جب میں قرآن کے احکام بتاتا ہوں تو انہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ قرآن ہی کے احکام ہیں، بھی سمجھتے ہوں گے کہ اللہ جانے یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سنئے! کیا حکم ہو رہا ہے:

”لَئِنْ نَبِيًّا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَرِمَادِ تَبَّعَهُ اِنَّمَا يَوْمُونَ سَعَادَةً وَمَنْ يُؤْمِنْ بِهِ مُؤْمِنٌ“
سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ جہاں کبھی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے
تو چادر میں لپٹ آ رکلا کرو، اور چادر کو چہرہ پر لکھا لیا کرو، تاکہ چہرہ پر کسی
کی نظر نہ پڑے۔“

﴿۶۰۷﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلَا يَخْفَظْنَ
عَيْنَاهُنَّ رَأَى مُتَدِينَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا أَظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبُنَّ
بِهِنَّ عَلَى جِهَتِهِنَّ وَلَا يَتَدِينَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَابَآءِهِنَّ أَوْ مَابَكَهُنَّ أَوْ
أَبْشَأِهِنَّ أَوْ أَبْشَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ دَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانَهُنَّ أَوْ أَثْيَرَتْ عَيْنَ أَفْلَى الْأَرْضَ مِنَ الْرِّجَالِ أَوْ
الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَادَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زَيْنَتَهُنَّ وَقُوْلُوْا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُهُمْ مُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿۶۰۸﴾

یہ سورہ نور کی آیت ہے، یا اللہ ا تو قرآن کریم کے انوار ہمارے دلوں میں اتار دے یعنی قرآن پر ایسا عمل ہو، ایسا عمل ہو کہ دنیا کی کوئی قوت اس کو روک نہ سکے، دل میں نور پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو جائے کہ اس

کے احکام پر عمل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے: فرماد تجھے مومنات سے، یعنی جو عورتیں یہ فرمودہ سننے کو تیار نہیں یا اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، وہ مومنات کی فہرست سے الگ ہیں، اس لئے جو عورتیں مومن ہیں آپ ان سے فرمائیں کہ وہ اپنی نظر س پنجی رکھیں اور اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں، وہ کیسے ہو گی؟ اس طرح کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے گریبانوں پر چادر یا دوپٹہ لپیٹ کر رکھا کریں، تاکہ سینہ کا ابھار محسوس نہ ہو اور گریبان پر کہیں نظر نہ پڑے، آگے ایک ایک کر کے گزارہ ہے ہیں کہ ان کے سواباقی کسی کے سامنے بھی بے پردہ جانا جائز نہیں، وہ کون ہیں؟ ① شہر ② باپ، پچھا اور ماں میں بھی اس میں داخل ہیں ③ خسر ④ بیٹا، پوتا اور نواسا بھی اس میں داخل ہیں ⑤ شوہر کا بیٹا، داماد کا بھی یہی حکم ہے، اس لئے کہ اس میں حکم کی علت یعنی حرمت موبدہ موجود ہے، یعنی وہ شخص جو ہمیشہ کے لئے حرام ہو اور اس سے بھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے پردہ نہیں، ساس کی حرمت کا ذکر دوسری آیت میں ہے، جس کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا ⑥ بھائی ⑦ بھتیجا ⑧ بھانجا ⑨ مسلمان عورتیں، مسلمان عورتوں کے سامنے تو اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں، کافر عورتوں کے سامنے، سریاز و اور پنڈلی وغیرہ کھولنا حرام ہے۔

بعض مسائل قرآن کریم سے سوچ سوچ کر نکالے جاتے ہیں مگر پردہ کا یہ مسئلہ نکالا ہوانہ نہیں، یہ قرآن کریم کا صریح حکم ہے۔ بتائیے! ہمچنان لوں میں اور گھروں میں جو غیر مسلم عورتیں کام کرنے کے لئے آتی ہیں کیا مسلمان عورتیں ان سے بالوں کا پردہ کرتی ہیں؟ کلاسیوں کا پردہ کرتی ہیں؟ پنڈیوں کا پردہ کرتی ہیں؟ گلے گردن کا نوں اور سینہ کا پردہ کرتی ہیں؟ خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ قرآن کریم کو چوم چوم کر مسجدوں میں رکھ کر یا خوانیاں کروا کر یہ سمجھتے ہیں کہ آفات زائل ہو جائیں گی وہ جب تک قرآن کریم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں چھوڑیں گے ہرگز دنیا ان میں ان کو چھین کی

زندگی نصیب نہیں ہو سکتی، اگر قرآن کے ساتھ عقیدت ہے تو قرآن پر ایمان ہے تو اس پر عمل کر کے دکھائیں۔

⑩ کافرباندی، اس کے سامنے سر اور بازو ہو لونا جائز ہے ⑪ ایسے مددوں جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ⑫ چھوٹے بچے جن کو ابھی یہ سمجھنا نہ ہو کہ یہ عورت کیا چیز ہے؟ جسے مرد و عورت میں فرق ہی معلوم نہ ہو، آج کل دس دس بلکہ بارہ چودہ سال کے بچوں سے بھی پرده نہیں کیا جاتا، ذرا اپنی حالت سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ کو پتا چل گیا تھا؟ پھر اب تو ترقی کا دور ہے اس دور کے دس سال کے بچے کو ان چیزوں کی وہ خبر ہے جو آپ کے دور میں میں سال کے جوانوں کو بھی نہ ہوتی تھی یہ وہ دور ہے، مرد و عورت میں کیا فرق ہے ان کے آپس میں کیا تعلقات ہوتے ہیں، کس مقصد کے لئے شادی کی جاتی ہے، یہ دیکھنا چاہئے کہ بچے کو کس عمر میں ان چیزوں کی سمجھ آگئی، اس عمر سے پرده کرنا فرض ہے۔

آگے ارشاد ہے: اپنا پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ اگر پاؤں میں کوئی زیور ہو تو اس کی آواز باہر نہیں نہ دے، جب عورت کی پازیب کی آواز کو پرده ہے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے تو خود عورت کی آواز کو کتنا پرده ہونا چاہئے اور اس کے چہرہ کو کتنا پرده لازم ہوگا۔

تمام پریشانیوں کا اعلان:

پرده کے حرم کی تفصیل بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں:

﴿وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَئُمَّةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۲۱-۲۲) (ب ۱۸ - ۲۱)

اگر تم فلاج چاہتے ہو دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اپنی پریشانی کا اعلان چاہتے ہو، اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ

اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دو، بغاوت نافرمانی و معصیت سے توبہ کر لو، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنادیا ہے کہ وہ ان کو بھی بھی سکون نہیں دیں گے، کوئی مجھے ایک شخص تو ایسا بتا دے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوا اور سکون سے دنیا میں رہ رہا ہو، بتائیے! کوئی ہے؟ نافرمان اور سکون مل جائے؟ انہوں نے تو فیصلہ سنادیا ہے:

» وَمَنْ أَغْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ اللَّهَ مَعِيشَةً ضَنَكاً

وَخَسْرُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَغْمَى ﴿١٦﴾ (۱۶-۱۷) (ب)

ترجمہ: ”جس نے میرے احکام سے اعراض کیا میں نے یہ طے کر رکھا ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی زندگی اس پر بھکر کھوں گا اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔“

سکون تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا کسی گناہ پر کوئی قائم ہو اور توبہ نہیں کرتا اور پھر وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں سکون ہے تو ذرا اسے میرے پاس لایئے ذرا میں بھی تحرما میز لگا کر دیکھوں کچھ پتا تو چلے کہ کیسا سکون ہے؟ دل کی باطنی کیفیت کے کسی اپیشنلٹ کو دکھائیے۔

۔ ۔ ۔

۔ ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے

ذراتم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے

ذرا ہمیں بھی تو دکھائیے وہ دل جو گناہ بھی کرتا ہو اور اسے سکون بھی ہو دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کانٹے بھی لگا رکھے ہیں اور پھر سکون بھی ہے، واللہ! ایسا ہر گز ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، سکون کا نسخہ اس سے پوچھئے جس کے قدرت میں دنوں کا سکون ہے ان کا ارشاد ہے:

» مَنْ عَمِلَ صَنْلِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنْ تُحِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴿۱۴﴾ (۱۴-۹۷) (ب)

یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو سکون ملے گا ورنہ نہیں، عمل صالح کی بنیاد یہ ہے کہ گناہوں سے بچے۔

درست عبرت:

چچا اور مامور سے پرده نہیں، اس کے باوجود اس آیت میں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اس کا ایک جواب تو پہلے بتا چکا ہوں کہ چچا اور مامور بجز لہ باپ کے ہیں، اس لئے باپ کے ذکر میں یہ بھی شامل ہیں مگر بعض مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت میں سب محروم رشتہ داروں کی تفصیل بیان کرنے کے باوجود چچا اور مامور کا ذکر نہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سے بھی پرده ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ کبھی اپنی بھیجوں اور بھائیجوں کی شکل و صورت کا کہیں تذکرہ کریں اور ان کے بیٹے سن لیں اور اس سے ان کے قلب میں بدنظری کی رغبت پیدا ہو جائے۔

اگر صحیح مذہب یہی ہے کہ چچا اور مامور سے پرده نہیں مگر جن مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی پرده کا حکم فرمایا ہے اور اس کی جو وجاہ ارشاد فرمائی ہے وہ ایک بہت بڑا اور درس عبرت ہے بشرطیکہ کسی کے پاس عبرت کی آنکھ ہو، اگر عبرت کی آنکھ نہیں تو عبرت کے ہزاروں قصوں سے بھی عبرت حاصل نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی آنکھیں انہی نہیں ہوئیں بلکہ ان کے دل انہی ہو گئے ہیں:

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْلَمُ الْأَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْلَمُ الْقُلُوبُ اللَّهُ فِي

الْمُشْتُور﴾ (۶) (ب ۱۷ - ۴۶)

ترجمہ: ”یہ یعنی بات ہے کہ ان کی آنکھیں انہی نہیں ہوئیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل انہی ہو جاتے ہیں۔“

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءَابَاءِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِهِنَّ وَلَا إِخْرَاجِهِنَّ

وَلَا أَنْتُو بِغَوَّيْهِنَّ وَلَا أَنْسَأَهُمْ وَلَا يَسْأَيْهِنَّ وَلَا مَا
مَلَحَّكَتْ أَيْشَنَهُنَّ وَأَنْقِنَ اللَّهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَقْوٍ
شَهِيدًا ﴿٦٦﴾ (ب ۲۲ - ۵۵)

یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، اس سے پہلے میں نے جو سورہ نور کی آیت پڑھی تھی اس میں دونوں قسم کے رشتہ دار بتائے ہیں، نبی رشتہ دار بھی جن سے پردا نہیں، اور شادی کی وجہ سے جو رشتہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی بتائے ہیں، جیسے شوہر کا بیٹا اور خر، مگر سورہ احزاب کی اس آیت میں صرف نبی رشتہ داروں کا بیان ہے، شادی کی وجہ سے جو رشتہ ہیں ان کو دوبارہ یہاں بیان نہیں فرمایا، باقی وہی رشتہ جو وہاں گنوائے گئے تھے وہی یہاں بھی ہیں، پردا کا حکم دینے کے بعد فرمایا: ”وَأَنْقِنَ اللَّهُ“، ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورتوں اللہ سے ذرہ، سوچو کہ یہ کس کا حکم ہے؟ پھر یہ الفاظ کیسے زور دار ہیں کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی صلاحیت ہو یہ الفاظ سن کر اس کے بدن پر لزہ طاری ہو جاتا ہے ”اللہ سے ذرہ“ یعنی پردا کے حکم پر عمل نہ کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، آگے ارشاد ہے: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَقْوٍ وَ
شَهِيدًا ﴾ (بلا شہدہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔) کہیں تمہیں یہ خیال ہو کہ ہم تو گمرا کے اندر رہ رہ کر بے پرداگی کرتے ہیں، بس ”زادوں“ کے سامنے تو جاتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ اگر چھپ چھپ کر بھی گناہ کرو گی تو اللہ سب جانتا ہے۔

کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے:

﴿خَرَّمَتْ عَلَيْتَ كُمْ أَمْهَنْكُمْ وَبَنَاثُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ
وَعَنَتْكُمْ وَخَلَدَكُمْ وَبَنَاثُ الْأَخْ وَبَنَاثُ الْأَخْتِ
وَأَمْهَنَتْكُمْ الَّذِي أَنْضَعَنَكُمْ وَأَخْوَاتْكُمْ مِنْ
الرَّضَدَعَةِ وَأَمْهَنَتْ دِسَائِكُمْ وَرَبَّتْكُمْ الَّذِي فِي

حُجُورُكُمْ مِنْ فَسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَّتِيلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَانِكُمْ وَأَنْ
تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْرِ إِلَّا مَا فَدَ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢﴾ (۲۳ - ۴)

الله تعالیٰ نے اس آیت میں ان عورتوں کی تفصیل بتائی ہے جن سے نکاح حرام
ہے ① ماں، دادی اور نانی بھی اس میں داخل ہیں ② بیٹی، پوتی اور نواسی بھی اس میں
داخل ہیں ③ بہن ④ پھوپھی ⑤ خالہ ⑥ بھتیجی ⑦ بھانجی ⑧ رضائی ماں ⑨
رضائی بہن، اس میں دوسرے رضائی رشتے بھی داخل ہیں، مثلاً رضائی بھتیجی، بھانجی،
پھوپھی، خالہ وغیرہ ⑩ ساس ⑪ بیوی کی بیٹی، بشر طیکہ بیوی سے صحبت کی ہو، اگر کسی
عورت سے نکاح کیا مگر اس سے صحبت نہیں کی، صحبت سے پہلے ہی وہ مر گئی یا اس کو
طلاق دے دی تو اس کی بیٹی حرام نہیں ⑫ بہو ⑬ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، یعنی
سالی اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے، بیوی کی موت یا
طلاق کے بعد اس کی بہن حلال ہے، مقصد یہ ہے کہ سالی ہمیشہ کے لئے حرام نہیں۔
اس سے پہلے جو بارہ رشتہ مذکور ہیں وہ سب عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں
ایک اور قسم بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہے جس کا بیان اس آیت سے پہلی آیت میں
ہے:

﴿وَلَا نَنْكِحُوا مَا نَكَحَّ إِمَّا كُنْجَعَةً إِمَّا
قَذْ سَلَفَ إِنَّهُ مَكَانٌ فَحِشَةٌ وَمَقْتَأً وَسَاءَةٌ سَكِيلًا
﴾ (۱۱) (۲۲ - ۴)

یعنی باپ کی بیوی، بکل تیرہ ہو گئیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بھی نکاح نہیں
ہو سکتا۔ اسلام اور عقل دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پرداہ صرف ایسی عورت کو نہیں جو

ہمیشہ کے لئے حرام ہے اور کسی صورت میں بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ہر وہ عورت جس سے کسی وقت بھی نکاح کا امکان ہوا سے سے پرداز فرض ہے، اس لئے خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں جو تیرہ قسم کی عورتوں کو ہمیشہ کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے ان کے سوا ہر عورت سے نکاح صحیح ہے، چنانچہ محرومات کی تفصیل بیان فرمائے کے بعد ارشاد ہے:

﴿وَأَجْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَأَةَ ذَلِكُمْ﴾ (ب ۲۴ - ۵)

ترجمہ: "ان محرومات کے سواباتی سب عورتوں میں حلال ہیں، اس لئے ان پر پرداز فرض ہے۔"

ایک جہالت کی اصلاح:

جاہلوں میں مشہور ہے کہ پچھی اور مامنی اور بھتیجی کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہیں، اس لئے سمجھتے ہیں کہ شوہر کے پچھا اور ماموں اور اس کے بھتیجے اور بھانجے سے شرعاً پرداز نہیں، یہ سخت جہالت ہے قرآن کریم میں ان عورتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، یعنی شوہر کے پچھا، ماموں اور بھتیجے، بھانجے کی وفات یا طلاق کے بعد ان کی بیوی سے نکاح جائز ہے، دیکھئے جہالت کتنی بری بلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی عورتوں کو حرام بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک خوب یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ شوہر کے پچھا اور ماموں اور اس کے بھانجے اور بھتیجے سے پرداز فرض ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں پرداز کی پابندی؟

❶ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَاءٍ غَيْرَ نَظَرِينَ إِنَّمَا وَلَكُمْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَآذُنُّهُوَا إِذَا طَعَمْتُمْ فَإِنَّ شَرُونَ﴾ (ب ۲۲ - ۵۳)

سنئے! قرآن کیا کہتا ہے:

”اے ایمان والو! نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر میں داخل مت ہونا۔“

یہ کن لوگوں سے خطاب ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مقدس جماعت سے، جن کے لئے تقدیس کا بیان اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مت جانا، ماسیں ہیں وہ بھی کیسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لِذِهَبَ عَنْكُمْ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمُطَهَّرُونَ تَطْهِيرًا﴾

(۳۲) (ب - ۲۲)

ترجمہ: ”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ یہاں نے تم سب کو پاک کر دیا ہے۔“

جس کو اللہ پاک کر دے کیا اس میں کوئی خرابی آسکتی ہے؟ وہ پاک عورتیں ہیں، اور جانے والے کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مت جانا۔“

﴿إِلَآ أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ﴾ (۵۲ - ۲۲)

اگر کھانے کے لئے بلا یا جائے یعنی کھانے کی کوئی دعوت ہو تو کھانے کے لئے جاؤ، اور پھر اس کے کیا آداب ہیں؟ پہلے سے جا کر نہیں بینٹھ جاؤ۔

﴿وَلِكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا﴾ (۵۲ - ۲۲)

ترجمہ: ”جب بلا یا جائے اس وقت پہنچو۔“

پھر:

﴿فَإِذَا طِعْمَتُمْ فَأَنْتُمْ رُوا﴾ (۵۲ - ۲۲)

ترجمہ: ”جب فارغ ہو جاؤ تو جلدی سے نکل جاؤ۔“

وہاں بیٹھ کر باشیں نہ شروع کرو، بیٹھے مت رہو، اس کی وجہ سمجھ میں آئی؟ یہ حکم کیوں؟ وہاں تو پرده ہے، پرده سے کھلایا جا رہا ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے مت جاؤ اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً نکل جاؤ! وہاں بیٹھ کر باشیں نہ کرو، مجلس بازی نہ کرو، بلکہ جلدی سے نکل جاؤ، نہ پہلے سے جا کر بیٹھو نہ بعد میں فارغ ہو کر بیٹھے، رہو کیوں؟ اس لئے کہ اگر مستورات آپس میں بات وغیرہ کریں گی تو ان کی آواز کان میں نہ پڑ جائے، کیا کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ادب اس لئے سکھا دیا کہ اگر زیادہ دیر رک کر وہاں بیٹھے رہے تو مستورات کی آواز کانوں میں پڑنے کا خطرہ ہے، اس لئے پس پرده بھی بقدر ضرورت بیٹھو، ضرورت سے زائد نہ بیٹھو۔

قرآن کے باغیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ:
میں اس قرآن کے احکام بتا رہا ہوں جسے آپ لوگوں نے لذو کھانے اور چائے پینے کا دھندا بنا رکھا ہے۔

اس قرآن کریم میں جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ لوگوں نے ”خوانیوں“ میں کم از کم دس پہلی چائے پی ہو گی اور اتنے ہی لذو کھائے ہوں گے اور احکام قرآنی پر عمل کرنا تو درکنار اتنی ”خوانیوں“ کے بعد بھی یہ جو احکام بتا رہا ہوں کبھی آج تک آپ نے سنے بھی ہیں؟ آپ تو بس سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا قرآن دیا ہے، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے، یاد رکھئے! ایک روز حساب ہو گا، پوچھا جائے گا کہ قرآن کا کیا مقصد سمجھتے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں شکایت کریں گے:

﴿رَبَّ إِنَّ قَوْمِي أَنْهَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَنْهِجُورًا (۲۰) تَرْجِمَةً: "اے میرے رب! میری امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔"﴾ (۱۹ - ۲۰)

لہ! اسو چئے اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہو گا؟

بے پردہ عورتوں کے ہزاروں اللہ:

اس آیت پر بیان شروع ہوا تھا:

﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ إِذَا جَاءَكُم مُّؤْمِنَاتٍ يُبَأِّنْتُنَّكُنَّ أَن لَا يُشْرِكُنَّ بِإِلَهٍ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَّ وَلَا يَرْتَبِعُنَّ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَنٍ يَفْتَرِيهُنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَأْتُعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

(۱۲-۲۸) (ب)

ترجمہ: ”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے پاس جب بیعت ہونے کے لئے مومن عورتیں آئیں تو ان چیزوں پر بیعت فرمائیں:

﴿أَن لَا يُشْرِكُنَّ بِإِلَهٍ شَيْئًا﴾

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔“

ذرا پہلے ہی مرحلہ پر اپنا متحان کر لیجئے، جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ پچاڑا اور پھوپھی زاد سے پردہ ہو گا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، ماموں زاد اور خالہ زاد سے ہو گا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، دیور سے ہوا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو، اور آج کل کی مسلمان کہلانے والیوں کے کتنے اللہ ہیں؟ پچاڑا بھی اللہ، پھوپھی زاد بھی اللہ، ماموں زاد بھی اللہ، خالہ زاد بھی اللہ، دیور بھی اللہ، جیسے بھی اللہ، بہنوں بھی اللہ، نندوںی بھی اللہ، یہ تو میں نے ہر ایک قسم میں سے ایک ایک گنوایا ہے، اور اگر کسی کے پچاڑاں ہوں اور ہر ایک کے دس میٹھے ہوں تو پچاڑا ایک سو ہو گئے، اسی طرح ہر ایک قسم میں سے سو سو لے لیں، تو تقریباً ایک ہزار اللہ تو یہی بن گئے، اور پھر پچاڑا کیا کہے گا؟ پچی کیا کہے گی؟ ماموں کیا کہے گا؟ ممانی کیا کہے گی؟ پھوپھا کیا کہے گا؟ اور پھوپھی کیا کہے گی؟ ارے

اللہ جانے کتنے اللہ بنیں گے۔

آج کے مسلمان میں ایمان کتنا ہے؟

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحِبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِيمَنُوا أَسَدُ حُبَّ اللَّهِ﴾ (۱۶۵ - ۲)

ترجمہ: ”بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی نسبت
غیر سے زیادہ محبت ہے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے
زیادہ محبت ہے۔“

بڑی، ہی اچھی اور بہت مفید بات اللہ تعالیٰ نے کہلوادی، ذرا اپنے ایمان کا محاسبہ
کر لیجئے، فرمایا انہوں نے بہت سے اللہ بنائے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو محبت ہے،
مگر جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری دنیا کی نسبت زیادہ محبت
و رکھتے ہیں، اب سوچئے! جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق پردوہ نہیں کریں
گے یا نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اپنے خاندان والوں
کے ساتھ زیادہ ہے؟ ذرا نہیں بیٹھے بیٹھے ایمان کا محاسبہ کر جئے اور فیصلہ کر جئے کہ ایمان
کس درجہ میں ہے؟ بات کچھ دل میں اتر رہی ہے؟ اللہ کرے اتر جائے، اللہ تعالیٰ
نے معیار بتا دیا کہ مؤمن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری دنیا کی نسبت زیادہ
محبت ہو، مگر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ انہوں نے بہت سے اللہ بنارکھے ہیں،
لہلہں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی دوسرے خداوں کے ساتھ ہے، خاندان
کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو بتائیے کہ ایمان کہاں
کہاں؟

مسلمان کو قرآن سے نصیحت کیوں نہیں ہوتی؟

﴿وَذِكْرُ إِنَّ الَّذِكْرَى لَنَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۵۵ - ۲۷)

خطبیات الرشید

ترجمہ: "آپ نصیحت کریں نصیحت مومنین کو ضرور فائدہ دیتی ہے۔"

اب ذرا سوچا جائے کہ آج کے مسلمان کو قرآن سے نصیحت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن کی بات دل میں کیوں نہیں اترتی؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے، اور حقیقت میں فائدہ نہیں رہا تو سوچا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد غلط تو نہیں ہو سکتا پھر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں:
 ● یا تو جو بات کمی جاری ہے وہ نصیحت ہی نہیں، یعنی کہنے والے میں اخلاص نہیں، اگر کہنے والا اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کہہ رہا، اس میں فکر آخوت نہیں، قلب میں درد نہیں، ویسے ہی رسم درواج کے طور پر، دستور کے طور پر یا دکھلاؤے کے لئے کہہ رہا ہے، تو اس کا کہنا نصیحت نہیں، اس لئے اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

● یا سننے والے مومن نہیں، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے، اور صرف انہی کے دلوں پر اثر کرتی ہے، جس میں ایمان نہیں اس پر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، سننے والوں میں ایمان کامل ہو، توجہ ہو، آخوت کی فکر ہو، ایمان کی خاطر سننے بیٹھے ہوں تو نصیحت فائدہ دے گی، اگر ان میں عمل کرنے کا ارادہ نہیں، طلب نہیں، ترب نہیں تو نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔

دعا باز مسلمان:

بات دراصل یہ ہے کہ پرده کی بات تو آج کے مسلمان کے دل میں اترتی ہی نہیں، نماز کے لئے کہا جائے، پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، صدقہ و خیرات بھی کر دیں گے، پنج سورہ بھی پڑھ لیں گے، میٹھی میٹھی باتوں پر عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو لمبا چوڑا کریں گے لیکن ان کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے، یہ کڑوا گھونٹ حلق میں نہیں اترتا، خود غور کیجئے سوچنے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کی کوشش کی جاری ہے یا نہیں؟

سے ساتھ غیروں کے میری قبر پر آتے کیوں ہو؟

تم جلاتے ہو مجھے تو جلاتے کیوں ہو؟

اگر جلانے کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر معصیت اور نافرمانی سے میرا دل کیوں دکھاتے ہو؟ ایک بچی اسکوں کی کسی کتاب میں یہ شعر پڑھ رہی تھی۔

سے نام پہ تیرے جان فدا ہو

کوئی نہ دل میں تیرے سوا ہو

نیہ دھوکے کی باتیں ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ان کے حال کے مطابق یہ شعر بیوں ہوتا چاہئے۔

سے نام پہ تیرے جان فدا ہو

حکم نہ تیرا اک بھی اداء ہو

آج آپ لوگ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ! قرآن کریم کے ساتھ جو دھوکے کا معاملہ چل رہا ہے، اس سے تو ہماری حفاظت فرماء، قرآن کی لذت عطا فرماء، قرآن کے ساتھ پچی محبت عطا فرماء، اس کے ساتھ تعلق عطا فرماء، اس کی حلاوت عطا فرماء اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرماء۔

قرآن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل ہوتا چاہئے، یہ گولی نہ کنا ہے، بہت مشکل، بڑی کڑوی ہے، بچا زاد سے پرده، پھوٹھی زاد سے پرده، ماموں زاد سے پرده، خالہ زاد سے پرده، دیور سے پرده، جیٹھ سے پرده، بہنوں سے پرده، نندوئی سے پرده، اس گولی پر کتنی ہی شکر چڑھا چڑھا کر نگلوائیں مگر پھر بھی نہ کنا بہت مشکل ہے، ہاں! اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں تو کوئی مشکل نہیں، جب ان کی دلخیبری ہوتی ہے تو پھر دل کی کایا پلٹ جاتی ہے اور یہ حالت ہو جاتی ہے۔

سے سارا جہاں ناراض ہو پروانہ نہ چاہئے

مد نظر تو مرضی جانانہ چاہئے

بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہئے کیا کیا نہ چاہئے

خالق کی رضامندی جہنم سے نہیں بچا سکتی:

جن کے خوف سے، جن سے ذرکر، جن کی مروت میں آپ پرده نہیں کرتیں، تو
کیا آپ کو جہنم میں جانے سے وہ لوگ روک لیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذر
صحیح ہوگا، قبول ہو سکے گا کہ میرا فلاں ناراض ہوتا تھا، فلاں ناراض ہوا تھا، فلاں کی
محبت میں، فلاں کی مروت میں، فلاں کے خوف سے میں نے پرده نہیں کیا تھا۔

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ أَتَيْعُونَا مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

وَنَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾۱۶۶-۲﴾ (m)

وہ دن آنے والا ہے کہ جن لوگوں کے اتباع میں ہمارے احکام کی خلاف ورزی
کی جاتی ہے، گناہ کا حکم دینے والوں اور ان کا اتباع کرنے والوں کے آپس کے
تعلقات منقطع ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، وہاں چھوٹے
یہ کہیں گے کہ بڑوں کی وجہ سے ہم نے پرده نہیں کیا، اور بڑے کہیں گے کہ ہمارا ان پر
بس تھوڑا ہی چلتا تھا، ہم تو گناہ کی دعوت ہی دیتے تھے، گناہ تو یہ خود ہی کرتے تھے، ہم
نے ان سے زبردستی تو گناہ نہیں کروائے تھے، فرمایا:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَا فُضِّلَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ

وَعَدَ الْحَقِيقَ وَوَعَدْنَاكُمْ فَلَا خَلَفَتْ كُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ

سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْنَا فَأَسْتَجَبْنَا لِيْ فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا

أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخِي

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتْ مُؤْمِنُونَ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾۲۲-۱۳﴾ (b)

تَرَجَّحَكُمْ: اور جب تمام مقدماتِ فیصل ہو جکیں گے تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پچ وحدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وحدے تم سے کئے تھے میں نے وحدے تم سے خلاف کئے تھے اور میرا تم پر اور تو کچھ زور چلتا نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلا یا تھا سو تم نے میرا کہنا مان لیا تو تم مجھ پر ملامت مت کرو اور ملامت اپنے آپ کو کرو، نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس کے قبل مجھ کو شریک قرار دیتے تھے، یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

شیطان تو یہ کہہ دے گا: ”میری تم پر کوئی قدرت نہیں تھی، بس نہیں چلتا تھا، میں تو تبلیغ ہی کرتا تھا، تم نے اپنے اختیار سے برے عمل کئے، اس لئے اب تم مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہیں جہنم سے چھڑا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، تم نے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں میرا حکم مانتے تھے، میں اس سے بیزار ہوں، یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔“ اب سارے اکٹھے ہی جہنم میں جائیں گے، دنیا میں ابھی اکٹھے تھے، اور جہنم میں بھی اکٹھے ہی رہیں گے۔ یا اللہ! وہ دن آنے سے پہلے پہلے تو فکر آئڑت عطا فرمًا، یا اللہ! حساب و کتاب سے پہلے ہمارے قلوب میں تو اس کی فکر عطا فرمادے، اور ہمیں اپنی عاقبت بنانے کے لئے اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمادے۔

یہ ہے بڑی کڑوی گولی لیکن کسی نہ کسی طرح شکر چڑھا کر اسے نگل جائیے، اور نگنے کے بعد پھر دیکھئے کیا مزا آتا ہے، ایک بار نگل جائیے، یا اللہ! تو نگلوادے، کسی نہ کسی ملحوظ سے نگلوادے۔

دنیا میں جنت کے مزے کیسے حاصل ہوتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ کی خاطر جو شخص دنیا کے تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے اس کو دنیا ہی میں جنت کے مزے آ جاتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے طبع آختر کے لئے، آختر کے عذاب سے بچنے کے لئے دنیا والوں کو چھوڑ دیا، ان نے منہ موزیلہ وہ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسے سرور اور ایسی لذت سے نوازتے ہیں کہ دنیا بھر کی لذتیں اس کے سامنے گرد ہیں۔

سے لطف مے بچے کیا کہوں زاہد

ہائے! کمخت تو نے پی ہی نہیں

ذرانی کر تو دیکھو، ذرا اس کی لذت حاصل کر کے تو دیکھو، یا اللہ! تو ہستیں بلند فرمادے، پرده کی آیت سورہ نور میں نازل ہوئی اللہ کرے سورہ نور سے نور مل جائے، یا اللہ! تو سورہ نور سے ہمیں اپنا وہ نور عطا فرمای جس کے سامنے دنیا بھر کے تعلقات و اعتراضات سب کافور ہو جائیں، ہمارے دلوں میں یہ نور اتار دے جو تمام ظلمات کی کافور کر دے، سورہ نور میں عورتوں کو خاص طور پر خطاب فرمای کہ پرده کے احکام بتائے گئے ہیں: ”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مومن عورتوں سے بھی فرمادیجئے“ اب آپ یہ فیصلہ خود کر لیں کہ ”مؤمنات“ کی فہرست میں شامل ہیں یا نہیں؟ دلوں میں ایمان کی کوئی رمق ہے یا نہیں؟ یا اللہ! تو سب کو مومنین و مؤمنات کی فہرست میں داخل کر دے، ایمان کامل عطا فرماء، قرآن کریم پر اعتماد و اعتماد عطا فرماء، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماء۔

آج کے مسلمان کا دل ڈاکو سے بھی سخت ہے:

فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، یہ پہلے

بہت بڑے ڈاکو تھے، ایسے خطرناک اور مشہور ڈاکو کے قاتلے ان کی خبر سن کر وہ رام

چھوڑ دیتے تھے، ان کو کسی عورت سے عشق ہو گیا، اس عورت کو اس کے مکان سے اٹھا کر لے جانے کی غرض سے صحن کی دیوار پر چڑھے، اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا، اس نے آیت پڑھی:

﴿الَّمَ يَا أَيُّلِ الَّذِينَ مَا مَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِيقَ﴾ (ب ۲۶ - ۲۷)

ترجمہ: ”کیا ابھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر اور قرآن کریم سن کر زخم ہو جائیں۔“

فضیل بن عیاض کے کان میں یہ آواز پڑی، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہیں سے ”بلی قد ان یا رب بلی قد ان یا رب“ ہاں میرے رب وقت آگیا، ہاں میرے رب وقت آگیا“ پکارتے ہوئے واپس لوٹ آئے اور ایسی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کا تعلق جوڑا کہ مشہور اولیاء اللہ کی صفت میں جا پہنچے۔ ذرا غور کیجئے آج کے مسلمان کا دل اس زمانہ کے ڈاکوؤں کے دلوں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر حرم فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں کہ یا اللہ! تیری وہ رحمت جس نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل کی کایا پلٹ دی وہ رحمت ہمارے دلوں پر بھی نازل فرم۔

بے پروگی دین کی کھلی بغاوت ہے:

آج مسلمان کے دل میں نیکی کا معیار صرف یہ رہ گیا ہے کہ اوراد و ظائف اور نوافل و تسبیحات زیادہ پڑھے، یہ نفس اور شیطان کا دھوکا ہے نیکی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سے توبہ کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اتق المحارم تکن اعبد الناس.“ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: ”گناہوں سے بچو تو سب سے بڑے عابد شمار ہو گے۔“

خاص طور پر بے پردگی کا گناہ دوسرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اس لئے کہ:

● یہ علانية گناہ ہے یعنی کھلی بغاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”کل امتی معافی الا المجاہرین“ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: ”میری پوری امت معافی کے لائق ہے مگر علانية گناہ کرنے والے معافی کے لائق نہیں۔“

دنیوی حکومتوں کے قانون میں بھی علانية بغاوت کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا پھر بغاوت کی سزا بھی کیا ہے؟ موت۔

● بے پردگی کا گناہ صرف بے پرده عورت تک محمد و نبیس رہتا بلکہ اس کی وجہ سے جو بے حیائی اور بدمعاشی پھیلتی ہے پوری قوم اس کے دنیوی و بال اور اخروی عذاب کی پیٹ میں آ جاتی ہے، اس گناہ کے نتیجہ میں طرح طرح کے فتنے حتیٰ کہ قتل تک کی واردات کا عام مشاہدہ ہو رہا ہے۔

بے دین معاشرہ کا مقابلہ کرنے والے:

بے دین معاشرہ اور بے ما حول کے مقابلہ میں ہمت والوں کے حالات سے سبق حاصل کر کے ہمت بلند کریں، پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض خواتین امریکا میں گاڑی چلا یا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے دشگیری فرمائی تو پرده کی ایسی پابند ہو گئیں کہ آج کے مولویوں اور دیندار گھرانوں میں بھی اس کی مثالیں نہیں ملتی۔

ایک خاتون کے میکے والے ہندوستان میں یہی وہ عرصہ کے بعد ملنے گئیں اور بہنوں سے پرده کیا، بہنوں نے بہت خوشامد سے کہا کہ ہمارے شوہر ناراض ہو جائیں گے، اور سخت تکلیف پہنچائیں گے، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی، والدین نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بہنوں کی حالت پر رحم کھاؤ، بہنوں سے پرده مت کرو، اس خاتون کی ہمت دیکھئے ہو بے میں کہا کہ میں بہنوں کی دنیوی زندگی بنانے کے

لئے اپنی عاقبت بر باد نہیں کر سکتی اور بہنویوں کو راضی کرنے کے لئے اپنے مالک کو ناراض نہیں کر سکتی۔

ایک خاتون نے میرا صرف ایک وعظ "زندگی کا گوشوارہ" پڑھ کر لکھا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں سے بچا لیا اور بہت سے گناہوں سے چھٹکارا ہمیشہ کے لئے حاصل ہو گیا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تہہ کر لیا ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ کسی غیر محروم کے سامنے نہیں جاؤں گی۔" اللہ کی رحمت سے ان کے دل پر صرف ایک وعظ پڑھنے کا یہ اثر ہوا ہے، یا اللہ! تو ان وعظ سننے والیوں کے دل پر بھی یہی رحمت فرم۔

ایک بھی نے دس گیارہ سال کی عمر میں چیاز ادا اور خالہ زاد وغیرہ قریب تر نامحرم رشتہ داروں سے پرده کر لیا تو خاندان کے مردوں اور عورتوں نے سخت اعتراض کیا اور دھمکی دی کہ پورا خاندان تم سے کٹ جائے گا، بھی کا جواب سننے اس نے بڑے جوش سے یہ اشعار پڑھے۔

سے سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہئے
مد نظر تو مرضی جانانہ چاہئے
بس اس نظر سے دیکھ تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرتا چاہئے کیا کیا نہیں چاہئے۔

یہ ہے کرامت، بھلا اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ اپنے مالک کی رضا جوئی کے لئے اپنے نفس کی تمام خواہشات اور دنیا بھر کے تمام تعلقات کو قربان کر دیا جائے، اس کرامت کے سامنے ہوا میں اڑنے اور سمندر کی سطح پر چلنے جیسی کرامتوں کی کوئی حقیقت نہیں، کرامت کی روح یہ ہے کہ محبوب حقیقی کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے جس کی بدولت دنیا بھر کے مقابلہ میں دین پر استقامت نصیب ہو جائے، یا اللہ! تو اپنی رحمت سے ہم سب کرامت سے نواز دے، یہ کرامت

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کرامت جیسی ہے، ان کو ہر وقت ایسی عظیم کرامت حاصل تھی، اس لئے ان سے دوسری کرامتیں زیادہ منقول نہیں۔

ایسی باہمیت خواتین کا ایک اور قصہ سننے کسی نے ان کے حالات پرچہ میں لکھ کر دیے ہیں، یہ پرچہ ہی سن لیجئے۔

”آج خط لکھنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا ہے اپنے مرشد کے ہاتھ پر کہ میں زندگی کے آخری سانس تک گانے بجانے کی لعنت چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور تصویروں کی لعنت خواہ وہ کسی کی ہو ہرگز ہرگز نہ تو خود نہ کسی بچہ کو لانے دوں گا، نہ ایسے گھروں میں کسی بچہ یا بچی کا رشتہ کروں گا جن کے ہاں یہ لعنتیں ہوں گی، اور نہ کسی بچہ یا بچی کو اسکول کے دروازہ تک بھی جانے دوں گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم بیٹوں دو بیٹیوں کے رشتے میری خواہش کے مطابق ہوئے، لیکن ماحدوں نے ایسی تباہی مچا دی کہ دوسرے رشتہ دار مثلاً بیٹوں کے سالے، سالیاں، ان کے سر، ساس کے رشتہ دار اور میرے اپنے ہی بہت سے رشتہ دار میری راہ میں رکاوٹ بننا شروع ہو گئے، شرعی پرده بھی درہم برہم ہونے لگا، اور دوسری رسومات بھی چوری چھپے ہونے لگیں، ویسے ہم گھر میں چھوٹے بڑے بیس افراد ہیں، ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے ایک ہی چوبی پر پکاتے کھاتے ہیں، کسی قسم کا آپس میں کبھی ساس بہود یورانی، جنحانی کا کبھی کوئی جھگڑا آج تک نہیں ہوا، میرا یقین ہے کہ یہ میرے بزرگوں کی محبت کی برکت ہے، ایک طرف میں اکیلا دوسری طرف رشتہ داروں کا ٹولہ، کوئی کہتا ہے کہ دادا پردادا کی ساری رسماں یہ کہاں کا مولوی آگیا ختم کرنے والا، کوئی کہتا ہے ارے فلاں مولوی حافظ کے گھر نیلی ویژن ہے، یہ ایسی سخت پابندیاں لگاتا ہے، میرے آقا! دل میں جو تکلیف ہوتی ہے چیر پھاڑ کر کس کو دکھاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے کے علاوہ اور میں اور کیا کیا کرتا رہا، کافی دن تک حضرت صاحب کی مجلس میں سارے گھروں کو لے جاتا رہا، لیکن بات نہ بنی ایک دن

آپ کے ہاں جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر اسی سوچ و فکر میں بیٹھا تھا کہ اے میرے اللہ! اب میں کون سی تدبیر کروں؟ کیا کروں؟ میرے بس سے کام باہر ہوتا جا رہا ہے، میرے اللہ! اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے تو میں تباہ ہی ہو جاؤں گا، تھوڑی دری سوچنے پر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج ہی سب گھر والوں کو حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں لاویں، بس فوراً گھر گیا اور کہا میرے پیارے بیٹوں بیٹیوں! کیا آج مفتی صاحب کا بیان سننے کے لئے مفتی صاحب کے ہاں میرے ساتھ چلو گے؟ سب نے خوشی سے کہا، ہاں آبا! ضرور چلیں گے، میں نے کہا اچھا پھر تیاری کرو، عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، سب لوگ آگئے، اللہ تعالیٰ کو میری لاج رکھنی تھی، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ آج گانے بھانے، تصویر کی لعنت اور شرعی پرده پر بیان ہو، ایک خاتون کے خط کا حوالہ بیان فرمایا کہ آپ نے بیان شروع فرمایا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ کی بات نہیں کرتا، اس دور کی ایک خاتون میرا مطبوع وعظ "زندگی کا گوشوارہ" پڑھ کر مجلس میں آئے بغیر توبہ کر لیتی ہے تو آنے والیاں نہیں کر سکتیں؟ میرے آقا! آپ بیان فرمارہے تھے اور میں دل ہی میں اتنا خوش ہو رہا تھا اور ایک سانس میں کئی کئی بار دل میں یوں کہتا تھا، اے اللہ! اے اللہ! تیرا کس زبان سے شکر ادا کرو، تو نے تو آج مجھ پر مہر بانیوں کی بارش ہی برساوی، بلکہ کئی دن تک چلتے پھرتے بھی یہی وظیفہ بنارہا، کیونکہ میرے آقا! جب میں عشاء کے بعد گھر گیا تو میری بہو بیٹیاں توبہ کر چکی تھیں، چھوٹے چھوٹے دیوروں سے بھی پرده کئے ہوئے تھیں، بس رنگ بدلا ہوا تھا، جس رنگ کے لئے میں برسوں کوشش کرتا رہا وہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے چند منٹوں میں کروادیا، اور رنگ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، برکت ہی برکت ہو رہی ہے، اب یہ میرے تینوں بیٹوں کی بیویاں اور ایک میری بچی جس کی عمر گیارہ برس دس مہینے ہے بار بار کہتی ہے کہ ابا بہت ہی دل چاہتا ہے کہ مفتی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں، میں نالتا رہتا ہوں کہ مرید مردہ کے مانند ہوتا

ہے، مرید فی بن کراپنی مرضی سے کوئی رسی خوشی غمی کی نہیں کر سکوگی، اگر ایسا کیا تو پھر رشتہ نوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں خوب سوچ لو، لیکن یہ کہتی ہیں کہ ہم تو سب کچھ قربان کر چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخری سائنس تک بھائیں گے انہوں نے آج مجھے خط لکھنے پر مجبور کر دیا، یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اتنی محبت ہو گئی ہے کہ پیر کے دن بھی مجلس میں ہم کو حوصل جائے تو بڑی خوشی ہو گی، میں نے ان سے آج وعدہ کر لیا ہے کہ آج انشاء اللہ بعد نماز ظہر حضرت جی کی خدمت میں خط پیش کر دوں گا۔“

ہمت کے ایسے واقعات دیکھ کر اور سن کر سوچا کریں کہ آخر یہ خواتین بھی تو اسی ماحول اور اسی معاشرہ میں ہیں جس میں آپ ہیں، پھر ان کو تو ہمت ہو گئی مگر آپ کو ہمت کیوں نہیں ہو رہی؟ آخرت میں اس کا کیا جواب ہو گا؟

ان باہمت خواتین کے حالات سے سبق حاصل کرنے کے ساتھ یوں دعاء بھی کیا کریں یا اللہ! جو ہمت تو نے ان خواتین کے دلوں پر نازل فرمائی وہ ہمارے دلوں پر بھی نازل فرم۔ یا اللہ! تیری وہ دشگیری جس نے ان خواتین کے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ ان کی نظر میں دنیا بھر کے تعلقات کی کوئی وقعت نہیں رہی، ہمارے ساتھ بھی ایسی دشگیری فرم، یا اللہ! ان خواتین کے دلوں میں جو تو نے اپنی محبت کی ایسی دولت اور ایسی لذت عطا فرمائی ہے کہ اس پر دنیا بھر کی محبتیں اور دنیا بھر کی تمام لذتیں قربان ہو جائیں، تیری اس رحمت کے صدقہ سے تھجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کی یہ دولت اور لذت عطا فرم۔

دینی مسائل سے لوگوں کی غفلت:

بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہم نے پہلے کبھی سنائی نہیں، سنیں بھی کیسے؟

ہے انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں
پلے کانچ کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں
وہ ایسے کہہ دیتے ہیں جیسے پیدا ہونے کے بعد کسی خانقاہ میں پلتے رہے ہوں،
میں سال دینی مدرسہ میں اور پچھیں سال گزار دیئے خانقاہ میں اور علماء کی محبت میں
بیٹھ کر مسئلے سمجھتے رہے، اور کتنی بھی کتابیں ہم نے مسائل کی پڑھ ڈالیں، پھر بھی ہم نے
یہ مسئلہ نہیں سنا، کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی کہے بھی، ذرا سوچئے! زندگی کیسے گزر رہی
ہے؟ بے دین لوگوں کو چھوڑیے، دیندار لوگوں کو بھی مسئلہ پوچھنے کی توفیق ہوتی ہے؟
اور پوچھیں گے تو کیا؟ ”وراثت“ والد کا انتقال ہو گیا ہمیں وراثت میں کتنا حصہ ملے
گا؟ یا پوچھیں گے تو کیا؟ ”طلاق“ تین طلاقیں دے کر بیوی خود حرام کرنی پھر ہم سے
پوچھنے آتے ہیں، بھلا ہم حرام کو کیسے حلال کر دیں؟ بس یہی دو مسئلے رہ گئے، وراثت کا
اور طلاق کا، باقی اسلام سے کوئی مطلب نہیں، سوان لوگوں کو کیا معلوم کہ مسائل کیا
ہوتے ہیں، ہاں جب ان کو مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہم نے کبھی سنا ہی
نہیں، سنو گے کب؟ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں تو
مسئلہ کیسے سنو گے؟

بدلنظری کی حرمت پر اشکال کا جواب:

میں ایک بار حسب معمول باغ میں تفریح کے لئے گیا تو وہاں ایک شخص نے
اشکال پیش کیا کہ غیر محروم کی طرف نظر سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ اس میں کوئی ایسا
عمل نہیں جس سے کسی کی کسی چیز میں دخل اندازی ہو اور اسے نقصان پہنچتا ہو، جیسا
کہ چور جب تک کسی کے مال پر دست درازی نہیں کرتا اس وقت تک اس پر کوئی
گرفت نہیں۔

میں نے ان کو سمجھایا تو بفضلہ تعالیٰ بات ان کی سمجھ میں آگئی، اور وہ مطمئن ہو گئے

میں نے ان کو حرمت نظر کی پانچ وجہ بتائیں۔

حرمت نظر کی پانچ وجہ:

پہلی وجہ:

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اس کی حکمت معلوم ہو سکے یا نہ ہو سکے بہر حال بندہ پر بلا چون و چرا اس کی تعمیل فرض ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محروم عورت کو دیکھنے سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

»**قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَرُهُمْ وَمَخْفَظُوا فِرْوَجَهُمْ**« (ب۔ ۱۸ - ۲۰)

اس کے بعد عورتوں کو مستقل خطاب ہے:

»**وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضَضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَمَخْفَظَنَ فِرْوَجَهُنَّ**« (ب۔ ۱۸ - ۲۱)

اس آیت پر مفصل بیان ہو چکا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنئے، اس مضمون کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، صرف چند حدیثیں بیان کرتا ہوں:

❶ نظر شیطان کا زہریلا تیر ہے، جس کی کسی غیر محروم پر نظر پڑی اور اس نے اپنے اللہ کے خوف سے فوراً نظر ہٹا لی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا فرماتے ہیں۔ (رواہ الطبرانی والحاکم و قال صحيح الاسناد)

❷ جس نے غیر محروم سے نظر پھیر لی اس پر انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت سے نوازتے ہیں جس کی حلاوت اس کے قلب میں محسوس ہوتی ہے۔ (رواہ

حضرات فقہاء حرمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”عورت کے مزین لباس کو دیکھنا منع ہے، اس لئے کہ اس سے قلب میں شہوت پیدا ہوتی ہے۔“

شیطان کا اثر انسان کے تین اعضاء پر بالترتیب ہوتا ہے، آنکھ، دل، شرم گاہ یعنی نظر سے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے اور وہ بدکاری تک پہنچاتی ہے۔

❶ بدنظری آنکھ کا زنا ہے۔ (رواہ البخاری و مسلم)

❷ بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر جو بدنظری سے بچی، اور جو اللہ کی راہ میں جائی، اور جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کمھی کے سر کے برابر آنسو نکلا۔ (رواہ الاصبهانی بحوالہ الترغیب والترغیب)

❸ تم چھ چیزوں کی پابندی کرو تو میں تمہارے لئے جنت کا ضامن ہوں:

❶ جھوٹ نہ بولو ❷ امانت میں خیانت نہ کرو ❸ وعدہ خلافی نہ کرو ❹ آنکھوں کی حفاظت کرو ❺ ناجائز کاموں سے ہاتھوں کو روکو ❻ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ (رواہ احمد و ابن حبان فی صحیحه)

❻ ایک شخص چلتے چلتے کسی عورت کو دیکھ رہا تھا، سامنے دیوار سے نکر لگی، ناک نوٹ گئی، اس نے کہا: اللہ کی تم! میں اس وقت تک خون نہیں دھوؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ قصہ نہیں بتایتا، چنانچہ اس نے حاضر خدمت ہو کر زانپا قصہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے گناہ کی سزا ہے۔ (در منثور، روح المعانی)

❾ ایک بار امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میسونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں، اچاک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پرده کا حکم فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض

خطبائت الرشید

کیا یہ تو نامینا ہیں نہیں دیکھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نامینا ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہیں؟ (رواہ الترمذی وابوداؤد)
یہ نفوں مقدسہ جن کے تقدس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے
ان کو ایسے پرده کا حکم دیا جا رہا ہے۔

دوسری وجہ:

جس طرح ہاتھ پاؤں، زبان، کان وغیرہ ظاہری اعضا کے گناہ ہیں اسی طرح دل کے بھی بہت سے گناہ ہیں، مثلاً کبر، عجب، ریاء وغیرہ، اسی طرح غیر محروم درست کو دیکھے بغیر صرف اس کے تصور سے لذت حاصل کرنا دل کا گناہ ہے، اور دیکھنے میں آنکھ اور دل کا گناہ ہے۔

تیسرا وجہ:

جو کام کسی دوسرے حرام کا ذریعہ بن سکتا ہو وہ بھی حرام ہے، نظر سے ثابت پیدا ہوتی ہے جو بدکاری تک پہنچاتی ہے، با اوقات درجہ عشق تک پہنچ جاتی ہے جس سے آخرت کی بر بادی کے علاوہ دنیا کی بر بادی کے بھی بے شمار واقعات کا مشاہدہ ہو رہا ہے مقدمہ آن کریم کی آیت اور حدیثیں جو میں نے پڑھی ہیں ان میں بھی یہی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ غیر محروم کو دیکھنے سے بدکاری پیدا ہوتی ہے۔

چوتھی وجہ:

عقلی لحاظ سے بھی یہ قاعدہ عین معقول اور پوری دنیا کا مسلمہ ہے کہ جرم تک پہنچنے کا ذریعہ بھی جرم ہے، چنانچہ حفاظت مال کے لئے اس کو غیر سے بچایا جاتا ہے، صرف غیر کی نظر ہی سے نہیں بلکہ انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کسی قسم کا علم تک بھی نہ ہو، جب مال کی حفاظت کیلئے اس کو غیر کی نظر سے بلکہ غیر کے علم سے بچانا ضروری

کسجا جاتا ہے تو عزت اور دین کی حفاظت کے لئے یہ کیوں ضروری نہیں؟ غیر کی نظر سے جس قدر مال کی حفاظت ضروری ہے اس سے کئی مگنا زیادہ نظر غیر سے عورت کی حفاظت ضروری ہے، جس کی چند وجوہ ہیں:

- عزت اور دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے بذریعہ زیادہ ضروری ہے۔
- مال کو چور لے گیا اور پھر وہ واپس مل گیا تو اس میں کوئی تقصی نہیں آیا، مگر عورت کوئی لے اڑا تو کیا واپسی کے بعد اس کا عیب جاتا رہا؟
- مال میں خود اڑنے کی صلاحیت نہیں، اس پر کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ اپنے اختیار سے خود بھاگ کر اس کے پاس نہیں جا سکتا، مگر عورت بسا اوقات نظر کے اڑ سے خود ہی اڑ جاتی ہے۔

پانچویں وجہ:

شریعت نے ہر ایسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جو صحت کے لئے مضر ہو، غیر محروم کی طرف دیکھنے سے صحت تباہ ہو جاتی ہے، دل، دماغ، اور اعصاب پر بہت برا اثر پڑتا ہے، مانگولیا اور جنون تک کے واقعات کا مشاہدہ ہے، مردوں میں جریان منی، سرعت ازال، نامردی اور عورتوں میں سیلان رحم (لیکوریا) اور بانچھ پن جیسے موزی امراض اسی بے پر دگی اور بد نظری کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔

پرده کی مخالفت کا اصل راز:

بے دین معاشرہ میں پرده کی مخالفت کا اصل راز نظارہ بازی کا مقابلہ ہے شوہر کو بیوی پر تقاضہ نہیں اور بیوی کو شوہر پر تقاضہ نہیں، مرد بیوی اور بیٹیوں کو اس لئے پرده نہیں کرواتا کہ پھر دسرے بھی اس سے پرده کروائیں گے، تو یہ لذت دیدار سے محروم ہو جائے گا، علاوہ ازیں بیوی اور بیٹیوں کے اس اعتراض بلکہ احتجاج سے بھی ڈرتا ہے کہ خود تو ہر وقت نئے سے نئے مزے اڑا رہا ہے اور ہمیں ان لذتوں سے روک رہا

ہے۔ بے دین عورتیں بھی اسی لئے پرده کی مخالف ہیں کہ وہ مختلف مردوں سے نظر بازی کی لذت سے محروم ہو جائیں گی، نامحرم مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہی پانی بھانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ثبوت بہت تیز ہو جاتی ہے اور جنسی قوت تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں یہ کتنا بڑا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔

اسی شرمناک حقیقت اس لئے بتارہا ہوں کہ شاید کسی کو شرم آجائے اور اسی بے شری سے توبہ کر کے دنیا و آخرت کے عذاب سے فجع جائے۔ واللہ! دل پر پھر رکھ کر بتا رہا ہوں۔ اسی بے حیائی کی باتیں از خود نہیں کہہ رہا بلکہ بے دین اور بے حیا معاشرہ مجھ سے کھلوار ہا ہے، یہ بے حیائی دیکھ کر میرے دل میں درد اٹھتا ہے جو اسی باتیں بتانے پر مجبور کر رہا ہے کہ شاید یہی کسی کی ہدایت اور دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے، میں تو زبان سے بتاتے ہوئے بھی شرم و حیا سے پانی پانی ہو رہا ہوں مگر آج کے مسلمان کو اسی بے حیائی کے کام کرنے سے بھی حیا اور شرم نہیں آتی۔ فکر آخرت نہیں تو کم از کم کچھ انسانی غیرت اور شرم و حیا ہی ہوتی۔ یا اللہ! تو یہی اس قوم کو ہدایت دے۔

چند اشکال اور ان کے جواب:

آخر میں پرده کے بارے میں عام پیدا ہونے والے کچھ اشکالات کے جوابات
کچھ یعنی:

بچپن میں ساتھ رکھنے سے پرده معاف نہیں ہوتا:

● بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے دیوروں کو بچپن سے پالا ہے اس لئے ہم تو ان کی ماں جیسی ہیں، ان سے کیا پرده؟ اسی طرح بعض مرد کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی تو میری بیٹی کی طرح ہے، یا لڑکی کہتی ہے کہ فلاں شخص تو میرے ابا کی عمر کا ہے اس سے بھلا کیا پرده؟

اس قسم کے خیالات دین سے بے فکری اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے فریب کام نہیں دیں گے، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور صاف صاف احکام سنا چکا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی عورتوں کے لئے والد کی طرح نہیں تھے؟ پھر پرده کا حکم کیوں فرماتے تھے؟ ایسے کھلے احکام میں بہانہ تراشی وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فکر آخوت سے بالکل خالی ہو۔

آج کے مسلمان کی مکاری:

میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کی عقل بھی منع ہو جاتی ہے، گناہوں کا وبا عقل پر ایسا پڑتا ہے کہ پھر موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، چنانچہ اسی جہالت کو دیکھ لیں، اگر کسی میں ذرا سی بھی عقل ہو تو وہ کبھی ایسی جہالت کی بات نہیں کہہ سکتا، عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب ان سے نکاح درست ہے تو پرده کیوں نہیں؟ مگر یہ دنباذ مسلمان دیسے تو کسی کو بیٹی، کسی کو ماں اور کسی کو بہن بنائے رکھتا ہے مگر جب ان میں سے کسی سے شادی کا شوق ہو جائے تو اس کے لئے سب کچھ حلال ہو جاتا ہے۔

اگر ایسی مثالوں سے پرده معاف ہو جائے تو دنیا میں پرده کا حکم کہیں بھی نہیں رہے گا، اس لئے کہ ہر مرد و عورت میں عمر کے لحاظ سے کسی نہ کسی رشتہ کی مثال موجود ہے، عمر کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں آپس میں یا باپ بیٹی جیسے ہوں گے یا ماں بیٹی جیسے یا بھائی بہن جیسے، بس چھٹی ہوئی، بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی عقل کو انداز کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ایسی موٹی بات سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔

بوزھوں سے پرده کی زیادہ ضرورت:

● جب کوئی شخص بوزھا ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب اس سے پرده کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی سراسر جہالت ہے، کسی عمر میں بھی قطعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ اب اس میں قوت باہ بالکل نہیں رہی، بالفرض قوت باہ نہ رہی تو کیا بوس و کنار کی قوت بھی نہیں رہی، دنیا میں ایسے لوگوں کی نہیں کہ عملاً بالکل صفر ہونے کے باوجود لپٹے رہتے ہیں، بڑھاپے میں اعصابی کمزوری کی وجہ سے قوت ضبط کم ہو جاتی ہے، اس لئے اس قسم کے خطرات جوانوں کی نسبت بوزھوں سے زیادہ ہیں، اگر کوئی بوزھا دست درازی نہ بھی کرے تو دل ہی دل میں مزالیتا ہی رہے گا اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جو عورت اس کے سامنے بے پرده آئی چونکہ اس نے اس کو اس کبیرہ گناہ میں بہتا کیا اس لئے وہ بھی سخت گناہ گاڑ ہوئی، خوب سمجھ لجئے، بڑھاپے سے صرف عملی قوت ختم ہو جاتی ہے دل کی شہوت ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔

ای تفصیل پر بوزھی عورت کو قیاس کر لیں، عورت خواہ کتنی ہی بوزھی ہو جائے اور کیسی ہی ناقابل عمل ہو جائے، اس کے دل سے شہوت ختم نہیں ہوتی، جب یہ کسی جوان مرد کو دیکھے تو کچھ بعید نہیں کہ دل لپچانے لگے جو گناہ کبیرہ ہے، یہ جو میں نے کہہ دیا کہ عورت بڑھاپے کی وجہ سے ناقابل عمل ہو جائے، یہ صرف ایک مفروضہ کے طور پر کہہ دیا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کسی عمر میں بھی ناقابل عمل ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لئے حضرات فقہاء حبہم اللہ تعالیٰ کی دور رس نگاہ نے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ عورت خواہ کتنی ہی بوزھی کیوں نہ ہو اس کے لئے بلا محروم سفر کرنا جائز نہیں، کیا عجیب جملہ فرمایا:

”لکل ساقطة لا قطة“

ترجمہ: ”ہرگزی پڑی چیز کو دنیا میں کوئی نہ کوئی انھانے والا موجود ہے۔“

قرآن کریم میں سورہ نور میں فرماتے ہیں:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّكَلِ الْقِيَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَئِسَ
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُفَ شَابَهُمْ بِغَيْرِ مُتَبَرِّحَتٍ
بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾

(ب) (۶۰ - ۱۸)

اس سے بوڑھی عورتوں کے لئے صرف اتنی رخصت نکلتی ہے کہ ان پر چہرہ کا پردوہ فرض نہیں، اس لئے ان کی طرف سے کسی غیر محروم مرد کی نظر سے کسی قسم کے فتنہ کا کوئی اندیشہ نہیں، اس کے باوجود ارشاد ہے: "غَيْرَ مُتَبَرِّحَتٍ بِزِينَةٍ" یعنی ان کے لئے بھی اپنی زیب و زینت غیر محروم مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، پھر آگے ارشاد ہے:

﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَهُمْ﴾ (ب) (۶۰ - ۱۸)

یعنی ان کے لئے بھی چہرہ کی بے پر دگی سے پرہیز ہی بہتر ہے، ذرا غور کیجئے کہ جب فتنہ کا کوئی اندیشہ نہ ہونے کی حالت میں یہ احکام ہیں تو جن مواقع میں فتنہ کا خطرہ ہو وہاں کیا حکم ہوگا؟ بوڑھی عورت کا غیر محروم مرد کے ساتھ تنہائی میں ایک جگہ جمع ہونا، اس کے ساتھ سفر کرنا، اس کے ساتھ بے جوابانہ اخلاق اور بات چیت کرنا، اس کی طرف بلا ضرورت دیکھنا یہ سب کام حرام ہیں، اس لئے ان میں فتنہ کا خطرہ موجود ہے، جس کی تفصیل ابھی بتاچکا ہوں۔

نامحرم کی طرف ولی رغبت بھی حرام ہے:

میری اس تقریر پر کہ دل کی رغبت پر بھی موافقہ ہے، شاید کسی کو اشکال ہوا ہو کہ دل کی رغبت تو غیر اختیاری ہے، اس پر موافقہ اور عذاب کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل کی رغبت کے اسباب و مقدمات اختیاری ہیں، اس لئے یہ رغبت بھی اختیاری

خطبات الرشید

ہی کے حکم میں ہے، دل کی شہوت کے اسباب و مقدمات اختیاری ہیں، اس لئے یہ رغبت بھی اختیاری ہی کے حکم میں ہے، دل کی شہوت کے اسباب و مقدمات جو اختیاری ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

① غیر محروم کو قصد آدی کھانا۔

② غیر محروم پر ابتداء غیر ارادی نظر پڑی مگر نظر کو فوراً ہٹایا نہیں بلکہ قصد آدی کھتارہ۔

③ غیر ارادی نظر کو فوراً ہٹایا مگر دل میں اس کے خیال کو قائم رکھا، یعنی قصد آدی سوچتا

④ بدول دیکھنے غائبانہ ہی غیر محروم کا تصور قصد آدی میں لا کر اس سے لذت حاصل رہ رہا ہے۔

یہ چاروں چیزیں اختیاری ہیں، اس لئے حرام ہیں۔

ابتنہ اگر کسی غیر محروم پر غیر ارادی طور پر اچانک نظر پڑگئی اور اس کو فوراً ہٹایا اس کے باوجود غیر اختیاری طور پر اس کا اثر دل پر ہو گیا، اسے قصد آدی میں بٹھایا نہیں اور اپنے اختیار سے نہیں سوچ رہا بلکہ گندے خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر کوئی مواد خذہ نہیں، خواہ یہ خیال آکر فوراً نکل جائے یا بلا اختیار بار بار کھلتارہ، دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ اس کو قصد آنہ سوچے۔

بزرگوں سے زیادہ پرده کی ضرورت:

⑤ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بزرگوں سے بالخصوص اپنے پیر سے پرده کی ضرورت نہیں، شاید یہ لوگ انہیں نامرد سمجھتے ہیں۔

یہ بہت جہالت ہے، بزرگوں میں تو لطافت مزاج کی وجہ سے شہوت اور بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، اور عرفت کی وجہ سے قوہ باہ بھی زیادہ ہوتی ہے، البتہ ان میں نفس پر ضابطہ رکھنے کی بہت بہت ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کے سامنے بے پرده جانے میں چار

گناہ ہیں:

❶ شریعت کے حکم کی مخالفت، میں پہلے بتاچکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خواتین کو پرده کرنے کا حکم تھا، خواتین بھی کیسی؟ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، کیا کوئی بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے؟

❷ قصداً شہوت انگیزی کے موقع فراہم کرنا، یہ حقیقت بتاچکا ہوں کہ بزرگوں میں دوسروں سے زیادہ شہوت ہوتی ہے۔

❸ بے پرده سامنے جانے والی عورت کے دل میں رغبت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔

❹ بسا اوقات یہ رغبت ابتلاء کا سبب بن جاتی ہے، بالخصوص یہ عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جو اپنے نفس کو خطرہ سے محفوظ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ایک بزرگ کے پاس باندی چھوڑنے کا قصہ بتاچکا ہوں۔

یہ حقیقت بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو بزرگ یا پیر عام عورتوں یا خاص مرید نیوں کو بے پرده سامنے آنے سے روک نہیں رکتا، وہ بزرگ ہرگز نہیں ہو سکتا، درحقیقت وہ بزرگ کی صورت میں بھیز ریا ہے۔

مدت تک بے پرده رہنے سے پرده معاف نہیں ہوتا:

❺ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں سے مدت تک پرده نہیں کیا، ان کے سامنے آتے رہے، وہ ہماری شکل و صورت کو خوب اچھی طرح دیکھ چکے ہیں، اب ان سے پرده کرنے کا کیا فائدہ؟ یا کہتی ہیں کہ جوانی میں تو پرده کیا نہیں اب بڑھاپے میں کیا پرده کریں؟

یہ بھی بے کنجی کی بات ہے، اگر کوئی سالہا سال کسی گناہ میں جتلارہے تو وہ گناہ اس کے لئے حلال نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پر افاض۔ کہ اور بھی زیادہ آ۔ سے مالک

خطبات الرشید

کے سامنے خوب گزگزا کر توبہ کرے، ساری عمر گناہوں میں گزار دی تو اب بڑھاپے میں جبکہ قبر میں چھپنے والے ہیں، حساب و کتاب بہت قریب ہے، بہت جلد ہی مالک کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اب تو توبہ کرلو۔

سے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر
وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنجل گیا

اچانک نظر پڑ جانے سے پرده معاف نہیں ہوتا:

❸ بعض خواتین کہتی ہیں کہ فلاں رشتہ دار کی کئی پار مجھ پر اچانک نظر پڑ گئی ہے، اب اس سے پرده کا کیا فائدہ؟ یہ تو بہت بڑی حماقت ہے اگر کسی کے سامنے اچانک ستر کھل جائے تو کیا کوئی احمق عورت بھی اس سے یہ نتیجہ نکال سکتی ہے کہ اب اس سے ستر چھپانے کی ضرورت نہیں اس لئے اس کے سامنے نشانگی پھرتی رہے۔

بلا قصد غیر اختیاری طور پر کوئی غلطی ہو جانے کے بعد اپنے اختیار سے قصد اداہ گناہ کرنا جائز نہیں، بلکہ پہلے بتاچکا ہوں کہ اگر قصد ابھی کسی گناہ میں ابتلاء ہا اور سالہا سال اس گناہ میں ابتلاء ہے تو بھی یہ گناہ حلال نہیں ہوتا بلکہ اس سے توبہ کرنے کی فکر تو بہت زیادہ ہونا چاہئے۔

شرعی پرده کے لئے الگ مکان ضروری نہیں:

❹ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کئی بھائی یا بہت سے رشتہ دار ایک ساتھ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، الگ مکان لینے کی گنجائش نہیں اس لئے پرده مشکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی پرده کے لئے الگ مکان لینے کی کوئی ضرورت نہیں،

شریعت بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر بہت وسیع ہے، وہ بندوں کو تکلیف اور تنگی میں جتنا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ راحت و سہولت میں رکھنا چاہتے ہیں، شرعی پرده کے بارے میں ان کی دوی ہوئی سہولتوں اور کرم نوازی کی تفصیل نہیں، رحمت

ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت، اگر کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی احساس ہو تو اس رحیم و کریم کی مہربانیوں، کرم نوازیوں اور احکام میں دی ہوئی سہوتوں پر قربان ہو جائے اور مر مننے کے لئے بے تاب ہو جائے، یا اللہ! تو سب کے دلوں کو احساس اور اپنی ایسی محبت سے منور فرماء، شکر نعمت سے معمور فرمانا قدری اور ناشکری سے حفاظت فرماء، تیری وہ رحمت جس کی وجہ سے تو نے ایسے آسان احکام دیئے، اسی رحمت کے صدقہ سے تجھ سے شکر نعمت کی توفیق طلب کرتے ہیں، سب کے دلوں پر اپنی وہی رحمت نازل فرماء۔

شرعی پرده میں شرعی آسانیاں:

اب رب کریم کی کرم نوازی اور رحمت کی تفصیل سنئے:

❶ ایسے حالات میں خواتین ذرا ہوشیار رہیں، بے پردوگی کے موقع سے حتی الامکان بچیں، لباس میں احتیاط رکھیں بالخصوص سر پر دوپٹہ رکھنے کا اہتمام رکھیں۔

❷ مرد آمد و رفت کے وقت ذرا کھنکار کر خواتین کو پرده کی طرف متوجہ کر دیں، بعض خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے غیر محروم رشتہ دار سمجھانے کے باوجود گھر میں کھنکار کر آنے کی احتیاط نہیں کرتے، اچانک سامنے آ جاتے ہیں، آمد و رفت کا یہ سلسلہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے، ان سے پرده کرنے میں ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، ایسے حالات میں خواتین جتنی احتیاط ہو سکے کریں، اسے جہاد سمجھیں، جتنی زیادہ مشقت برداشت کریں گی اتنا ہی اجر زیادہ ہو گا۔

❸ غیر محروم مرد کی آمد پر خواتین اپنا رخ دوسری جانب کر لیں۔

❹ اگر رخ دوسری جانب نہ کر سکیں تو سر سے دوپٹہ سر کا کر چہرہ پر لٹکا لیں۔

❺ بلا ضرورت شدیدہ غیر محروم سے بات نہ کریں۔

❻ کسی غیر محروم کی موجودگی میں خواتین آپس میں اینے محارم کے ساتھ بے جواباً نہ

بے تکلفی کی باتوں اور نہی مذاق سے پرہیز کریں۔

● ان احتیاطوں کے باوجود اگر کبھی اچانک کسی غیر محروم کی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، بلکہ اس طرح بار بار بھی نظر پڑتی رہے، ہزار بار اچانک سامنے ہو جائے تو بھی سب معاف ہے، کوئی گناہ نہیں، اس سے پریشان نہ ہوں، جو کچھ اپنے اختیار میں ہے اس میں ہرگز غفلت نہ کریں اور جو اختیار سے باہر ہے اس کے لئے پریشان نہ ہوں، اس لئے کہ اس پر کوئی گرفت نہیں، ہزاروں بار بھی غیر اختیاری طور پر ہو جائے تو بھی معاف، وہاں تو معافی ہی معافی ہے۔ دیکھنے رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، مگر ان کی اس مہربانی اور معافی کو سن کر نذر اور بے خوف نہ ہو جائیں جس حد تک احتیاط ہو سکتی ہے اس میں ہرگز ہرگز کوتاہی نہ کریں، ورنہ خوب سمجھ لیں کہ جس طرح وہ رب کریم شکر گزار اور فرمانبردار بندوں پر بہت مہربان ہے، اسی طرح ناقدروں، ناشکروں اور نافرانوں پر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔

ہم پائیج بھائی ہیں، بسا اوقات رمضان المبارک کا مہینہ والدین کے ساتھ گزارنے کے لئے سب بھائی بیوی بچوں سمیت والدین کے ساتھ ایک ہی مکان میں ایک دو مہینے گزارے، مگر محمد اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے احتیاط کی برکت سے کبھی اچانک نظر پڑنے کا بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی شکلی اور تکلیف قطعاً محسوس نہیں ہوئی، رحمت ہی رحمت اور سرت ہی سرت سے وقت گزرتا ہے، میں نے اپنا یہ قصہ اس لئے بتایا ہے کہ جو تم پریس میں نے اکٹھے رہنے کی صورت میں بتائی ہیں وہ صرف خیالی نہیں بلکہ ہم خود ان کی ہافیت کا تجربہ کر چکے ہیں، اپنے اوپر آزمانے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں۔

پرده عورت پر فرض ہے نہ کہ مرد پر:

● بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو ہمارے کہنے کے

باد جو دغیر محروم رشتہ دار عورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم سے پرده نہیں کرتیں۔

یہ حضرات پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پرده عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں، اس لئے اگر عورتیں بے پرده سامنے آتی ہیں تو وہ عورتیں گناہ گار ہیں مرد پر کوئی گناہ نہیں، ایسی صورت میں ان ہدایات پر عمل کریں:

● اپنی نظر پنجی رکھیں۔

● بلا ضرورت غیر محروم عورت سے بات نہ کریں۔

● ایسے موقع میں پرده کی اہمیت بیان کیا کریں، اس میں ایک فائدہ تو یہ ہو گا کہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ ادا کر دیا، دوسرا فائدہ یہ کہ شاید ان عورتوں کو آپ کی تبلیغ سے ہدایت ہو جائے تو آئندہ کے لئے ان گھروں میں آپ کی آمد و رفت میں سہولت ہو جائے گی، آپ کے سامنے غیر محروم عورتیں نہیں آئیں گی، خدا خواستہ ان کو ہدایت نہ بھی ہوئی تو کم از کم اتنا فائدہ تو ہو گا ہی کہ آپ کے سامنے آنے سے شرما میں گی، انسان کا طبعی خاصہ ہے کہ وہ غیر کے سامنے ایسی حالت میں جانے سے شرما تاہے جو اس غیر کو ناپسند ہو، بہت سی عورتیں عوام بلکہ فاسق و فجارتک سے پرده نہیں کرتیں مگر علماء و صلحاء سے پرده کرتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء و صلحاء بے پردوگی کو برائحتے ہیں، اس لئے یہ عورتیں ان کے سامنے بے پرده آنے سے شرما تی ہیں، آپ اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ آپ بے پردوگی کو برائحتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہو گا کہ غیر محروم عورتیں آپ کے سامنے آنا چھوڑ دیں گی، یہ نہ بہت مجرب ہے میں نے کئی لوگوں کو بتایا انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان غیر محروم عورتوں سے نجات مل گئی۔

گھر میں شرعی پرده کروانے کے طریقے:

● بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں پرده کروانا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بہت کوشش اور بہت تبلیغ کرتے ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہوتا یہوی پرده نہیں کرتی، اس حالت

میں ہم سخت گناہ گار ہو رہے ہیں کیا کریں؟ ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں، میری بیوی غیر محرم قریب رشتہ داروں سے پرداز نہیں کرتی، سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتی، بے پروگری کی وجہ سے میں فاسق ہوں اور فاسق کی امامت مکروہ تحریکی ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا امامت چھوڑ دوں؟ اسی حالت میں شرعی احکام یہ ہیں:

❶ اپنے اعمال درست کرنے کی فکر کریں، اپنا ظاہر و باطن شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو دوسروں پر اس کی بات اثر کرتی ہے، بلکہ لوگ اس کے عمل ہی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔

❷ اپنی خواہشات نفسانیہ اور دنیوی کاموں میں بیوی پر ناراض نہ ہوں اور محبت نہ کریں، ورنہ وہ سمجھے گی کہ دینی کاموں میں آپ کی ناراضی بھی آپ کی افاداطبع ہی ہے، دین کو صرف غصہ لالئے کا بہانہ بنارکھا ہے۔

❸ بیوی کے لئے ہدایت کی دعا کیا کریں۔

❹ نرمی اور محبت سے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔

❺ روزانہ بلا ناغ تھوڑی سی دیر کے لئے کوئی ایسی کتاب پڑھ کر سنایا کریں جس سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو، جیسے ”حکایات صحابہ“ وغیرہ، زبانی بتانے کی بجائے کتاب پڑھ کر سنایا گریں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کی کئی وجہوں ہیں:

❻ قدرتی طور پر انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس پر اپنے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے، بالخصوص میاں بیوی کا آپس کا ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نصیحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں، ان غیار بالخصوص اکابر اور ان سے بھی بڑھ کر گذشتہ زمانہ کے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔

❼ کتاب میں اس کے مصنف کی للہیت اور اخلاص کا اثر ہوتا ہے۔

۱ کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ہر بات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے، اس لئے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے حفاظت نہ ہے آسان ہے۔

۲ کتاب پڑھ کر سنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے، زبانی بتانے میں بات بھی ہو جاتی ہے، جس سے سننے والے کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔

۳ اگر سختی کا تحمل ہو تو بقدر ضرورت سختی سے کام لیں مگر خوب سوچ کر، پہلے خوب سمجھ لیں کہ اگر سختی کرنے سے یہوی روٹھ کر میکے چلی گئی یا گھر ہی میں رہ کر و بال جان بن گئی، تو آپ ان حالات کا تحمل کر سکیں گے؟ اگر خوانخواست پریشان ہو کر آپ نے یہوی کی خوشامد کی تو کیا عزت رہی؟ اپنی عزت بر باد کرنے کے علاوہ دوسرا نقصان یہ کہ آئندہ کے لئے یہوی ہر معاملہ میں سر پر چڑھ کرنا پچے گی، اس لئے بلا سوچ سمجھ کوئی سخت اقدام ہرگز نہ کریں۔

۴ اگر زمی گرمی کسی تدبیر سے یہوی ہدایت پر نہیں آتی تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ جو ہدایات بتا چکا ہوں ان میں سے کسی میں غفلت نہ کرے، اپنا اختیار پورے طور پر استعمال کرے، اس پر صرف یہی فرش ہے آگے ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، شوہر کے اختیار میں نہیں، اس لئے ہر ممکن کوشش کے باوجود یہوی پرده نہ کرے تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں۔

بے پرده یہوی کو طلاق دینا بھی ضروری نہیں، جب عیسائی اور یہودی جیسی کافر عورت سے نکاح جائز ہے تو بے پرده مسلمان عورت سے بطریق اولیٰ جائز ہے، البتہ یہ خیال رہے کہ یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح ہو تو جاتا ہے مگر اس زمانہ میں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، سخت گناہ ہے، اس لئے کہ اولان تو ایسی عورت میں شوہر ہی کو مرتد بنا دیتی ہیں، اور اگر شوہر نجع بھی جائے تو اولاد کو تو یقیناً اپنے دین پر لے جاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ بے پرده یہوی کو گھر میں رکھنے کی اجازت جو میں نے بتائی

ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد اس کی بے دینی کا عالم ہوا، یا علم تو شادی سے پہلے تھا مگر اس وقت خود اپنے اندر ہی آخرت کی فکر نہ تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پرده کی فکر پیدا ہوئی، مقصد یہ ہے کہ اہتمام بے پرده محورت سے شادی کرنا جائز نہیں، البتہ شادی کے بعد ایسا ابتلاء پیش آیا تو بھوری اس پر صبر کرنا جائز ہے۔

آخر میں ان رشتہ داروں کی فہرست سن لیجئے جن سے پرده فرض ہے مگر دینداری کے بلند و بائیک دعوے کرنے والے لوگ بھی اس کبیرہ گناہ کے مرکب ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس بارہ میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی علاویہ بغاوت کر رہے ہیں۔ ① پچھا زاد ② پھوپھی زاد ③ ماموں زاد ④ خالہ زاد ⑤ دیور ⑥ جیٹھ ⑦ بہنوئی ⑧ نندوئی ⑨ پھوپھا ⑩ خالو ⑪ شوہر کا پچھا ⑫ شوہر کا ماموں ⑬ شوہر کا پھوپھا ⑭ شوہر کا خالو ⑮ شوہر کا بھیجا ⑯ شوہر کا بھانجا۔

یا اللہ! تو سب کو صاحب ایمان بنادے، اپنی محبت عطا فرماء، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماء، اپنی محبت اپنا تعلق ایسا عطا فرمادے جو دنیا بھر کے تعلقات پر غالب آجائے، اپنا وہ خوف عطا فرمادے جو دنیا کے بھر کے خوف پر غالب آجائے، یا اللہ! تو صحیح معنوں میں مسلمان بنادے، ایسے مسلمان ایسے مومن بنادے جن کے اسلام اور ایمان پر قرآن کریم میں تو نے بار بار شہادت دی ہے، وہ اسلام عطا فرمادے ایمان عطا فرمادے، جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔

وَصَلَ اللَّهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدَ وَعَلَى الْهَمَّ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

مراتع

— وَعْد —

فِي الْعَصْرِ الْمُهْرَجِ مِنْ أَقْدَمِ الْأَنْوَارِ شَيْخُ الْأَحْمَادِ صَاحِبُ الْمُهَاجَةِ

— نَاسِر —

کتاب کہدا

ناظم آباد کراچی

فیض العصمتی علیہ السلام
مکتبہ علمیہ شیخ الاسلام جامع مسجد اسلام آباد کراچی

وعنوان: ن

نام: ن صراحت مستقیم

برقرار: ن جامع مسجد دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی

تاریخ: ن

وقت: ن بعد فرار عمر

تاریخ طبع مجلد: ن محرم ۱۴۲۳ھ

طبع: ن حسان پرنگ پریس فون: ۰۲۱-۹۶۳۰۱۹

ناشر: ن کتابخانہ ناظم آباد بہرہ کراچی ۷۵۶۰۰

فون: ن ۰۲۱-۹۶۰۲۳۶۱؛ پلیس: ۰۲۱-۹۶۲۳۸۱۳

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وعظ

صراط مستقیم

()

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ① صِرَاطَ الدِّينِ أَنْهَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ

الْمَفْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ② ﴾ (۷ - ۸)

﴿ قُلْ هُنَّ ذٰلِكُمْ أَذْعُو بِاللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۢ

وَسُبْخَنَ اللّٰهُ وَمَا أَنَا بِمِنْ أَمْشِرِيكٍ ۢ ﴾ (۱۰۸ - ۱۰۹)

سورة فاتحہ خلاصہ قرآن:

سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن اور خلاصہ ہے، اسی لئے اس سورہ کو "ام القراء" بھی کہتے ہیں۔ یہ پورے قرآن کی ماں اور اصل ہے اور سارا قرآن اس چھوٹی سی سورہ کی تفصیل اور شرح ہے۔

نمازی کی عجیب شان:

سورہ فاتحہ کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے: "الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بندہ جب نماز میں کہتا ہے: "الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ" تو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے جواب ملتا ہے: "حمدنی عبدی" میرے بندے نے میری حمد کی۔ اللہ تعالیٰ یہ جواب کیوں دیتے ہیں؟ معلوم تو ہے ہی کہ بندے نے حمد کی ہے میرا بندہ میرے سامنے بصد عجز و انکسار دست بستہ بکمال توجہ و خشوع و تضرع، دنیا و ما فیہا سے بے خبر میری حمد و ثناء کر رہا ہے۔ اور نمازی جب: "الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" کہتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ عابدو معبود کے درمیان راز ہے کوئی تیرا اس آواز کو نہیں سنتا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمारہے ہیں: "حمدنی عبدی"

سے میان عاشق و معشوق رمزیت
کراما کاتبین راہم خبر نیت

اللہ تعالیٰ سے لوگائے ہوئے اس سے تعلق بنائے ہوئے بس ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس کی حرکات و مکنات سے بخوبی مطلع ہیں تو جواب دینے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کیوں جواب دیتے ہیں؟ یہ باتیں سوچا کریں ان پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

سے یزیدک وجہہ حسنا
اذا مازدته نظرا

اللہ تعالیٰ کا کوئی قول و فعل بلا نفع اور بے فائدہ نہیں ہوتا۔ جواب میں حمدنی عبدی کہنے کا مقصد سوائے تہجیع، اکرام اور دلچسپی کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے میری طرف متوجہ ہے تو میں بھی تجھ سے غافل اور بے خبر نہیں بدرجہ زیادہ متوجہ ہوں، نمازی کے کان سماعت کریں یا نہ کریں، چونکہ الصادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس ایمان اور حق الیقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں: "حمدنی عبدی"۔

اس کے بعد جب نمازی کہتا ہے: "الرَّحْمَنِ الرَّاجِحِ" تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

سے جواب ملتا ہے: "اثنی علی عبدی" میرے بندے نے میری شاء کی۔ رحمٰن کے معنی ہیں بہت زیادہ حرم کرنے والا اور حیم کے معنی مطلق حرم کرنے والا۔

الفاظ مترادف سے جواب میں حکمت:

حمد و شاء میں بہت عجیق و دقيق فرق بیان کئے جاتے ہیں مگر درحقیقت دونوں کا حاصل ایک ہی ہے تو پھر ایک جملے میں: "حمدنی عبدی" اور دوسرے میں: "اثنی علی عبدی" کیوں فرمایا؟ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اکرام فرمائے ہیں۔ اس کو مثال کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جب کسی بڑے کو بذریعہ کلام یا خط خطاب کیا جاتا ہے تو اس میں مترادف الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً: "محترم و مکرم، محترمی، مکرمی، معظمی" ان سب کے معنی تو ایک ہی ہیں میرے لئے قابل تعظیم و تکریم یا واجب تعظیم۔ یا "مندوی و مطاعی" یعنی میں خادم اور اطاعت گزار ہوں یہاں بھی دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یا "منون و شکر گزار ہوں" جو معنی منون کے ہیں وہی شکر گزار کے ہیں، تو ایک ہی معنی کے مختلف الفاظ استعمال کرنے کی غرض و مقصود "تاکید اکرام" ہوتا ہے اگر وہی الفاظ مکمل رکھ لائے جائیں تو "تاکید" اس میں بھی بن جائے گی مگر اتحاد معنی اور اختلاف الفاظ میں سرو طبع اور تغفیر عبارات ہے جس سے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا مطلب ہوتا ہے، اس مقام میں بھی اللہ تعالیٰ: "حمدنی عبدی، اثنی علی عبدی" کے الفاظ مترادف کے ساتھ اپنے تابع اور مطبع بندے کا اکرام اور اس کے ساتھ محبت اور تعلق کا انتہا فرمائے ہیں۔

نمازی جب تیرا جملہ: "تَنِّيْكِ يَوْمِ الدِّينِ" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: "فَوَضَّلَ اللَّهُ عَبْدَهُ" اس دنیا میں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مالک ہیں، ایک سے کوئی کام چلتا ہے تو دوسرے سے کوئی دوسری حاجت پوری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کام کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں عارضی الالاک اللہ

تعالیٰ نے بنا دی ہیں حقیقت مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، کوئی دوسرا دم مارنے کی جرأت نہیں رکھتا مگر اس کے باوجود دنیا میں یہ چیز میری ہے یہ میری ہے، بس میری میری کی رث لگی ہوئی ہے روز جزا میں عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، تمام مجبور محض اور بے بس ہو جائیں گے جیسے حقیقت ملکیت انہی کی ہے ظاہراً بھی وہی مالک ہوں گے کوئی دوسرا نہیں ہے۔

یہ تعریف و توصیف، حمد و شنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب علامت قبول ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری حمد و شنا سن لی ہے، بس قبول ہے۔

تعلق مع اللہ اور محبت بڑھانے کا نسخہ:

نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جملے پر جواب دیا جاتا ہے اس کو سوچا کریں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو گا، محبت و انبات و توجہ الی اللہ میں زیادتی ہو گی، جب "الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" پڑھیں تو تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حمد کو سن کر جواب عنایت فرماتے ہیں: "حمدنی عبدی" اس "عبدی" کہنے پر انسان کو وجہ آجانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ ارشاد فرماتے ہیں کہاں وہ ذات پاک اور کہاں یہ تو وہ خاک، نمازی کو اس خطاب پر فدا ہو جانا چاہئے، کہاں وہ ذات مختار کل اور کہاں یہ سراپا عجز و انکسار، ہر جملہ ادا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے جواب پر خوب خوب غور کریں کہ گویا ان جوابات کو اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ نمازی جن کو یہ نعمت عظیمی حاصل ہے، اخلاص وللہیت، سراپا عجز و نیاز کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور درباری و مقرب بن جاتے ہیں، حمدنی عبدی، اثنی علی عبدی وغیرہما کے تمنۂ حاصل کرتے ہیں۔

اس کے بعد: "إِنَّاكَ نَبَّهْتُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ" "ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجوہ ہی سے مدد مانگتے ہیں: "إِنَّاكَ نَبَّهْتُ" ایک دعویٰ ہے کہ حمد و ثناء کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، حکومت و سلطنت ہے تو صرف تیری، صرف تیرے علیٰ احکام کا اتباع کریں گے اس نے مقابله میں دنیا بھر کے احکام کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے، موحد ہیں، تیری ذات کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے بس ہے تو صرف تو ہی ہے، یہ دعویٰ عظیم الشان ہے لیکن اس کے ساتھ: "وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ" کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں، کہ یا اللہ! اس بات میں کہ ہم تیری ہی بات مانیں گے، کسی لور کی نہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں اس پر استقامت و تصلب اور مضبوطی میں صرف تجوہ ہی سے نصرت و مدد مانگتے ہیں، تیری امداد ہو گی تو ہم اس بات پر قائم رہ سکیں گے ورنہ نہیں، اپنا محاسبہ کیجئے، اس موقف پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، یہ "لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی دوسری تعبیر ہے، "لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے کو تو بہت آسان ہے، ہر مسلمان کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتا ہے مگر عملی دائرہ کار میں اپنے اعمال کا احتساب کریں، حالات کا جائزہ لیں کہ کتنے مسلمان اس کے تقاضوں پر عامل و کاربند ہیں؟ ایک جانب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے تقابل میں دو قسم کی طاقتیں سامنے آتی ہیں ① بیرونی ② اندرونی، قسم اول جیسے اعزہ و اقارب، حکام، برماحول و معاشرہ، دوست احباب اور عام جان پہچان رکھنے والے اسی زمرہ میں شیطان بھی داخل ہے۔ دوسری قسم خود اپنے نفس کے تقاضے، یعنی خواہشات نفس تو اس تقابل کے وقت آپ کس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر یا عاجز مخلوق کے اشاروں پر، شادی بیاہ میں احکام الہی ملاحظہ رکھتے ہیں یا اعزہ و اقارب کو ترجیح دیتے ہیں، میت کے ایصال ثواب میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع و اطاعت کرتے ہیں یا احباب و اقرباء کی رضا و خوشی سامنے رکھتے ہیں، مسلمان کہنا بہت آسان ہے، اس کلمہ کی عملی تعبیر

بننا بہت مشکل ہے۔

۷۔ اگر گویم مسلمان برزم
کہ دام مشکلات لا الہ الا اللہ

ایک باہمی شخص کا قصہ:

ابھی چند دن قبل کسی نے فون پر بتایا کہ ایک شخص کے والد فوت ہوئے تو انہوں نے یہ جرأت مندانہ اعلان کر دیا: ”تجھا، چالیسوائیں، جمرات وغیرہ بدعاں و خرافات نہیں ہو گی۔“

یہ سن کر بہت سرت ہوئی اور میں نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو لا الہ الا اللہ اور ایک نعبد پر عمل کی توفیق عطا فرمادی، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کسی کی پرواہ نہیں کی، اس اعلان کرنے والے کو میری طرف سے مبارک باد دے دیں“ تو فون کرنے والے نے بلا تاخیر فوراً کہا:

”وفن کرنے کے بعد کچھ لوگ سیدھے اہل میت کے گھر پہنچے ہوئے ہیں
جب تک قورمه پلاڈ نہیں کھائیں گے وہاں سے میں مگنے نہیں۔“
میں نے کہا:

”جتنے لوگ گدھوں کی طرح (گدھ کہہ لیں یا گدھ ہے ایک ہی بات ہے)
وہاں جمع ہیں ان کو کارخانے کی صفائی میں لگائیں، ان سے کہیں کہ والد
صاحب کافی نہوں سے بیمار تھے کام کا ج چھوٹے ہوئے ہیں، کارخانے کی صفائی بھی نہیں ہوئی تعاون کریں اس کے بعد کھانا یہاں نہیں گھر جا کر کھائیں، جتنے لوگ وہاں آدمکے ہیں ان سے صاحزاوے نے یہ نہیں کہا؟“

فون کرنے والے نے جواب بتایا:

”وہ تو خاموش ہیں اور جب تک یہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔“

میں نے کہا:

”میں آدمی مبارک پاد واپس لیتا ہوں اس لئے کر اعلان کرنے کے بعد اب اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، ان کی ناراضی کو خاطر میں کیوں لا رہے ہیں، ان گدھوں، کو وہاں سے بھگاتے کیوں نہیں، اس لئے آدمی مبارک واپس۔“

اعلان تو آسان تھا مگر عمل مشکل ہو گیا، اعزہ واقارب کی رضا و خوشی کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر مقدم کر دیا کہ کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، مجبوراً کھانے کا انتظام کیا، حالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بہر حال مقدم رہے، تعلقات ٹوٹتے ہیں تو پرانیں، احباب واقارب ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، معاشرہ ساتھیں دیتا تو نہ دے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں کسی مصلحت کا فکار نہیں ہوتا۔

سے سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہئے
مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہئے
بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہئے کیا کیا نہ چاہئے
یا اللہ! آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا، اب اس پر استقامت صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ کی دلخیبری سے حق تمام مسائل حل ہوں گے، اس میں ہمارے کمال کو کوئی دخل نہیں، اس لئے: ”إِنَّاَكَ مَبْشِّرٌ“ کے بعد: ”وَإِنَّاَكَ نَسْتَعِينُ“ کی تلقین فرمائی، غرائض و سنن، نوافل و واجبات میں بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وعدہ کرتے ہیں، محض زبانی عہد نہ ہو، دل و جان سے اس کو تسلیم

کر کے سوچا کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن حاضر ہونا ہے، مخفی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، ورنہ دنیا و آخرت میں ذلت و رسولی کا سامنا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ زبان سے تو بار بار عہد کرتا تھا، کبھی اس پر عمل کا بھی سوچا تھا۔

اہل محبت کے لئے دین بہت آسان ہے:

اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت ہی آسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمائچے ہیں: "الدین یسر" دین بہت آسان ہے اور میں بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ دین پر عمل کرنا تو بہت ہی آسان ہے مگر اس بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دین پر چلنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، بے دین معاشرہ ماحول کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و خوف ہر چیز کی محبت و خوف پر غالب ہوتا ہے، جس کے مطیع نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے اس کے لئے دین پر عمل کرنا بہت ہی سہل ہے بلکہ دین کے ساتھ اس کو اس قدر محبت والفت ہوتی ہے جس قدر مچھلی کو پانی سے بلکہ اس سے بدرجہ زیادہ، اور یہ محبت و آسانی اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرمادیتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ جَنَحُدُوا فِي سَانَةٍ لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُّلَنَا﴾ (پ ۱۲ - ۶۹)

مؤمن کسی مصلحت کا فکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھانے رکھتا ہے، اور جس کو دین پر عمل کرنا ہی نہ ہواں پر کار بند ہونے کی ہمت و عزم ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں غیر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر غیر اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھتا ہے اس کے لئے دین پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی، بعض لوگ صرف دعاء کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، کوشش اور ہمت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے احکام پر عمل کی

توفیق اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود کر بستہ ہو جائے، عزم مصمم کر لے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔

یا اللہ! تو ہی اپنی رحمت سے قلوب میں ایسی محبت عطا فرمائے کہ وہ ہر محبت پر غالب آجائے، اپنا ایسا خوف نصیب فرمائے کہ ہر خوف پر غالب آجائے، اور تیری محبت و خوف کی وجہ سے تیری ہر چھوٹی بڑی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے۔

عبادت کا معتبر طریقہ:

”إِنَّا نَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ“ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ کون بتائے گا کہ عبادت کیسے کریں یہ تو ممکن نہیں کہ ہر شخص پر وحی نازل ہو، جب ریل طیہ السلام آکر بتائیں یا خود اللہ تعالیٰ تشریف لائیں یہ تو نہیں ہو سکتا، وحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نازل نہ ہوگی، اس کے بعد اس کی تشریع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احادیث مبارکہ کی توضیح کے لئے کچھ رجال چاہئیں کیونکہ براہ راست قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا اور ان کی مراد و مطلوب تک صحیح رسائی حاصل کرنا ہر شخص کے لئے ممکن نہیں، ان کی تفسیر و تعبیر کچھ لوگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكِرُونَ﴾ (۱۱) (ب۔ ۴۴ - ۱)

آپ قرآن مجید کی وضاحت فرمائیں گے، قرآن کی تعریع و تعبیر، توضیح و تفسیر، تعلیم و تبیین وہی معتبر ہوگی جو آپ فرمائیں گے، آپ جو تفسیر فرمائیں گے وہی واجب القبول ہوگی۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنا بھی ہر کس وناکس کا کام نہیں بلکہ صرف اہل تفکر مجتهدین کا کام ہے۔ جیسے فہم قرآن کے لئے حدیث کی ضرورت

ہے ایسے تھی فہم حدیث کے لئے اہل تفکر کی ضرورت ہے۔

قرآن کی اس ہدایت سے قطع نظر کر کے قرآن و حدیث کو سمجھنا ضلالت و گمراہی ہے، ایسا شخص ضال و مضل ہے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہی و ضلالت میں دھکیلنے والا ہے۔

مضامین قرآن کی دو قسمیں:

کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو "لتہیں للناس" فرمایا کہ آپ اس کی تشریع فرمائیں گے اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مَدْكُرٍ﴾ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں دو قسم کے مضامین ہیں: ① وعظ و تذکیر ② استنباط مسائل۔

قسم اول وہ مضامین ہیں جن سے فضیحت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اس کی محبت دل میں پیدا ہو، انسان بننے کی فکر ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات و کمالات، اور اس کی قدرت کر کر شے، ان مضامین کو کوئی پاگل سے پاگل بھی پڑھے گا تو اس کے قلب پر اثر ہو گا اس لئے کہ انسان جب کسی کے احسانات و کمالات محسوس کرتا ہے تو اس کے دل پر ان کا اثر ہوتا ہے محسن کی عظمت و وقت دل میں جاگزیں ہوتی ہے اور "الانسان عبدالاحسان" کا مصدق بن جاتا ہے، تو اس مرتبی حقيقی کے کمالات و احسانات و انعامات کے مضامین فضیحت حاصل کرنے کے لئے بہت آسان ہیں: ﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مَدْكُرٍ﴾ سے اس قسم کے مضامین مراد ہیں۔

قسم ثانی استنباط مسائل یعنی قوانین شرع، جائز و ناجائز، حلال و حرام اور دوسرے تمام مسائل شرعیہ کی تفاصیل اور حدود و تقویٰ، ان کے بارہ میں آیت: ﴿وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ

الذکر لتبیین للناس) میں بیان فرمایا کیا کہ ہم نے قرآن اس لئے نازل کیا کہ آپ ہمارے قوانین ہماری حکومت کے قواعد و ضوابط اور احکام بندوں کو بتائیں یہ خود اس قابل نہیں کہ ان کو سمجھ سکیں اور پھر تاقیامت جس قدر بھی احکام پیدا ہونے والے ہیں، جس قدر حوادث و اتفاقات ظاہر ہونے والے ہیں ان سب کو آپ اپنی مختصر زندگی میں کیے بیان کر سکیں گے اس لئے فرمادیا: ”ولعلهم یتفکرون“ کہ نت نے مسائل، حوادث و جزئیات رہتی دنیا تک پیش آتے رہیں گے اس لئے آپ کی وفات کے بعد ہم ایسے مجتہدین پیدا کریں گے کہ وہ تدبیر و تفکر، استنباط و استخراج، قوت علمیہ و عملیہ کے ذریعہ خالق کی طرف مخلوق کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے، قرآن مجید اور آپ کے ارشادات و احادیث طیبہ سے استنباط کر کے احکام بیان کیا کریں گے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست ہر شخص کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسی بزرگیت و مسائل پیش آتے رہے اور قیامت تک ایسے حوادث و اتفاقات پیدا ہوتے رہیں گے جن کا حکم صراحةً قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ ان کے معلوم کرنے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”ولعلهم یتفکرون“ کہ ان احکام کو اہل تفتیذ، اہل اجتہاد اور اہل بصیرت بیان کیا کریں گے۔

اہل اجتہاد:

ان اوصاف سے متصف کون اوگ ہیں؟ یہ بات عقلاءً، اجماعاء اور تجربۃ واضح ہے کہ جو لوگ براہ راست کسی سے کچھ سیکھتے ہیں وہی اس کی تعلیمات کے رموز و ارشادات کو خوب سمجھ سکتے ہیں، صحابہ رام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے براہ راست بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، بلا توسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہیں، ان کے بعد ان کے تاریخ اگر یعنی تابعین نے صحابہ کرام سے اور پھر تبع

تابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا، اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا جو شخص اس سلسلہ رشد و ہدایت سے وابستہ رہا وہی صراطِ مستقیم پر قائم و دوامِ رہے گا، اس طریقہ سے ہٹ کر جو قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہ ہو گا اس سے یا اس کی کتب سے استفادہ کرنا دین کے لئے ایسا مضر و مہلک ہے جیسا کہ بدن کے لئے سُم قاتل، اس لئے اس "العروة الونقی" کو مضمبوط پکڑنا لازم ہے ورنہ گمراہی و رسالتی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو گا۔

"آهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" یعنی سیدِ ہمی راہ پر چلاوے، بھٹکنے نہ پائیں۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مدعا ہے، یہودی، نیسانی، ہندو، سکھ غرض یہ کہ ہر شخص اس بات کا مدعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس لئے یہ دعاء ارشاد فرمائی: "آهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" "سیدِ ہمی راہ پر چلا کر منزل تک پہنچاوے۔"

"آهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" کا مطلب:

بہت لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: "سیدِ ہمی راہ دکھادے۔" مگر یہ ترجمہ صحیح نہیں، راہ دکھانا کافی نہیں، اگر کسی کو مکہ کا راستہ دکھادیا جائے تو کیا وہ پہنچ جائے گا؟ حتیٰ کہ اس طرف چلانا بھی کافی نہیں، ممکن ہے بھٹک جائے ہوائی اڈہ پر پہنچ کر جہاز میں سوار کر کروادیا بھی کافی نہیں کہ شاید جدہ میں اتر کر ادھر ادھر ہو جائے مکہ زادہ اللہ تعالیٰ شرفانہ پہنچ سکے، اس لئے رہنمائی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچادیا ضروری ہے۔ سو "آهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" کے کامل و مکمل معنی یہ ہیں کہ صراطِ مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچادے اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے دعاء کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت و ضلالت کے دونوں راستے دکھادیے: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِما شَارِكًا وَإِما كَفُورًا﴾ (۲۹ - ۳) ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ﴾ (۳۰ - ۳۱) (پ ۲۹ - ۳۰) راہ ہدایت بھی دکھادی اور گمراہی کا راستہ بھی، اب اس

کو اختیار ہے کہ جس پر چاہے چلے، جردا کرنا نہیں، ”آهِدُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ میں یہ بات مدنظر رکھ کر دعا کریں کہ سید ہی راہ پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیں تو کام چلے گا۔

صراط مستقیم:

ہر شخص صراط مستقیم پر چلنے کا مدعا ہے اور یہی چیز باعث فتنہ ہے، ”صراط مستقیم“ کا تعین کیسے ہوگا؟ تعین کے لئے: ”صِرَاطَ الدِّينِ أَنْجَتَ عَلَيْهِمْ“ فرمایا کہ میری راہ کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ان کے راستے کی نشاندہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کریں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے کی وضاحت تابعین حبہم اللہ تعالیٰ کریں گے حتیٰ کہ طبقہ در طبقہ تاقیامت اس صراط مستقیم کی تعین و توضیح ہوتی چلی جائے گی۔

”صراطِ مستقیم“ کی وضاحت ”صِرَاطَ الدِّينِ أَنْجَتَ عَلَيْهِمْ“ سے فرمائی ”صراطِی“ سے نہیں فرمائی کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، ”صراط القرآن“ سے بھی نہیں فرمائی کہ قرآن کا راستہ صراطِ مستقیم ہے، قرآن مجید جو ارشاد فرمائے وہی کرتا ہے، اور ”صراطِ رسولی“ سے بھی نہیں فرمائی کہ جو کچھ رسول فرمائے وہی راہ حق ہے، ایسا اس لئے نہیں فرمایا کہ شیطان تلبیس کرتے ہوئے یوں گمراہ کر سکتا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی اللہ تعالیٰ کا، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔

فریب کاری، دغا بازی اور تلبیس ابلیس سے مامون و محفوظ رکھنے کے لئے ”صِرَاطَ الدِّینِ أَنْجَتَ عَلَيْهِمْ“ فرمایا کہ ہر زمانہ میں بصیرت، تقویٰ اور للہیت کے حامل ایسے حضرات موجود رہیں گے جو ”صِرَاطَ الدِّینِ أَنْجَتَ عَلَيْهِمْ“ کی عملی تعبیر و تفسیر ہوں گے، وہی اس کی تعین کریں گے، آپ بطور خود اللہ تعالیٰ کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قرآن مجید کا راستہ ایک بتاتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ

تعالیٰ عنہم جو انہت علیہم میں داخل ہیں دوسرا راستہ فرماتے ہیں تو آپ جنون کا شکار، مخبوط الحواس متصور ہوں گے، صراط مستقیم وہی ہے جس کی یہ حضرات تعمیں فرمائے ہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو کہ ام القرآن اور خلاصہ قرآن ہے میں فرمادیا کہ اگر ہمارا راستہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قرآن کا راستہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھنا ہوگا، ان سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، ہمارے راستہ پر چلنا ان کے اتباع پر موقوف ہے، بصورت دیگر ضلالت کے اندر ہیروں میں گھرے رہو گے ہمارا راستہ نہیں مل سکے گا۔

گمراہی کا راستہ:

اس کے بعد بطور تعبیرہ "غَيْرُ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَصْسَاتِهِنَّ" فرمایا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے سے انحراف و روگردانی کریں گے اور قرآن سمجھنے کی کوشش میں اپنی عقل لڑائیں گے ایسے لوگ مغضوب، مقہور اور معذب ہیں، مگر اہ ہیں، منعم علیہم کے راستے سے ہٹ کر قرآن و حدیث سمجھنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں، یہی مضمون متعدد احادیث میں بھی وارد ہے اور اس پر میرا ایک مفصل مضمون "معیار حق" کے نام سے احسن الفتاوی جلد اول میں ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معیار حق ہونے کی عقلی دلیل:

عقلی و تجرباتی اعتبار سے غور کیا جائے تو بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سرما انحراف کر کے قرآن و حدیث سمجھنے کا کوئی جواز نہیں، اس لئے کہ دنیا کا یہ مسلم ضابطہ ہے کہ کسی کی بات سمجھنے کے لئے قرب ظاہر و قرب باطن از حد موثر ہے، قرب باطن سے تعلق قلبی، محبت و مودت مراد ہے، اور قرب ظاہر سے "ساتھ رہنا" مراد ہے، جو شخص جس قدر زیادہ قریب رہتا ہے اسی قدر مصاحب اور ساتھی کی بات صحیح طور پر

سمجھتا ہے، اسے اس کے کلام کے مقاصد کا علم ہوتا ہے، یہ مثل اور کہاوت بہت مشہور ہے کہ ”گونگے کی رمزیں اس کی ماں جانے“ پچھے گونگا ہے، ماں کے پاس رہتا ہے جو کچھ اشارات میں کہتا ہے ماں سمجھتی ہے، وجہ وہی ہے کہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔

ایک عالم ایک بار یہاں دارالاوفاء میں تشریف لائے، چند روز یہاں قیام فرمایا، ہم روزانہ صبح جہاد کی مشق کے لئے نکلتے تو ان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، کچھ روز وہ میری باتیں ساعت فرماتے رہے ایک دن فرمائے گئے:

”آپ کی باتیں وہ عالم سمجھ سکتا ہے جس نے کم از کم دس بارہ سال آپ کی خدمت کی ہو۔“

اس سے ان کی مراد میری مخصوص اصطلاحات ہیں جو علماء میں بیان کرنے کی ہیں، ورنہ مسائل فہریہ اور اصلاح سے متعلقہ مسائل عوام الناس کو عام فہم زبان میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مزید آسان کر کے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بات سمجھنے کے لئے مصاجبت کو دخل ہے، جس کو ”قرب ظاہر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید و حامل قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ظاہر و قرب باطن حاصل تھا۔ قرآن مجید سے قرب کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت نازل ہوئی، جس حکم کا نزول ہوا، جب بھی وحی نازل ہوئی یہ حضرات موجود ہوتے تھے، ان کو ایک ایک حکم کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ آیت، یہ حکم کس موقع پر نازل ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع کی بات ہے اس لئے کہ موقع بدل جانے سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحے کو سنتے، چہرہ مبارک کے

تغیرات کو ملاحظہ فرماتے اور بات کو بغور سن کر سمجھنے کی کوشش فرماتے تھے۔

بات سمجھنے میں چہرہ کے آثار کو دخل:

بات سمجھنے میں ہاتھوں کے اشارات کو، چہرہ کے تیوروں کو کہ اس پر بناشت ہے یا غیظ و غضب، آنکھوں کے اشارات کو دخل ہوتا ہے بات کو سمجھنے میں ان چیزوں کو دخل ہے اور یہ اشیاء اس میں نہایت اثر انداز ہوتی ہیں۔

اس کے بے شمار قصے احادیث مقدسہ میں موجود ہیں، بعض لوگوں نے یہ تصور کیا کہ آپ دیے کچھ ارشاد فرمائے ہیں مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو کانپ اٹھے، لرزہ بر اندام ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تنبیہ فرمائے ہیں۔

ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سلونی ما شتم“ جو چاہو مجھ سے پوچھو تو بعض نئے لوگوں نے (جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا) طرح طرح کے سوالات شروع کر دیئے:

ایک نے سوال کیا:

”میرا بابا کون ہے؟“

دوسرے نے پوچھا:

”میری اونٹی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے؟“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے درجہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو غیظ و غضب سے سرخ ہورہا تھا سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنبیہ فرمائے ہیں، فوراً توبہ کی، تو آپ کا غصہ نہنڈا ہوا۔

احادیث نقل کرنے کا ایک عجیب انداز:

اس لئے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب کوئی بات بہت تائید سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں: ”ابصرتہ عیناً و سمعتہ اذ نای و وعاء قلبی“، بہت عجیب الفاظ ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائے ہے تھے اس وقت میری دونوں آنکھیں آپ کے چہرہ انور اور اس کے الوان و آثار و تغیرات اور چشم و ابرو کے اشارات اور ہاتھوں کی تعبیر کو دیکھ رہی تھیں اور کلام کے محل درود کا مشاہدہ کر رہی تھیں، چہرہ سے سمجھ رہی تھیں کہ اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، اور آپ کے چہرہ مبارک پر مرکوز تھیں، میں کمال توجہ سے آپ کو دیکھ رہا تھا، یعنی میں ہمہ تن دونوں آنکھیں بن کر آپ کی طرف متوجہ تھا۔

یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا بلکہ بطور تائید فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھیں دیکھ رہی تھیں، یہ فرماتے ہوئے ان حضرات کو لطف اور مزا کتنا آتا ہوگا کہ محبوب سامنے تھا اور میری آنکھیں تھیں تو مزہ لینے میں کیا کمی ہوگی؟ میں تو ان حضرات کا کلام نقل کر کے اور تصور کر کے لطف انداز ہو رہا ہوں، بہت مزا آ رہا ہے اور جن کی آنکھیں بکمال توجہ آپ کے چہرہ انور کو ملاحظہ کر رہی ہوں گی ان کو کتنا لطف آتا ہوگا؟

یا اللہ! ہماری اس کیفیت اور اس نقل کو قبول فرماؤ جنت میں یہی مزے لینے کی حرک و ہوں عطا فرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو دیکھ کر جو لطف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیتے تھے ویسا ہی لطف حاصل کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ویسا ہی لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع پر خاتمہ فرمادیں تو وہ وقت دور نہیں بہت قریب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا لطف لے رہے ہوں گے۔

”و سمعتہ اذ نای“ میرے دونوں کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو

کن رہے تھے، لہجہ کو غور سے ساعت کر رہے تھے، متكلم کے کلام کی حقیقت اس کے لہجہ سے معلوم ہو جاتی ہے، سنجیدگی سے کوئی بات کہہ رہا ہے یا غصہ سے، کچھ بتا رہا ہے، یا کچھ پوچھ رہا ہے، اس کا تعلق اس کے طرز کلام سے ہے۔

"ووعاہ قلبی" میرے دل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے الفاظ کو، معانی اور مفہوم کو خوب یاد اور جمع کر لیا۔ غرض یہ کہ میں ہمہ تن متوجہ تھا میرے دیکھنے، سننے اور یاد کرنے میں کوئی کوتاہی اور قصور نہیں تھا۔

یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خصوصیت تھی کسی اور کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، دوسرے اس مقام کے حصول سے قاصر ہیں اس لئے فہم دین انہی حضرات پر موقوف ہے، ان کے طرز و طریق سے انحراف کرتے ہوئے جو دین سمجھنے کی کوشش کرے گا مگر اس کی اس "فہم" کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس پر اعتماد جائز نہ ہو گا۔

بدعات کے مفاسد:

اس مضمون میں چند باتیں ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ اپنی طرف سے بدعاوں و رسوم کو دین میں شامل کر رہے ہیں مثلاً محرم کی بدعاوں، ربیع الاول کی بدعاوں، رجب اور شعبان کی بدعاوں، جمعرات کی بدعاوں، مرنے پر بدعاوں، یہاری پر بدعاوں، ملک الموت سے جان بچانے کے لئے دو کالے بکرے دینے اور کسی کے مرنے پر دیکھیں چڑھانے کی بدعاوں، قرآن خوانی کی بدعاوں، کیا ان کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا؟ نہیں معلوم ہو گیا کہ ایسا کرنا ثواب اور دین کا جزء ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبتدعین اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔

دوسری بات ان کے ذہن میں یہ آسکتی ہے کہ ان اشیاء کا اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں فرمایا تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ

چیزیں اسلام میں داخل تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا لازم آتا ہے کہ وہ چیزیں دین کا حصہ اور کارثواب تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، بندوں کو فائدہ اور ثواب کی چیزوں سے محروم رکھا۔

تیسرا بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تھا لیکن انہوں نے راستے ہی میں خیانت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو نہیں پہنچایا۔

چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے آتے اس حصہ کو بھول گئے، یا شیطان نے اس وجہ میں جراحت صرف کر کے یہ احکامِ جہنم لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے احکام کو نہ پہنچنے دیا۔

ان میں سے کوئی ایک بات بھی قابل توجہ نہیں ہر توجیہ مردود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

۶۰. ﴿۱۹﴾ ذی فُوَّةَ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ

﴿۲۰﴾ مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ (۲۰ - ۱۹)

کہ حضرت جبریل علیہ السلام توی بھی ہیں اور امین بھی، ”توی“ ایسے کہ ان سے شیطان زبردستی کوئی حکم، کوئی آیتِ جہنم نہیں سکتا، اور ”امین“ ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں امانت دار ہیں خیانت نہیں کرتے، جو کچھ جس کیفیت وہیت کے ساتھ ملامن و عن پہنچاویا۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ احکام پہنچائے گئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کیوں نہیں بتائے؟ اور اگر آپ نے بتا دیئے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرات تابعینِ حبہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں بتائے؟ یہ عقیدہ رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر خیانت کا الزام ہے جو سراسر کفر ہے۔

اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس لئے نہیں بتائے کہ بعد میں آنے والے لوگ خود بخود ان کو سمجھ جائیں گے جیسا کہ گمراہ پیر اس کے مدعا ہیں کہ ان کا براہ راست اوپر سے تعلق ہے، وہ عرش سے احکام لیتے ہیں نہ کہ علماء اور کتابوں سے، اگر تھوڑی سی دری کے لئے اسلامی حکومت آجائے تو ایسے گمراہ اور مشرک پیروں، مریدوں کا قصہ ہی درست ہو جائے، حکومت مسلمانوں کی تو ہے مگر اسلام کے مطابق نہیں، ان کو مسلمان بھی "علی السبیل التنزل" کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان، پکے پچ مسلمان بن جائیں تو حکومت خود بخود اسلامی حکومت بن جائے، مسلمان ہی مسلمان نہیں بنتے تو اہل اقتدار و ارباب حکومت کیسے درست ہوں؟

حکومت الہیہ کی متوازی حکومت:

خلاصہ یہ کہ جو شخص بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہٹ کر دین میں اپنی رائے اور اپنی ایجاد کو داخل کرتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنی متوازی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اپنے احکام مخترع بھی نافذ کرے گا سو ایسا بے دین اور مبتدع اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں خود حاکم بننا چاہتا ہے۔

بدعت و خول جہنم کا باعث ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”من احدث فی امرنا هذاما مالیس منه فهو رد“ (مسنون علیہ)

اور فرمایا:

”کل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار“ (نسائی)

”دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا سب گناہوں سے بدتر ہے اور ہر نئی چیز بدعت

اور ہر بدعت بہت بڑی گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ”اسی خرافات و بدعاوں کے مرکب اللہ تعالیٰ کی حکومت و سلطنت کے باعثی ہیں اور دنیا بھر کا قaudہ اور دستور ہے کہ کوئی مجرم سنگین تر جرم کر کے آئے تو اس کے جرم کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں کسی سلطنت و حکومت کے مقابلہ میں کوئی اپنی متوازی حکومت قائم کرنا چاہے تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، کوئی حکومت اس سنگین جرم کو معاف نہیں کرتی، ایسے مجرم کو سخت سے سخت اور بد سے بدتر سزا دی جاتی ہے، لیکن قaudہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں حکومت قائم کرنے کا ہے کہ کسی اسی چیز میں ثواب بتانا جس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب نہیں بتایا یہ بغاوت ہے، اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یہ جرم کبھی معاف نہیں ہو سکتا، دوسرے جرائم اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف فرمادیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو تادم حیات صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا متعین فرمودہ اراستہ ہے۔

میں نے شروع میں دوسری آیت یہ پڑھی ہے:

﴿فَلْ هَذِهِ سَبِيلٌ أَذْعُو إِلَيْيَ اللهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسَبَحَنَ اللهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (ب ۱۲ - ۱۰۸)

اس میں بھی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرنا گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔

نجات کا راستہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے:

جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقہ کو مضبوط کردا، اس پر قائم و عامل رہے، ان کا ایمان بیخا ہے، پکا ایمان ہے کہیں نہیں جائے گا۔

﴿فَقَدِ أَسْتَمَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا﴾ (ب ۳ - ۲۵۶)

انہوں نے ایسی مضبوط اور قوی رسمی کو تھاما ہے جو کبھی ثبوت نہیں سکتی، وہ رسمی جس تک پہنچائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اتباع کی برکت سے کبھی صراطِ مستقیم سے بہنک نہیں سکتے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا راستہ چھوڑنے والوں کا حال:

اور جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رسمی کو چھوڑ دیا، ان کے طریقہ سے ہٹ گئے ان کا ایمان کھڑا ہے، وہ گمراہ ہیں، کسی نے بھی دعوت دی اس کی طرف بھاگے چلے گئے، کسی نے تجما، چالیسوں، جمعرات وغیرہ میں ثواب بتا دیا تو ادھر بھاگے چلے گئے، کسی نے خوانی (خلاف سنت قرآن خوانی) کا بڑا ثواب بتا دیا تو اس طرف دوڑے چلے گئے، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں سورت پڑھ لی جائے تو اتنے ہزار کا ثواب ہے، حساب و کتاب سے حفاظت ہو جاتی ہے گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا علاش نہیں کی جاتی، بس کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اس کی بات مان لی، جس کے ہزاروں اللہ ہوں ظاہر ہے اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے۔

میں مصیبت میں ہے۔ جان کس کس کو دیں دل

ہزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اکیلے

میں وصیت کرتا ہوں کہ اس شعر کو یاد کر لیں ہزاروں کی رضا جوئی کی فکر میں گئے ہوئے ہیں فلاں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائیں، کوئی حاکم ناراض نہ ہو جائے، بے دین ماحول، بے دین معاشرہ اور بے دین احباب و اقارب کی رضا جوئی میں جان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال رکھا ہے، ارے اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو سکون واطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کا مقصد و صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر وقت اسی کی رضا کی فکر میں رہتا ہے، اس کے برعکس مختلف معبودوں کی رضا کی فکر

مصیبت جان ہے۔

نظاہر تو یہ ایک شعر ہے مگر حقیقت قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے:

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُّتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۲۹-۲۲) (۱۱)

یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیے عجیب مفہامیں ہیں، ساتھ ساتھ عجیب عجیب مثالوں سے سمجھاتے ہیں:

صالح اور فاسق کی مثال:

”صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا“ کا جملہ فرمाकر پہلے متوجہ فرمادیا کہ آئندہ بات کو غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات ایک عجیب و غریب مثال سے سمجھانے لگے ہیں، ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُّتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ ”ارے عقلاً! عقل سے سوچنے، غور و فکر کیجئے کہ ایک غلام کی مالکوں کے درمیان مشترک ہو، کوئی اوہر سے کھینچتا ہے کوئی ادھر سے، اس کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناراض، دوسرا کو راضی کرتا ہے تو تیرا ناراض، غرض یہ کہ اس کی جان مصیبت میں پڑی ہوئی ہے (جیسے شعر مذکور میں بیان ہے) ایسے لوگ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں جوہر ایک کو راضی رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں، غلام کو ایک مالک اپنی طرف بلاتا ہے تو دوسرا اپنی طرف تیرا اپنی طرف بلاتا ہے، جیسے یہ تمام مالکوں کو راضی نہیں رکھ سکتا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یہی حال اس شخص کا ہے جس کے محظوظ بہت ہوں اور سب کو بیک وقت راضی رکھنا چاہتا ہو، اس کے ہزاروں لاکھوں نکلوے کر دیئے جائیں تو بھی یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ تو اس غلام کی مثال ہے جس کے مالک زیادہ بھی اور بے مردت بھی۔

خطبہ الرشید

”وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ“ دوسرا وہ شخص جو صرف ایک کا غلام ہے یا اللہ! تو ہمیں ایک ہی کا غلام بنالے، تو صرف اور صرف اپنا غلام بنالے، تو ہی غیر کی غلامی سے ہماری حفاظت فرماء، اپنی غلامی کی فکر نصیب فرماء۔

”هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟“ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں میں کبھی بھی مساوات نہیں ہو سکتی، پہلا کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا، دوسرا کبھی بھی پریشان اور غمگین نہیں ہو سکتا، تو کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ”الحمد لله“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری حمد و ثناء کرو، میں کیسی کیسی عجیب و غریب مثالیں بیان کر کے تمہیں حقائق سے آگاہ کرتا ہوں۔

”بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“ میں تو بڑے عجیب انداز سے بات سمجھاتا ہوں لیکن یہ نالائق بندے پھر بھی نہیں سمجھتے۔

ایمان کو بخانا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دامن مت چھوڑیں، ان کا کامل اتباع کریں، جس نے ان حضرات کا دامن چھوڑا، ان کے راستے سے معمولی انحراف کیا تو اس کا ایمان کھڑا ہے، بس وہ گیا، جیسے اونٹ جب تک بیٹھا رہے گا اطمینان رہے گا، جہاں کھڑا ہوا بھاگا، پھر اس کو پکڑنا دشوار ہو گا۔

صراطِ مستقیم کی تفسیر خود قرآن مجید سے:

”قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي“ ارشاد فرمایا آپ فرمادیں: ”هَذِهِ سَبِيلِي“ یہ میرا راستہ ہے، ”هَذِهِ“ کی تفسیر آگے بیان کی جائے گی۔ ”ادعُوا الى اللّهِ علی بصیرۃ انا وَمِنْ اتَّبَعْنی“ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے یا قرآن مجید نے بتایا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ ہے جو میں نے بتایا ہے بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ ہے جس کی طرف میں نے بتایا ہے بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ ہے جس کی طرف میں اور میرے صحابہ بلاستے ہیں ”علی

بصیرة، جن باتوں کی طرف میں اور میرے صحابہ بلا رہے ہیں یہ کوئی وہی تباہی اور غلیات نہیں، دلائل و برائین سے، بصیرت و یقین سے کچی باتیں بتا رہا ہوں، میرے بعد وہ لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ صلوٰۃ وسلام کثرے ہو کر پڑھنا باعث ثواب ہے اذان سے قبل صلوٰۃ وسلام اور اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنا باعث ثواب ہے، جمع ہو کر چلا چلا کر صلوٰۃ وسلام پڑھنا باعث ثواب ہے، وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے ایصال ثواب کی دلکشیں چڑھانے میں ثواب ہے، یعنی مرنے پر خوشیاں منانا، ان بدعتات کو ثواب بتائیں گے مگر خبردار دل کے کان کھول کر سن لو: ”علیٰ بصیرة انا و من اتبعني“ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہی ہوگا جو میں اور میرے اصحاب بتائیں گے جو ہمارے قول و عمل اور راستے سے ہٹ کر کچھ کرے گا وہ شیطان کے راستہ کا اتباع کرے گا ”المَفْسُوبُ عَلَيْهِ“ اور ”الضَّالُّونَ“ میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب و قہر اس پر نازل ہوگا، ایسے لوگ گمراہ ہیں اس کے عذاب سے نجات نہیں سکتے۔

”وسبحن اللہ و ما انا من المشرکین“ اللہ تعالیٰ شرک سے، نفاذ و عیوب سے پاک ہیں، اس سے قبل: ”انا و من اتبعني“ مخصوص طور پر ارشاد فرمایا، اب: ”سبحن اللہ و ما انا من المشرکین“ فرماتے ہیں یعنی جو لوگ میرے اور میرے قبیلے کے راستے کو چھپڑ کر دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں وہ اپنا خود ساختہ دین میرے لائے ہوئے دین و شریعت میں ٹھوں رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو، اعزہ و اقارب کو، بے دین ماحول و معاشرہ کو، احباب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنارہے ہیں، ”سبحان اللہ“ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی اور جن کو شریک بناتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جہنم میں جا رہے ہوں گے، مرنے والے پر خوشیاں منانے اور دلکشیں چڑھانے کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ اگر فرشتے ان کو دھوکا دینے کے لئے جہنم کے دروازے پر دلکشیں چڑھادیں تو بس خوشی

بغلیں بجاتے ہوئے اس طرف بھاگیں گے کہ ایصال ثواب کی دلکشیں ہیں، ایصال ثواب کے قورے پر ایسے جھپٹتے ہیں جیسے گدھ مردار پر۔

بدعت سے بڑھ کر شرک بھی:

ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی بھی معمولی نہیں ایک دینی مدرسہ کے مدھتمم، یعنی وہ مولوی جو مولوی گر بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، بہت مختلف، بڑی ہی محبت والے، بڑے ہی اطاعت گزار، بڑے ہی خدمت گزار، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کے نام سے تیجے کی بدعت کے منصوبے بنانے لگے میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ طریقہ ناجائز و بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، اس طریقہ کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں، سنت کے مطابق ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو کیوں پسند نہیں آتا؟ مولوی صاحب نے جو اتنے خدمت گزار اور ہر بات ماننے والے تھے میری یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہنے لگے اگر یہ رسمیں نہ کیں تو برادری ناراضی ہو جائے گی، دنیا میں ناک کٹ جائے گی، میں نے کہا کہ پہلے تو میں اس کو صرف بدعت سمجھتا رہا، اب معلوم ہوا کہ یہ شرک بھی ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کر رہے، برادری کو اللہ بتا رکھا ہے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہیں، برادری میں ناک کٹ جانے کی فکر سوار ہے، آخرت میں خواہ گردن ہی کٹ جائے، اس کی فکر اور پرواہیں۔

ایصال ثواب کا صحیح طریقہ:

اگر واقعتاً آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مرنے والے کے ساتھ محبت ہے، دل میں رحم کا جذبہ ہے تو پھر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ طریقہ آپ کے لئے کیوں کافی نہیں؟ ایصال ثواب کی حقیقت اور شرعی نقطہ نظر سمجھ لیجئے۔ ہر نیک کام جو انسان اپنے لئے انجام دیتا ہے وہ دوسروں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کرے

تو وہ ثواب دوسروں کو پہنچے گا، آپ اپنے لئے نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نفل حج کرتے ہیں، نفل عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، غرض یہ کہ ہر وہ عبادت جو آپ اپنے لئے کرتے ہیں اس میں ضرف یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچو وہ پہنچ جائے گا، ثواب پورا پورا آپ کو بھی اور جن کی نیت کی تھی ان کو بھی پورا پورا ملے گا، یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔

بعض لوگ اس غلط فہمی میں بتا ہیں کہ ایصال ثواب صرف مُردوں کو کیا جاتا ہے زندہ لوگوں کو نہیں، دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو چیز صدقہ کی جائے یعنی جس چیز سے ایصال ثواب کیا جائے وہی چیز بعینہ میت کو پہنچتی ہے یہ دونوں عقیدے خلط ہیں ایصال ثواب جیسے مُردوں کے لئے کرنا جائز ہے اسی طرح زندوں کے لئے بھی جائز ہے اور جو چیز میت کے ثواب کے لئے ہی جائے وہ نہیں پہنچتی اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔

”سبحان اللہ و ما انا من العشر کین“ کہہ کر واشگاف الفاظ میں اعلان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے، عیوب و نقائص سے پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مشرک نہیں تم کیوں مشرک بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلہ میں پوری دنیا کی رضا کو محکرا رہا ہوں، پس پشت ڈال رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا، نہ کسی دوست کو، نہ اولاد کو، نہ بیوی کو، نہ برادری کو، تو تم میری امت کھلوا کر، میری محبت و عشق کے دعوے کر کے، میرے فرمانبردار کھلوا کر کیسے شرک کرتے ہو؟

بدعات کے ماحول میں وجوب و صیت:

یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس کے خاندان میں مرنے پر بدعات کا وستور

ہو مثلاً تجھا، چالیسوں، جمعرات، رسم قتل خوانیاں (خلاف سنت قرآن خوانی) وغیرہ کرنے کا اس پر یہ وصیت کرنا فرض ہے کہ الیصال ثواب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقہ کے مطابق کریں، لوگوں کے بہکانے میں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھیں، اگر کوئی شخص یہ وصیت نہیں کرتا تو قبر میں سخت ترین عذاب کے لئے تیار ہے، یہ رشتہ دار، احباب و اقارب گدھوں کی طرح دیگوں پر جھپٹ رہے ہوں گے اور قبر میں فرشتے اس کی پٹائی لگا رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے، جب تھے معلوم تھا کہ مرنے کے بعد بدعاں ہوں گی، خود اپنی آنکھوں سے ان بدعاں کو دیکھتا رہا، تھے معلوم تھا کہ تیرے مرنے کے بعد یہ لوگ شرک کریں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مقابلہ میں اپناراست اختیار کریں گے تو تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ان المیت لیعذب بیکاء اهله علیہ“ (صحیح بخاری)

ترجمہ: ”میت پر اس کے گھروالے رو رہے ہوتے ہیں ادھر اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔“

اہل میت کے رو نے سے میت کو عذاب کیوں؟

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ برا کام تو گھروالے کر رہے ہیں اس کی سزا میت کو کیوں دی جا رہی ہے؟ گناہ ایک کرے اس کی سزا دوسرے کو دینا خلاف عقل و نقش ہے۔

حضرات محدثین حکیم اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اس کو معلوم تھا کہ گھروالے اس پر روئیں گے، چیخیں گے، چلانیں گے تو ان نے روکا کیوں نہیں؟ اس پر وصیت کرنا فرض تھا مگر وصیت نہیں کی، گویا یہ خود ان کے اس فعل پر راضی

خاتون اس کو اپنے فعل یعنی وصیت نہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں بیان مذکور کو دیکھا جائے، ایصال ثواب کی دلکشی کھانے والے پر سوچ لیا کریں کہ وہ تو یہاں دلکشی اڑا رہے ہیں اور وہاں ان کے عزیز کی پٹائی لگ رہی ہے۔ جس خاندان میں بھی ایسی بدعات ہوتی ہیں اس کے ہر ہر فرد پر ان بدعات سے بچنے کی وصیت کرنا فرض ہے ورنہ سخت ترین مجرم ہوں گے۔

ایک نیک خاتون:

ایک عمر سیدہ خاتون نے میرا یہ بیان سناتا نہیں نے گھر کے افراد کو بلا یا اور تاکید کے ساتھ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تجھا، چالیسوں وغیرہ بدعات ہرگز ہرگز نہیں کرنا، سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنا جس قدر بھی ہو سکے۔ گھر کے افراد نے یقین دلایا کہ کوئی بدعت نہیں ہو گی، شریعہ کے مطابق ایصال ثواب کریں گے مگر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں پر یقین نہیں آتا، جب آپ لوگوں کے چند رشتہ دار جمع ہو گئے، اور بازو قورے کھانے کے لئے چڑھائے تو تم پر مردود غالب آجائے گی، تم بھی یہی سوچ گے کہ اب یہ جو گدوں کی طرح قورے، پاؤ کھانے کے لئے جمع ہو گئے ہیں تو دلکشی چڑھائی دو، پھر وہی بدعات کرو گے اس لئے شیپر لیکارڈ لادو، میری وصیت کیسٹ میں بھرو، انہوں نے شیپ لا کر وصیت بھر کر سنائی تو انہیں تسلی ہوئی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے محمد اللہ تعالیٰ کوئی بدعت نہیں ہوئی، وہ کرتے بھی تو ان کا دامن صاف تھا۔

ان خاتون نے صرف ایک مرتبہ میرا یہ بیان سناتا اس قدر متاثر ہوئیں، جن کے دلوں میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے ایک بات بھی اپنا اثر کر جاتی ہے، اور اگر قبول حق کی صلاحیت نہیں تو دلائل کے انبار، ایک قرآن نہیں دس قرآن بھی نازل ہو جائیں، کچھ مفید نہیں جن کے لئے ہدایت مقدور نہیں، گناہ کرتے کرتے بدعات کرتے

کرتے دل سیاہ ہو چکے ہیں ان کو بھی بھی ہدایت نہیں ہوگی ان کے قلوب پر مہر لگ چکی ہے کہ گھر میں عزیز رشتہ دار فوت ہو چکا ہے مگر یہ قورمے، پلاوہ کھانے کے لئے بازو چڑھانے پہنچ جاتے ہیں۔ (وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾) (ب ۱۱-۱۱) آیات کی آیات بھی مفید نہیں ہوتی۔

یا اللہ! اس قوم کو غیرت عطا فرماء، اور ان خاتون کے درجات بلند فرماء، ان کے اس حالات کو اس جہاد کو تمام مسلمانوں کے لئے درس عبرت، سامان ہدایت اور دہمت بلند کرنے کا ذریعہ بنادے۔

ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس کو بھی ہدایت و دہمت ہوگی ان سب کا ثواب ان خاتون کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، یا اللہ! تو سب کو اس کی توفیق عطا فرماء۔

یا اللہ! "أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کو دلوں میں اتاردے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماء۔

یا اللہ! اپنی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت و اطاعت نصیب فرماء، ہمارے تمام حالات کو صراطِ مستقیم کے مطابق بنادے، اپنی اس قدر محبت عطا فرمائے تیری اولیٰ سے اولیٰ نافرمانی کے اصورے بھی شرم آنے لگے۔

وَصَلَ اللَّهُمَّ وَبَارِكْ وَسِلْمُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدَ وَعَلَى الْهَ

وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



صفات القرآن

— وَعْظ —

فِي قِبَلِ الْعَصْرِ مُفْتَحٌ أَقْدَمْتُ لِشِينَدَ الْجَلَّادِ صَاحِبِ الْأَعْلَانِ

— نَاسِر —

كتاب كهرمان

ناظم آباد لا کراچی

وعذ: ن
نیز: ن
بمقام: ن
بتاريخ: ن
بروت: ن
تاریخ طبع مجلد: ن ربیع المیاه ۱۴۲۳
طبع: ن
ناشر: ن
فون: نیکس: ۰۲۱-۰۲۳۶۱-۶۶۰۲۳۶۱
 Hasan پرنسپل پرنسپل فون: ۰۲۱-۰۲۳۸۱۳

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وعظ

صفات القرآن

(۵ ربیع الاول ۱۴۰۶ھ)

﴿وَتَأْتِيْهَا النَّاسُ فَدَ جَاءَ شَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الْأَرْضِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۵۲ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُنَزَّلُ اللّٰهُ وَرَحْمَتُهُ فِيَذَلِكَ فَلَيَقْرَأُوا هُوَ خَيْرٌ مَا يَجْمَعُونَ ﴾ ۵۸﴾ (ب ۱۱ - ۵۷) پہلی آیت میں قرآن مجید کی چار صفات بیان فرمائی ہیں۔

قرآن کی چار صفات:

۱) نصیحت:

یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ کسی ایسے دیے گئے شخص کی طرف سے نہیں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔

رب کے معنی:

رب کے معنی ہیں:

”آہستہ آہستہ مناسب حال تربیت کر کے درجہ کمال تک پہنچانے والا۔“

وہ تمہارا رب ہے اس کی طرف بے یہ ایسی نصیحت ہے کہ وہ اس کے ذریعہ تمہیں دنیا و آخرت کے کمالات تک پہنچانا چاہتا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنی بڑی نصیحت ہے اور دنیا و آخرت دونوں کو بنانے کے لئے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔

② شفاعة:

اس میں شفاء ہے۔ نصیحت کیے حاصل ہوگی اور دل کی بیماریوں سے شفاء کیے ملے گی۔ پڑھ پڑھ کر پھونکنے سے نہیں اور پلیٹوں پر زعفران سے لکھ لکھ کر دھو کر پینے سے نہیں بلکہ اس کتاب میں نسخہ ہیں ان نسخوں پر عمل کرنے سے شفاء ہوگی۔

کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دے دیا۔ اس نے اسے موم جامہ کر کے یا پلاسٹک پٹ کر گلے میں ڈال لیا یا اس کو پانی میں گھول کر پی لیا اور کہنے لگا کہ فائدہ تو ہوتا نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نسخہ تو بہت اچھا تھا، بہت مجبوب، بہت ہی مجبوب فائدہ کیوں نہیں ہوا، فائدہ تو ہونا چاہئے لیکن بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی مریض کہتا ہے کہ فائدہ ہوا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نسخہ کا طریق استعمال تو بتائیے کیسے استعمال کرتے ہیں، مریض کہنے لگا کہ پانی میں گھول کر پی جاتا ہوں یا یہ کہ گلے میں باندھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا اسے نالائق! میں نے یہ نسخہ اس لئے دیا تھا کہ نسخے میں جو دوائیں اور پرہیز ہتائے ہیں ان پر عمل کرو۔ سو جب قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ نصیحت اور دلوں کے روگوں کے لئے شفاء ہے تو اللہ کو معلوم تھا کہ آگے جا کر مسلمان یہی سمجھیں گے کہ زعفران سے لکھتے رہو اور گھول کر پینے رہو، باندھتے رہے، پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہو یوں شفاء مل جائے گی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمادی۔

۳۔ ہدایت:

گھول کر پینے سے کام نہیں چلے گا۔ پڑھ پڑھ کر پھونکنے سے کام نہیں چلے گا۔
 توعیذ لکھ کر باندھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے تھوڑی دیر
 کے لئے توعیذ باندھنے سے کام بن جائے۔ گھول کر پینے سے کام بن جائے اور وظیفے
 کے طور پر پڑھنے سے کام بن جائے لیکن آخربک تک چند روز بننے کا پھر مصیبت،
 پھر بنا پھر مصیبت، ہمیشہ کے لئے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک پریشانی جاتی رہی تو
 سینکڑوں، ہزاروں پریشانیاں اور سامنے آجائیں گی۔ اگر یہ سب پریشانیاں قرآن مجید
 کو گھول کر پینے سے ختم ہو جاتیں تو پھر یہ بڑا آسان نسخہ تھا کہ گھولتے رہو پینے
 رہو اور اگر توعیذ باندھنے سے سب پریشانیوں کا علاج ہو جائے تو بھی بہت آسان
 ہے۔ لوگوں نے تو پورے قرآن مجید کا عکس لے کر بہت چھوٹا سا بنا دیا ہے تاکہ
 پورے قرآن کو ہی توعیذ بنا کر گلے میں ڈال لیا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے۔
 حضرات فقہاء کرام حبهم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے جسم کو چھوٹا کرنا اس کی
 عظمت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ دوسرے لئگوٹے بازوں نے کیا کیا۔
 فلاں سورت کے اتنے عدد، فلاں کے اتنے عدد، پوری سورت کوں لکھے گا، کون
 باندھے گا اس لئے انہوں نے سورتوں کے عدد لے کر توعیذ لکھنے شروع کر دیئے۔ اگر
 قرآن گھول کر لیئے سے یا باندھ لیئے سے دم کرنے سے یا وظیفے کے طور پر پڑھنے
 سے مصیبت مل جاتی تو یہ دنیا جل کیوں رہی ہے؟ بات وہی ہے کہ جب تک قرآن پر
 عمل نہیں کریں گے۔ جب تک قرآن کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ
 تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک اس مالک کو ناراض رکھیں گے۔
 اس وقت تک خواہ آپ روزانہ پورا قرآن گھول کر پینے رہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ
 کی طرف سے عذاب برستا ہی رہے گا سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک

خطبائت الرشید

زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان یہ سوچے گا کہ قرآن میں جو فرمایا ہے: "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الْأَرْضِ" اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے گھول کر پینے سے شفاء ہو جائے گی۔ اس لئے فرمادیا کہ ہم نے جو قرآن کوشفاء کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کی بیماریوں کے لئے شفاء ہے، اس سے شفاء کیسے ملے گی۔ اس سے دل کے روگ کیسے جامیں گے "هدی" اس میں نہیں نہیں، ان شخصوں پر عمل کرنے سے دل کا روگ یعنی دنیا کی محبت کا علاج ہو جائے گا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ فکر آخرت پیدا ہو جائے گی۔

(۲) رحمت:

جس نے قرآن میں دیے گئے شخصوں پر عمل کر لیا اس کے لئے دنیا میں بھی رحمت آخرت میں بھی رحمت۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف آخرت میں رحمت بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسے پریشان نہیں کر سکتی:

﴿أَلَا إِنَّكَ أَوْلَىٰ بِهِ اللَّهُ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْرَثُونَ ﴾٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْقُطُونَ
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾٦٣﴾

(ب) ۶۲ - ۶۳

وہ ہر وقت مطمئن اور مسرور رہے گا۔

سے سروڑ سروڑ سروڑ سروڑ

بڑا لطف دیتا ہے نام سروڑ

سے ہمیں جو مصائب میں بھی ہوں خوش و خرم
دینا ہے تسلی کوئی بیخا مرے دل میں

اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ بظاہر بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی میں کیوں نہ نظر آئے مگر اس کے دل میں سرور ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا ہے۔ محبت کا تعلق ہے۔ اب جو بھی حالت گزر رہی ہے اس محبوب کی طرف سے ہے۔ یقیناً اس میں میرا فائدہ ہی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل پریشان نہ ہو۔ خوب سوچیں، خوب سوچیں دنیا میں اس سے بڑی رحمت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان پر پریشانی نہ آئے اور اس کا قلب ہر وقت خوش اور مطمئن رہے۔

اس آیت میں قرآن مجید کی چار صفات بیان کرنے کے لئے جو چار الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ہر لفظ میں بہت بڑا مبالغہ ہے یعنی ہر صفت کی بہت بڑی عظمت اور بڑائی بیان فرمائی ہے وہ طریقے سے:

① دراصل قاعدہ کے مطابق کہنا تو یوں چاہئے کہ کتاب ”الصیحت کرنے والی ہے“ اور ”شفاء دینے والی ہے“ اور ”ہدایت کرنے والی ہے“ اور ”رحمت کا ذریعہ ہے۔“ لیکن ان صفات کی بجائے فرمارہے ہیں: ”الصیحت ہے اور شفاء ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔“ یہ انداز بیان مبالغہ کے لئے یعنی عظمت و بڑائی جتنے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی بہت زیادہ شجاعت بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ”فلاں بہادر اور شجاع ہے“ کی بجائے کہتے ہیں:

”فلاں تو سراسر شجاعت ہے۔“

یا کہتے ہیں:

”بجمہ شجاعت ہے۔“

ایسے ہی یہاں بھی ”یہ کتاب الصیحت کرنے والی ہے“ کی بجائے فرمایا ”الصیحت

ہے، "نصیحت کرتے کرتے گویا خود نصیحت بن گئی، دوسرے الفاظ کو بھی اس پر قیاس کر لیں، شفاء، ہدایت اور رحمت یہ سب الفاظ بہت مبالغہ کے لئے ہیں جو ان صفات کی بڑائی اور عظمت بتارہے ہیں کہ چھوٹی سی نصیحت نہیں بہت بڑی نصیحت ہے۔

● ان چاروں الفاظ میں تنوین تعظیم کے لئے ہے۔ "موعظة" بہت بڑی نصیحت ہے۔ "وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الْصُّدُورِ" دل میں جو دنیا کی مرداری کی محبت بھری ہوئی ہے دل کی اس مہلک بیماری کے لئے شفاء ہے۔ چھوٹی سی شفاء نہیں بہت بڑی شفاء ہے۔ اتنی بڑی کہ دنیا کی محبت کو دل سے کھرج کرنکال دے اور بس ایک مالک کی محبت دل میں باقی رہے، اتنی بڑی شفاء ہے۔ "هدی" یہ نسخہ معمولی نسخہ نہیں بلکہ بڑی قوت والے اور بہت ہی سرعی الشاشر ہیں۔ "وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ" قرآن مجید کے نسخہ جو استعمال کر لیتا ہے اس کے لئے چھوٹی سی نہیں بلکہ بہت بڑی رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے:

قرآن مجید کی یہ چار صفات بیان فرمانے کے بعد آگے فرماتے ہیں:

﴿Qَلِيلٌ يَفضلُ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِ، فَإِذَا لَكَ فَلَيْفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمِعُونَ﴾

(۵۸-۱۱) (ب)

یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ ایسے اکیر نسخے عطا فرمائے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہی رحمت، اس کو سوچ سوچ کر خوش ہونا چاہئے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اور براہ راست نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی امت سے فرمادیں کہ قرآن کی دولت پر خوش ہوا کریں۔ کیسے اکیر نسخے، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت اس پر خوش ہوا کریں۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ قرآن کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس پر

خوش ہونا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم تو قرآن کی دولت پر بہت خوش ہوتے ہیں مجھے تعجب ہے اس خوشی پر کہ آج تک کوئی ایک ایسا نسخہ بھی معلوم نہ کیا۔ اتنے اکیر، اتنے قیمتی نسخے جس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی بنے۔ بھی تو پوچھا ہوتا کہ وہ نسخے کیا ہیں۔ اس کی مثال یوں بھیں کہ کوئی کمپنی یہ اشتہار دے کہ ہماری کمپنی کا ایک کام ہے۔ اگر کوئی شخص وہ کام کر دے تو اسے اجرت کے علاوہ ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا تو دیکھئے اس کام کو معلوم کرنے کے لئے کمپنی کے سامنے کتنے لوگوں کی قطاریں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کے مسلمان کے قلب میں قرآن سے زیادہ دنیاۓ مردار کی محبت ہے۔ اگر قلب میں قرآن کی محبت ہوتی، قدر ہوتی اگر اس دولت پر خوشی ہوتی تو کچھ معلوم کرتا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا:

﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (ب ۱۱-۵۸)

دنیا بھر کی دولت جو سمیت رہے ہو، جمع کر رہے ہو، یہ قرآن مجید اس پوری دنیا کی دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ دولت بہت بڑی دولت ہے۔ خیر اسم تفضیل کے معنی میں ہے۔ بظاہر صینہ اسم تفضیل کا نہیں مگر لفظ خیر اسم تفضیل کے معنی میں ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کی نعمتیں مال، منصب، جمال، کمال جو کچھ بھی دنیا میں جمع کر رہے ہو سب سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اتنی بڑی دولت لیکن آج کل کے نالائق مولوی اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ قرآن بہت بڑی دولت اس طرح ہے کہ رزق کی خلگی ہو تو مزل پڑھ لیا کرو۔ بس پھر تو ہر طرف سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور اگر کوئی یہاں ہو جائے تو آیات شفاء گھول کر لیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے زعفران لادیں میں پلٹیں لکھ کر دے دیا کروں گا ایک پلٹی لکھنے کی بہت بڑی اجرت لیتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ ایک مولوی صاحب ہمیں پلٹیں لکھ کر دیتے ہیں اور ایک پلٹی کے اتنے اتنے روپے لیتے ہیں۔ میں نے کے ہزاروں روپے تو بندھے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم کتنے لوگوں کو الو بنا کر ان سے رقم

وصول کرتا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ چھوڑیں یہ دھنڈے اللہ کو راضی کریں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ مولوی تو موحد ہے ایسا ویسا نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ موحد لوگوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ لوگوں کو قرآن پر عمل کی تلقین کی بجائے قرآن کو پیشوں پر لکھ لکھ پر پلاستے رہیں۔ آج کے نالائق مولوی تو یہی بتاتے ہیں کہ لکھتے رہو، گھولتے رہو، پیتے رہو، دم کرتے رہو، وظیفے کے طور پر پڑھتے رہو۔ مگر سوچنے سب دولتوں سے بڑی دولت کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "هدی" اس میں نہیں ہے وہ نہ استعمال کرنے پڑیں گے۔ جب تک نہیں استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

دعوت قرآن:

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ناخوں کا حاصل کیا ہے۔ نہیں تو ہیں بہت سے مگر ان سب ناخوں سے مقصود کیا ہے جسے حاصل کرنے کے لئے یہ نہیں بتائے گئے ہیں۔ سارا قرآن ناخوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان سے مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنے کی دعوت۔ یہ سبق دینا مقصود ہے کہ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ نے تنزیل قرآن کے اس مقصد کی وضاحت قرآن کے شروع میں فرمادی۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا: "أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت مانگا کرو، آگے سورہ فاتحہ کے آخر تک اسی صراطِ مستقیم کی وضاحت ہے کہ جس پر چلنے سے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا: "هُدَىٰ لِلتَّقِيِّينَ" اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید ترقی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ترقی بننا چاہتے ہیں انہیں ہدایت کرتا ہے یعنی تقویٰ حاصل کرنے کے نہیں بتاتا ہے۔

تقویٰ:

جیسا کہ میں بتاچکا ہوں کہ قرآن مجید میں بتائے گئے تمام شخصوں سے مقصد ہے تقویٰ۔ اس لئے قرآن کے شروع ہی میں اس مقصد پر تنبیہ فرمادی، سورہ فاتحہ میں، پھر سورہ بقرہ کے شروع میں۔ پھر پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ (پ، ۴-۱)

ترجمہ: "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔"

"اتقوا اللہ، اتقوا ربکم" ایک جگہ نہیں واللہ اعلم قرآن مجید میں کتنی جگہ، کتنی بار یہی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہاں ڈرنے کا مطلب بھی سمجھ لیں۔

کسی سے ڈرنے کی وجہ:

① کسی قسم کی ایذا پہنچنے کا خوف:

جیسے کتے سے ڈرو کہیں کاٹ نہ لے، سانپ سے ڈرو کہیں ڈس نہ لے، شیر، بھیڑیے سے ڈرو، چور سے ڈرو، ڈاکو سے ڈرو، فلاں ظالم سے ڈرو۔ یہاں ڈرنے کے لئے کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ موزی ہے، ظالم ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے۔

② سزا کا خوف:

کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اس کی حکومت میں رہ کر اس کے قانون کی خلاف ورزی کی تو جتنا بڑا بادشاہ ہے سزا بھی ویسی ہی دے گا۔ ڈرو اس کی نافرمانی اور حکم عدالتی سے۔

③ محبوب کی ناراضی کا خوف:

کسی سے بہت زیادہ محبت ہے اسے کوئی نصیحت کرتا ہے کہ ارے! تم فلاں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، مگر ڈرتے رہو اس لئے کہ اگر کوئی بات محبوب کے مزاج کے خلاف ہوگئی اور محبوب نے ذرا سی نظر بدی تو قیامت آ جائے گی۔ ڈرتے رہو۔

اللہ تعالیٰ نے جو بار بار قرآن مجید میں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، یہاں پہلی قسم مراد نہیں معاف اللہ! وہ ظالم نہیں اس لئے یہاں دوسری اور تیسری قسم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان و عظمت کو سوچیں وہ حکم الخاکین اور ملک الملوك ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔

یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی کو "شہنشاہ" کہنا جائز نہیں۔ شہنشاہ کا اصل ہے "شاہ شاہان" جس کے معنی ہیں "بادشاہوں کا بادشاہ"۔ اس کو اٹا اور مختصر کر کے "شہنشاہ" بنادیا، یہ لفظ غیر اللہ پر بولنا جائز نہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ ہے۔ ملک الملوك، سلطان السلاطین، حکم الخاکین، اتنا بڑا بادشاہ اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ دنیا میں مجرم کسی بادشاہ سے چھپنا چاہے، سزا سے بچنا چاہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں:

① جرم چھپ کر کے کہ بادشاہ کو پتا ہی نہ چلے۔

② جرم اتنا طاقت ور ہو کہ بادشاہ کو علم بھی ہے کہ اس نے جرم کیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں ہے اس کے باوجود سزا دینے پر قدرت نہیں۔

③ جرم بادشاہ کی دستی سے کہیں باہر بھاگ جائے بادشاہ اسے پکڑنہ سکے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں گناہ کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔

(وَإِن تَوْلُوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ كَبِيرٍ ﴿٧﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْهَا صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَذَاتِ الْمُشْعُورِ ﴿٩﴾) (۱۱-۲۳ ناہ)

فرمایا: (وَإِن تَوْلُوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ كَبِيرٍ ﴿٧﴾) تم اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لئے کہیں ایسی جگہ بھاگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے جمع نہ کر سکیں ایسا نہیں ہو سکتا: "إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ" سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسی جگہ بھاگ جاؤ جہاں اللہ کی گرفت نہ ہو سکے۔ آگے فرماتے ہیں:

"وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" حاکم کی گرفت سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مجرم اتنا طاقتور ہے کہ حاکم کو اسے سزا دینے پر قدرت ہی نہیں، وہاں ایسا بھی نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ تیسرا صورت یہ ہوتی ہے کہ چھپ کر جرم کر لیا بادشاہ کو معلوم نہیں کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

• (أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَذَاتِ الْمُشْعُورِ ﴿٩﴾) (ب-۱۱)

اللہ تعالیٰ کا علم ایسا گھرا ہے کہ وہ سینوں کی باتوں سے باخبر ہیں اس لئے کسی کا جرم ان سے چھپا نہیں رہ سکتا۔

بات اس پر ہوری تھی کہ قرآن مجید میں نصیحت حاصل کرنے کے جو نفع بتائے گئے ہیں ان سب سے اصل مقصد جو پورے قرآن میں جا بجا بار بار بتایا گیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ درحقیقت تقویٰ کے صحیح لغوی معنی ڈرنے کے نہیں بلکہ بچنے کے ہیں۔ ڈرنے کے معنی اس لئے کر دیئے جاتے ہیں کہ جو شخص جس چیز سے چنان ذرے گا اسی حد تک اس سے بچنے کا اہتمام کرے گا۔ کم ذرے گا تو کم بچے گا۔ زیادہ ذرے گا تو

زیادہ بچے گا۔ مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہو تو انسان باہر نکلتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ چھتری لے لی اور کہیں بچھڑے ہے تو اس سے ذرا ساقی کر نکلے گا اور اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جائے گا خواہ کوئی کتنا ہمی اصرار کرے تو یہ بھی ہرگز آگ کے قریب نہیں جائے گا۔ چونکہ بارش سے زیادہ نہیں ڈرتا اس لئے زیادہ بچنے کا اہتمام نہیں کرتا جبکہ آگ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اس لئے اس سے زیادہ بچتا ہے۔ سو اصل معنی تقویٰ کے ہیں ”بچنا۔“ آگ سے بچو۔ اس کے معنی تو آسان ہیں کہ بچو یعنی دور بھاگو۔ اللہ سے بچو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، دوسری تعبیر یوں کریں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچو، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے چونکہ نافرمان پر اللہ کا غضب اور قہر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے: اتقوا اللہ اے لوگو! اللہ سے بچو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی بغاوت سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے قہر سے بچو، اللہ کے انتقام سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو۔ جیسے پہلے بتایا کہ کسی چیز سے بچنا اسی مقدار میں ہوتا ہے جس مقدار میں اس سے خوف ہو، اس لئے جا بجا فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں جہنم کا ذکر بار بار ہے، جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں ان سے بار بار ذرایا گیا ہے۔ جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا اس پر دنیا میں کتنے بڑے عذاب آتے ہیں اس بارے میں بھی قرآن مجید میں بار بار ان اقوام کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر دنیا میں کیسے کیسے عذاب آئے۔ نافرمانی پر آنے والے دنیوی عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں بہت کم ہیں:

﴿وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾(۲۲)﴾ (ب ۲۲ - ۲۳)

آخرت کا عذاب تو دنیا کے سب عذابوں سے بڑا عذاب ہے:

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ عَذَابِ الْآكِبَرِ﴾

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾(۲۱)﴾ (ب ۲۱ - ۲۲)

دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب اس لئے چکھاتے ہیں کہ شاید بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہی کچھ ندامت ہو جائے، عبرت ہو جائے، شاید سدھر جائیں، نافرمانی سے باز آ جائیں۔ دنیا کے عذابوں کو چھوٹے عذاب اس لئے نہیں فرمایا کہ وہ چھوٹے ہیں، چھوٹے کہاں ہیں؟ دنیا تو جل رہی ہے عذابوں میں، انہیں چھوٹے اس لئے فرمایا کہ عذاب آخرت کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں۔

سو جو شخص قرآن کی نصیحت پر عمل کرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا تو اس کے لئے قرآن بن جائے گا دلوں کی بیماری کی شفاء اور ہدایت اور رحمت۔

اسی طرح قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ (پ ۳۲ - ۲)

اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے معنی ہیں نافرمانی سے بچتا۔ مثلاً یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کی اطاعت کرتا ہے۔ فلاں شخص حکومت کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ جس حکومت میں رہتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس حکومت کی اطاعت کریں۔ ان مثالوں سے سمجھیں کہ اطاعت کا کیا مطلب ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ قانون لٹکنی نہ کریں۔ کوئی بات، کوئی کام اس حکومت کے قانون کے خلاف نہ کریں۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کر دی کہ نفس و شیطان نے آج کل کے معاشرہ نے اور سب سے بڑھ کر آج کل کے نالائق مولویوں نے بھی لوگوں کو اطاعت کے یہ معنی سمجھا رکھے ہیں کہ فل عبادت زیادہ کیا کرو، ہزار دانہ سبیع پکڑے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، تلاوت بہت کیا کرو، اشراق پڑھو، اوائیں پڑھو، تہجد پڑھو، حالانکہ جو مثالیں میں نے بیان کیں اس سے ہر شخص سمجھے سکتا ہے کہ اطاعت کا یہ مطلب ہے کہ نافرمانی نہ کرے، قانون لٹکنی نہ کرے، حکومت کے قانون کی خلاف درزی نہ کرے۔ یہ ہے اطاعت اور بھی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے قوانین کے خلاف نہ کرے، نافرمانی نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اتق المحارم تکن اعبد الناس“ (ترمذی)

گناہوں سے بچو اگر گناہوں سے بچ گئے تو پوری دنیا سے بڑے عابد بن گئے۔

نفل عبادت سے آپ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتے اس سے تو گناہوں کو چھوڑنے سے ہی بچیں گے، ہاں گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اگر نفل عبادت بھی کرتے ہیں تو پھر تو سبحان اللہ! نور علی نور۔ یہاں ایک بات خوب سمجھ لیں کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے وہ کیوں بچتا ہے اس لئے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو محبت کا ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اسے یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات محبوب کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ گناہوں سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ہر وقت اس کی ناراضی سے بچنے کی فکر میں رہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب خود فیصلے کریں کہ جس کو اتنی محبت ہو گئی وہ محبوب کا نام لئے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔

سے دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا

میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے

جسے اتنی محبت ہو تو پھر وہ محبت اسے خالی کہاں بیٹھنے دے گی کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ انسان کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے زبان پر اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی تو یہ حالت ہوگی۔

۶ آجا مری آنکھوں میں سما جا مرے دل میں
وہ ہر وقت محبوب کے تصور میں ہی ڈوبا رہے گا اور زبان پر بھی محبوب ہی کا ذکر رہے گا۔

۷ جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے

لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے

جدب میں پرال ہوش رہیں اور عقل مری چیران رہے

لیکن تمہ سے عافل ہرگز دل نہ مرا ایک آن رہے

ہے ایک تمہ سے کیا محبت ہو گئی
ساری خلقت سے ہی دشت ہو گئی
اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست
سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی

ہے شوق کو دھن ہے کہ چل کر اس کو ڈھونڈنے
لوگ کہتے ہیں کہ سودا ہو گیا
آپ کی دھن ہے کہ سودا ہو گیا
ہائے کیا جانے مجھے کیا ہو گیا
محبت کا تو یہ کرشمہ ہوا کرتا ہے محبت آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے
اک ہوک سی دل سے انھی ہے اک درد سادل میں ہوتا ہے
میں راتوں میں اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے
نیکی اور تقویٰ کا معیار یہ نہیں کہ نفل عبادت کثرت سے کرے بلکہ تقویٰ یہ ہے
کہ گناہوں سے بچے۔ اگر کوئی دور کعت نفل بھی نہیں پڑھتا، کبھی کوئی نفل عبادت نہیں
کی مگر گناہوں سے بہت بچتا ہے۔ کسی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اس کا مقام اس شخص
سے لاکھوں کروڑوں درجہ بلند ہے جو ساری ساری رات عبادت کرتا ہے مگر گناہ نہیں
چھوڑتا۔

کہ مکرمہ سے ایک تیرہ سال کی بچی کا خلط آیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں

خطبات الرشید

نافلہ نماز بالکل نہیں پڑھتی۔ عربی میں نفل نماز کو نافل نماز بھی کہتے ہیں۔ اس پنجی نے لکھا کہ میں نافلہ نماز تو بالکل نہیں پڑھتی لیکن فرض نماز میں میں نے کبھی غفلت نہیں کی اور یہ بھی لکھا کہ مجھ سے کبائی کبھی نہیں ہوئے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ تیرہ سال کی پنجی اس کو گناہوں کا کیا خیال آگیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے بہشتی زیور پڑھنا اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے، بہشتی زیور کے شروع میں کبائی کی فہرست ہے۔ میں نے بہت شاباش دی کہ اصل دین تو یہی ہے۔ نفل عبادت سے کچھ نہیں بنے گا، کام بنے گا تو گناہوں کو چھوڑنے سے ہی بنے گا۔

یہاں ایک صحابی کا قصہ بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے کچھ تھوڑا سا انقباض رہنے لگا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ ذرا مجھ سے کئے کئے سے رہتے ہیں۔ جیسا محبت کا تعلق ہونا چاہئے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کا مزاج میرے حق میں کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتا کیا بات ہے کیا کچھ ناراضی ہے؟ دوسرے صحابی نے فرمایا کہ مجھے آپ سے اس لئے انقباض ہے کہ آپ نفل عبادت کم کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں کہ مجھے کسی گناہ میں بمتلا دیکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے قانون کی میں نے خلاف ورزی کی؟ دوسرے صحابی نے جواب میں فرمایا کہ یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا پھر کیا ہوا جو میں نفل عبادت کرتا ہوں۔ یہ طے پایا کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سن کر فرمایا کہ حق کہتے ہو جس نے گناہ چھوڑ دیئے خواہ نفل عبادت نہ کرے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔

یہ قصہ میں نے اس لئے بتایا کہ اس سے پہلے تو میں نے ابھی ابھی یہ بتایا ہے کہ گناہ چھوٹے ہیں محبت سے اور محبت خاموش رہنے نہیں دیتی تو جب ان صحابی میں اتنی محبت تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے تو پھر وہ نفل عبادت کیوں نہیں

کرتے تھے؟ ان کی محبت انہیں نفل عبادت پر مجبور کیوں نہیں کرتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفل عبادت کی دو قسمیں ہیں۔

نفل عبادت کی دو قسمیں:

① ظاہری:

وہ عبادات نافلہ جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے جیسے اوراد و وظائف، تسبیحات، تلاوت نوافل وغیرہ یہ عبادات ظاہرہ ہیں۔

② قلبی:

نفل عبادت کی دوسری قسم ہے فکر۔ دل انکار ہے، محبوب کی طرف دل لگ گیا وہ غافل نہیں ہوتا ہر وقت تکنکلی بندھی ہوئی ہے۔ ہر وقت اس کا دیدار ہو رہا ہے، مشغول ہے اپنے مالک کی طرف۔ جو دل کی عبادت ہے دل ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے اس کی وجہ سے زبان پر بھی ذکر محبوب جاری رہتا ہے۔ کبھی غفلت نہیں آنے پاتی۔ اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ دل بھی محبوب کی طرف لگا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ظاہری نفل عبادت بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ کہ ان پر ایسا جذب طاری رہتا ہے کہ ہر وقت تجھے ہی دیکھتا رہوں۔ تیرے دیدار کی لذت کسی دوسرے کام کی فرصت ہی نہیں دیتی کیا کروں۔ دل ادھر متوجہ رہتا ہے۔ اور زبان پر بھی اسی کی یاد۔ انہیں کہتے ہیں قلندر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لیذکرِ اللہِ اقوام فی الدُّنْيَا عَلَى الْفَرْشِ الْمُمَهَّدَةِ“

”یدخلهم الدرجات العلي“ (صحیح ابن حبان)

ترجمہ: ”کچھ لوگ دنیا میں زم زم بستروں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے

اس کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل فرمائیں گے۔“

قرآن مجید ہدایت و رحمت کیسے؟

قرآن مجید کا مطلوب تک پہنچانا، ہدایت کے معنی ہیں مطلوب اور مقصود تک پہنچانا اور قرآن مجید کا دنیا و آخرت میں رحمت بن جانا اس صورت میں ہوتا ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔

نفس و شیطان کے حملے:

نفس و شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہر ہر مرحلے پر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔

پہلا حملہ:

پہلا حملہ یہ کہ کفر و شرک میں بتلا رکھتے ہیں۔ ایمان کی دولت سے محروم رکھتے ہیں۔

دوسرा حملہ:

اگر نفس و شیطان کے پہلے حملہ سے کوئی نفع نکلا۔ ایمان کی توفیق ہو گئی یا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر پیدا فرمایا تو نفس و شیطان اسے کہاڑ میں ایسا بتلا کر دیتے ہیں کہ ہر وقت گناہوں کی لذات میں مست رہتا ہے۔ آخرت سے بالکل غافل، دیندار بننے کی کوئی فکر ہی نہیں۔

تیسرا حملہ:

اگر کسی میں دینداری کی کچھ فکر پیدا ہو گئی تو پھر نفس و شیطان آگے تیسا رواز

کرتے ہیں وہ یہ کہ بد عات کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کو سبق پڑھاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بد عات کرتے چلے جاؤ دین میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ خوش اور غم کے موقع پر صحیح دین کو چھوڑ کر بد عات کو روایج دے دیا گیا ہے۔ ہر موقع پر نفس و شیطان نے یہ سمجھا دیا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ طریقے ایجاد کرو۔ بدعت کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے جس کی وجہ یہ ہیں:

❶ کبیرہ گناہوں میں جتنا شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر رہا جبکہ بدعتی اسکی چیزوں کو جو شریعت میں نہیں انہیں شریعت میں داخل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مقابلہ میں اپنی متوازی حکومت بنارہا ہے۔ گویا اس مسئلہ کا علم نہ اللہ کو ہوا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہوا، نہ تائیعین کو نہ انہے دین حرمہم اللہ تعالیٰ کو کسی کو علم نہیں ہوا، اسے علم ہو گیا کہ اس کام میں ثواب ہے۔ یہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے مقدم رکھتا ہے۔ اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کے نازل فرمودہ احکام پر ترجیح دیتا ہے۔

❷ بدعت کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہے۔ دوسرا شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، کیسے ہی بڑے گناہوں میں جتنا ہو اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں ثواب ہے یہ عبادت کے کام ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ اسے کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے۔

❸ گناہوں میں جتنا شخص کو اگر توبہ کی توفیق نہ بھی ہوئی تو وہ کم سے کم خود کو اقراری مجرم تو سمجھتا ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے جبکہ بدعت کو تو اپنی بدعت پر ناز ہوتا ہے۔ وہ خود کو مجرم نہیں سمجھتا بلکہ اسے تو دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا تلقی، پرہیزگار، بڑا ولی اللہ ہے۔ جتنی بد عات زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔

بدعتی کے تین فریب:

بدعتی لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لئے انہیں تین فریب دیتے ہیں:

① ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟

② یہ لوگ جو روکتے ہیں یہ وہابی ہیں۔ عبادات کے مکفر ہیں، عبادت سے نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔

③ اس کام کا اگر ثبوت نہیں تو شریعت نے اس سے روکا بھی تو نہیں، اگر کہیں منع ہو تو دکھائیں۔

پہلے دو فریبوں کا جواب:

تم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے رہوں سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے۔ ہم اس حرج عظیم سے روکتے ہیں۔ عبادات سے نہیں روکتے اس کا مقابلہ کرنے سے روکتے ہیں، اسے چند مثالوں سے سمجھیں۔

حقیقت سمجھنے کے لئے تین مثالیں:

پہلی مثال:

اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مودون اسی لہجے میں ایسی ہی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کے بعد کہے محمد رسول اللہ۔ اسے کوئی سمجھائے کہ اذان تو لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی آپ جو اضافہ کر رہے ہیں وہ شریعت میں نہیں۔ اس پر وہ کہے کہ کیا حرج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو کہہ رہا ہوں پھر کوئی اس کو اصرار سے روکے تو کہے کہ یہ تو وہابی ہے، رسالت کا مکفر ہے، ہم رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ نہیں روکتا ہے۔ اس حقیقت کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ہم رسالت کا انکار نہیں کرتے اور یہ جو کہتے ہو کہ اس میں کیا حرج ہے تو حرج نہیں

ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہو انہوں نے اذان لا الہ الا اللہ تک بتائی ہے اور آپ نے ایک کلمہ کا اضافہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گویا اذان ناقص تھی آپ نے اسے مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں:

﴿الْيَوْمَ أَكْلَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا مُنْعَمُونَ وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۲-۶)

میں نے آج دین کو مکمل کر دیا، کوئی نقص باقی نہیں رہا۔ آئندہ کوئی آنے والا اگر یہ جرات کرے کہ دین ناقص تھا میں اسے کامل کر رہا ہوں تو وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے برا سمجھتا ہے۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی نقص نہیں جس کی تکمیل کوئی انسان کرے۔

دوسری مثال:

فرانس میں قعدہ اولیٰ میں تشهد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اگر بھولے سے پڑھا ہے تو سجدہ سہو کرے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھے۔ سزادی گئی کہ جب ہم نے نہیں بتایا تو کیوں پڑھا، اگر کوئی کسی بعثتی کو سمجھائے کہ قعدہ اولیٰ میں درود شریف نہیں پڑھنا چاہئے، اس پر وہ کہے کہ درود شریف ہی تو ہے کیا حرج ہے اور سمجھانے والے کو یوں کہے کہ یہ تو منکر رسالت ہے، درود سے روک رہا ہے، رسول کا دشمن ہے تو اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ درود شریف سے نہیں روک رہے جتنا چاہو پڑھو لیکن اس موقع پر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس موقع پر اگر پڑھا تو درود شریف جیسی عبادت بدعت بن جائے گی۔

تیسرا مثال:

امام جہری نماز پڑھارہا بوس نے تاوات میں وہ آیت پڑھی جس میں ختم رسول

اللہ ہے۔ مقتدیوں میں کوئی بدعتی ہواں نے زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر سمجھایا کہ اس موقع پر درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔ مقتدی کہے کہ کیا حرج ہے، ہم نے درود ہی تو پڑھا ہے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا۔

تیرے فریب کا جواب:

تیری بات جو بدعتی کہتے ہیں کہ اگر ثبوت نہیں تو روکا بھی تو نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا تو اللہ نے جو چیز نہیں بتائی اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ منع ہے۔ اس کے بعد کوئی دین میں کچھ داخل کرے گا تو وہ اس کی طرف سے زیادتی ہو گی گویا کہ دین پہلے سے مکمل نہیں تھا، تا قص خدا اس بدعتی نے اسے مکمل کیا ہے۔ اگر خاص طور پر کسی چیز کی ممانعت نہ بھی آئی ہو تو قاعدہ کلیہ یہ ہو گیا کہ جتنا دین بتایا گیا ہے اسی پر عمل کریں باقی سب کچھ ناجائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة

ضلاله وكل ضلالة في النار“ (نسائی)

ترجمہ: ”دین میں نئی چیزیں داخل کرنا سب گناہوں سے بدتر ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔“

چوتھا حملہ:

اگر کوئی بدعت سے بھی نفع گیا، اس کے عقائد صحیح ہو گئے تو شیطان مردود اگلاوار یوں کرتے ہے کہ گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر بھی انسان بہت بُرا ملتی اور ولی اللہ بن سکتا ہے وہ اس طرح کرنفل عبادات خوب کرو۔ ترک مکرات اور نفل عبادات کو چند مثالوں سے سمجھیں:

❶ گناہوں کو چھوڑنا علاج ہے اور نفل عبادت اچھی غذا ہے۔ اگر بیماری کا علاج نہیں کرتے صرف اچھی اور مقوی غذائیں دیتے چلے جا رہے ہیں تو صحت نہیں ہوگی بلکہ الٹا نقصان کا اندریشہ ہے۔ نقصان کا خطرہ کیسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ طاقت والی غذا کا تحمل ہے نہیں۔ بیماری سے معدہ کمزور ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں اسے یا تو قی کھلا دیا جائے تو وہ صحت کی بجائے مرض میں شدت کا سبب بنے گی۔ معدہ میں تحمل تو ہو۔ اسی طریقہ سے اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو کثرت ذکر اور کثرت عبادت نافلہ سے نقصان کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص خود کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھنے لگتا ہے، کر رہا ہے گناہ، تافرانی کرتے ہوئے جہنم کا سامان اکھا کرتے ہوئے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا ذاکر شاغل ہے۔ بڑے محابی، مرافقی، ذکر، تلاوت اور نوافل کی کثرت اور کثرت سے روزے رکھنے والا ایسا عابد زاہد ہے ”جهنمی“۔ اس لئے کہ گناہ کرتا ہے۔ ہے جہنمی اور سمجھ رہا ہے کہ جنت کے بڑے بڑے خزانے حاصل کر لئے۔ ذکر اللہ جیسی مقوی غذاء سے اسے نفع کی بجائے نقصان ہوا۔ گناہوں کو چھوڑنا بیماری کا علاج ہے، دواء ہے اور نفل عبادت مقوی غذاء ہے۔ علاج کریں ساتھ ساتھ مقوی غذاء بھی استعمال ہوتی رہے تو دواء کا اثر جلدی ہوگا۔

❷ گناہوں کو چھوڑنا مضبوط تغیر ہے اور نفل عبادت کی مثال رنگ دروغن کی ہے۔ اگر تغیر کے ایک ایک قانون کی رعایت کرتے ہوئے تغیر کی، خوب اچھی مضبوط تغیر ہو گئی پھر آپ نے اس پر رنگ دروغن نہ بھی کیا تو عمارت کو کچھ نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں لیکن اگر اس بہترین مضبوط تغیر پر اچھارنگ دروغن بھی ہو جائے یعنی گناہوں سے پہنچنے کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کے انوار بھی حاصل کر لئے تو کیا کہنا سبحان اللہ! نور علی نور۔ اگر انہوں سے بچ گیا اور زیادہ نافلہ عبادت نہیں کی تو کم سے کم تغیر تو اسکی ہے کہ جان پنجی رہے اور اگر تغیر ناقص ہے یعنی گناہ نہیں چھوڑتا اور عبادت نافلہ کے انوار حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ تغیر بالکل کمزور ہے۔ اس پر اچھارنگ و

روغن کر دیا جائے۔ خود سوچئے! کیا ایسا مکان موسموں کی سختی میں کچھ کام آئے گا؟ وہ تو طوفان کے ایک ہی جھکڑ میں زمیں بوس ہو جائے گا۔

❷ گناہوں کو چھوڑنا دل کی صفائی ہے اور نفل عبادت کرنا دل کی تجلی ہے، دل کو رنگنا ہے۔ اگر کوئی کپڑا، لوبایا لکڑی وغیرہ رنگنا چاہیں تو جب تک کپڑے کو دھونیں گے نہیں اور لو بے، لکڑی وغیرہ کو ریگ مال سے صاف نہیں کریں گے اس وقت تک وہ رنگ کپڑیں گے ہی نہیں اور اگر رنگ کپڑا بھی تو اس میں چمک نہیں ہو گی نہ تو صفائی آئے گی اور نہ ہتی وہ رنگ دیر پا ہو گا۔ کسی بھی چیز کو رنگنے کا اصول یہ ہے کہ پہلے اس پر سے میل صاف کریں پھر اسے رنگیں۔ اسی طرح توبہ واستغفار دل کا ریگ مال ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں پھر نفل عبادت کریں تو قلب پر تجلیات الہیہ کے انوار ہوں گے اگر توبہ واستغفار کئے بغیر نفل عبادت کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہو گا۔ یہ رنگ ناپاسیدار اور فریب ہو گا۔

ایک بات اور سمجھے لیں میں جو یہ کہتا رہتا ہوں کہ گناہ چھوڑے بغیر نفل عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل معیار گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس سے کہیں یہ نہ سمجھے لیں کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑتے نفل عبادت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ نفل عبادت آپ کے لئے کافی ہو جائے گی بلکہ نفل عبادت کو گناہ چھوڑنے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ تو نسخہ ہے گناہ چھوڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ایسی محبت عطا فرمادیں کہ گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے لگے۔

وَصَلَ اللَّهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ

وَعَلَى الْهَمَّ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

حیث کا اڑ

— وَعْظ —

فِي الْعَصْرِ الْمُفْتَاحِ الْجَمِيعُ أَقْدَمَ مِنْهُ لَا يُشِيدُ الْجَمِيعُ بِالْعَالَمِ

— نَاسِئ —

کتاب کھڑا

ناظم آباد ۲ کراچی

فیضان نہج الدین شیخ الحدیث الحنفی الحنفی

و عظیم

صحبت کا اثر

تام

جامع مسجد دارالافتاء والارشاد فتحم آباد کچھی

برقاوں

تاریخ

بعد نماز عصر

تاریخ طبع مجلد: ذی قعده ۱۴۲۲

طبع

حسان پرنگ پریس فون: ۰۲۱-۶۶۳۱۰۱۹

محل

محل: حکیم کلہر فتحم آباد کچھی

ناشر

۷۵۶۰۰

فون: ۰۲۱-۶۶۰۲۳۶۱

لیکس: ۰۲۱-۶۶۲۲۸۱۳

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وعظ

صحبت کا اثر

(۲۵ ربیع الاول ۱۳۶ھ)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوَّا أَنَّهُ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

(ب ۱۱ - ۱۱۹) ۱۱۹

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ حاصل کرنے کے لئے یہ نصیحت ارشاد فرمایا ہے کہ سچے مسلمانوں کے ساتھ رہا کرو:

صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے:

”اجلس بنا نؤمن ساعۃ“

ذرا ایک جگہ مل کر بینہ کر ایمان تازہ کر لیں۔ آپ کے مخاطب حضرت اسود بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے (فسطلانی) جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کی ضرورت محسوس فرماتے تھے حالانکہ صحابی تھے وہ اس میں اپنے دین اور ایمان کی بہتری سمجھتے تھے کہ کبھی کسی وقت مل کر بینہ جایا کریں تو ایمان میں ترقی ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

سے آسمان سجدہ کند بزمی کے برو
یک دو کسی یک دو نفس بہر خدا پیشید

خطبات الرشید

زمین کے بعض نکڑوں کی بعض قطعات کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے ہاں انہیں ایسا مقام حاصل ہے کہ آسمان بھی ان پر رشک کرتا ہے ایسا رشک کرتا ہے کہ گویا آسمان اس زمین کو سجدہ کرتا ہے، کہاں آسمان اور کہاں زمین وہ کون سی زمین ہے جسے آسمان سجدہ کرتا ہے وہ زمین جس پر یک دُکس، ایک دُوانسان، کوئی بڑا مجمع نہیں صرف ایک دُوانسان، یک دُنفس، ایک دُوسانس کے لئے، پانچ دُس منت یا گھنٹوں نہیں بلکہ جتنی دیر میں ایک دُوسانس آ جائیں صرف اتنی سی دیر کے لئے بہر خدا بخشید، اللہ کے لئے مل کر بینتے جائیں وہ زمین ایسی مقدس ہو جاتی ہے کہ آسمان بھی اسے سجدہ کرتا ہے ایسی مقدس ہو جاتی ہے اس طرح مال بینتے کر دین کی باتیں کرنے سے دین میں ترقی ہوتی ہے۔

مجلس کا اثر:

اس کی مثال ایسے تجھیں جیسے گرم کھونتا ہوا پانی بہت تیز گرم کھوتا ہوا اس میں سخنڈے پانی کا ایک قطرہ مار دیا جائے تو اس کھولتے ہوئے پانی کی گرمی میں یقیناً خفت آئے گی کی ہوگی اگرچہ وہ محسوس نہ ہو پہلے بھی کھول رہا تھا سخنڈے پانی کا ایک قطرہ ملانے کے بعد بھی کھول رہا ہے، پہلے بھی جلا رہا تھا بھی جلا رہا ہے احساس تو نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ تغیر پیدا ہو گیا ہے مگر، وہ ضرور ہے، اگر ایک قطرے سے تغیر نہیں ہوا تو کہی لیس سخنڈا پانی ملادینے سے تغیر کیسے آ جاتا ہے معلوم ہوا کہ تاثیر تو ایک قطرے میں بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی زندگی فسق و فجور کے جنم میں گزر رہی ہے اور کہیں کسی صالح شخص کے پاس گزر ہو گیا تو کھولتے ہوئے پانی میں اس سخنڈک کا کچھ تو اثر پڑا، ہو سکتا ہے کہ اسے احساس نہ ہواں لئے کہ اس میں معاصی کی شدت ہے، اہل جنم کی صفات کا غلبہ ہے اگرچہ اسے اٹھوس نہ ہو مگر کسی صالح شخص کے پاس اچھی مجلس میں بیٹھا رہا تو ایک ایک قطرے کے اثر سے ہوتے ہوتے ہوتے

جہنم کی آگ بخنے لگے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اثر ہوتا ہے اور اگر مل بینھنے والوں میں جہنم کی حرارت پر اللہ کے عشق کی حرارت غالب ہو تو کچھ ایک میں ہے کچھ دوسرے میں کچھ تیرے میں جتنے مل کر بینھیں گے حرارت اور روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک سوم بتی جل رہی ہو روشنی کم ہے اس کے ساتھ ایک موم بتی اور جلا دی جائے تو روشنی بڑھ جائے گی ایک اور بڑھا دی جائے تو روشنی اور بڑھ جائے گی جتنی ساتھ ملاتے جائیں روشنی بڑھتی جائے گی اور اگر انہیں پھیلا کر رکھیں تو بہت وسیع رقبے کو روشن کر دیں گی روشنی پھیلتی جائے گی جن لوگوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی ہے وہ جتنے زیادہ مل بینھیں گے اتنی ہی روشنی زیادہ ہوگی، اسی روشنی کا اثر ہر بینھنے والے پر اس کی اپنی اصل روشنی سے زیادہ پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے جمع ہونے کے بعد جو کل روشنی ہوا سے سب پر تقسیم کر دیا جائے ایسا کرنے سے تو اتنی ہی روشنی رہے گی جتنی پہلے تھی، وہ روشنی تقسیم نہیں ہوتی بلکہ جو کل مجموع ہے وہ سب کے قلوب میں اللہ تعالیٰ ذال ذیتی ہیں دیکھنے کتنی ترقی ہوگی۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مل کر بینھ کر کچھ دین کی باتیں بھی کریں تو روشنی بڑھتی ہے بلکہ ایسے ہی مل کر بینھ جائیں دنیا کی فضول باتیں نہ کریں صرف اللہ کے لئے مل کر بینھیں پھر خواہ دین کی باتیں کریں کریں خواہ ہر شخص اپنے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بینھارے، خواہ ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں نہ کوئی کچھ بول رہا ہے نہ کوئی کچھ من رہا ہے اللہ کی خاطر بینھے ہیں اس مجلس کا یہ اثر ہے۔ بری مجلس سے بری صحبت سے بچا کریں۔

دارالافتاء کے ایک طالب علم کا قصہ:

ابھی ابھی ایک خط میرے سامنے آیا نماز سے پہلے اسے پڑھ کر آ رہا ہوں۔ ایک بچہ چند سال پہلے یہاں دارالافتاء میں رہا ہے، دنیوی لحاظ سے بلند لوگ ہیں اللہ نے اس بچے کو دارالافتاء میں پہنچا دیا یہاں آنے کے بعد اس نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ

خطبائی الرشید

دیا، اس کا ابا اسے مار مار کر فی وی دکھاتا تھا مار مار کر فی وی کے سامنے لے جاتا تھا یہ بچہ فی وی کے سامنے جا کر اپنا سرز میں پر رکھ دیتا تھا تاکہ فی وی پر نظر نہ پڑے، ابا اوپر سے تھپٹر لگا کر کہتا کہ اخھاؤ سرد یکھوٹی وی۔ اس بچے نے بتایا کہ ایک بار میری ای ہے کہا تو ملآ بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو میں نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے کھاؤں گا۔ ہر چیز میں کچھ مقدرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عبرتیں ہوتی ہیں شاید ایک یا دو سال وہ لڑکا دارالافتاء میں رہا اس کے بعد کچھ ایسا شیطان کا چکر چلا کہ وہ دارالافتاء کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ڈاڑھی اس زمانے میں تھوڑی تھوڑی نکل رہی تھی اسے بھی منڈ وانا شروع کر دیا۔ اس نے بعد میں جو حالات لکھے ان میں بتایا کہ اس زمانے میں بھی صرف دارالافتاء کی زیارت کے لئے باہر سے چکر لگایا کرتا تھا، کافروں کی صورت میں دارالافتاء کے اندر آنے کی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی ڈاڑھی منڈانے سے تو کافروں جیسی صورت بن جاتی ہے نا اللہ کے باغیوں کی صورت میں دارالافتاء آئے ایسا بے شرم تو نہیں ہوا کہتے ہیں اندر آنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی تھیں مگر اتنا کام کرتا رہا کہ دارالافتاء کی زیارت کے لئے بھی بھی سامنے سے چکر لگاتا رہا اتنا تعلق رکھا، دوسرا تعلق یہ رکھا کہ یہاں کے چھپے ہوئے مواعظ پڑھنے کا معمول رکھا تیسری بات یہ کہ مواعظ کی کیمیں سننے کا معمول رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہوا کہ والدین نے دنیا کمانے کے لئے لندن پھر وہاں سے کینیڈا بھیج دیا کماڈ دنیا بیٹھے دنیا کماڈ۔ اللہ کی رحمت نے ان کی دشگیری یوں فرمائی کہ جن دنوں پچھلے سال میں لندن میں تھا انہیں دنوں میں اس لڑکے کو لندن پہنچا دیا وہاں جو مواعظ ہوئے تھے ان کی کیمیں یہیں نے انہیں دیں اور ان سے کہا کہ اس میں آٹھ بغاوتیں ہیں یہ آپ نہیں، انہوں نے وہ کیمیں نہیں اور چونکہ پہلے سے یہاں مصالحہ لگتا رہا تھا اس لئے پرانی چوت ابھر آئی، اللہ کی محبت کی اس چنگاری کو شیطان نے بھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ

و عظمن کر پرانی چوت ابھر آئی اسی وقت طے کر لیا کہ اب ڈاڑھی رکھوں گا، مجھے بتایا کہ میں نے آئندہ ڈاڑھی منڈانے کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ اس کے بعد لندن سے وہ پس کینیڈا پہنچ گئے شادی بھی ہو چکی تھی بیوی وہیں کینیڈا میں تھی۔ وہاں سے خط لکھا کہ میں نے ڈاڑھی پوری کرنے کا عزم کر لیا ہے بس اب وہ منزل کی طرف بڑھ رہی ہے کئے گی نہیں، کچھ مدت وہاں بھرنے کے بعد یہاں آئے تو ڈاڑھی کافی بڑھی ہوئی تھی پوری تو نہیں ہوئی تھی مگر بڑھ رہی تھی، یہاں بھی لکھ کر دیا کہ اب یہ ڈاڑھی نہیں کٹے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، ایک خط میں بیوی کے بارے میں لکھا کہ اس نے شرعی پرده کر لیا ہے۔ آج ان کا خط میرے سامنے آیا آئے ہوئے تو کئی دن ہو گئے ہوں گے میرے سامنے تو ترتیب سے ڈاک آتی ہے، ان کا خط پڑھ کر معلوم ہوا کہ اللہ نے اس لڑکے کو بہت بڑا زاہد بنادیا ان کا قصہ سننے سے پہلے زاہد اور تارک دنیا کے معنی سن لیں۔ زاہد یا تارک دنیا کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کا ہر وہ ففع چھوڑ دے جس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہو جس سے آخرت کا نقصان ہو وہ دنیا فتح ہے ملعون ہے ملعون، اس سے جو شخص بچتا ہے وہ ہے تارک دنیا، اس طرح بچتے ہوئے خواہ وہ پوری دنیا کا باڈشاہ بن جائے ہزاروں دنیا اس کے قبے میں آ جائیں، تخت سلیمانی مل جائے سلیمان علیہ السلام جیسی باڈشاہت مل جائے تو بھی وہ تارک دنیا ہے۔ انہوں نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ کینیڈا پہنچنے کے بعد میں نے یہاں قانون کے مطابق اپنی قابلیت کے کاغذات تیار کر کے ملازمت کے لئے درخواست دی درخواست کے جواب میں چار کمپنیوں کی طرف سے مجھے ملازمت کے لئے بلا یا گیا ان میں سے تین تو بینک کے ادارے تھے میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ میں یہاں ملازمت نہیں کروں گا۔ آسمگے تھوڑی سی تشریع میں کردوں کہ جس پر اتنی بڑی لعنت اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ کا بندہ اسے کیسے قبول کر لے۔

سودخوری بہت بڑی لعنت:

جب بھی بینک یا سود کی بات آتی ہے تو میں اس بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد قصداً و ہرایا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ انہیں زیادہ آگے پھیلائیں یہ معلوم نہیں کہ پھیلارہے ہے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، سننے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْرَأُوا آمَانَةَ اللَّهِ وَذَرُوا مَا بَيْنَ أَرْبَابِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (۲۷۸) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (۲۷۹) (ب ۳ - ۲۷۸)

سود کی لعنت، سے بچانے کے لئے اعلان کی ابتداء یوں فرمائی: "يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" اے ایمان کے دعویداروں میرے ساتھ عشق و محبت کے دعویداروں ایمان کے معنی ہیں اللہ کے ساتھ عشق و محبت یہ ایمان کا حاصل ہے جس میں یہ نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایک آپ ریشن تو یہیں کر دیا کہ یا تو ایمان کے دعوے چھوڑ دو اور اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر سودی لین دین چھوڑ دو۔

سہ ہدم گلہ اختصار می باشد کرد
یک کار ازین دوکار می باشد کرد
یا تن برضاۓ دوست می باشد کرد
یا قطع نظر زیار می باشد کرد

ارے دغا بازو، فربیو! ایک کام کرو صرف ایک کام کرو یا ادھر یا ادھر بھی اور ادھر بھی ایک طرف کو چلو، اگر ایمان کے دعوے کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو محبت کا ثبوت پیش کرو۔ محبت کا ثبوت کیا ہے کہ چوٹی سے لے کر ایڑی تک اپنے پورے حالات اپنے دوست اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر

دو مردہ بدلست زندہ بن جاؤ اگر ایسا کرتے ہو تو محبت کا دعویٰ صحیح ہے ورنہ مخلط ہے جھونٹا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی محبت کو قبول نہیں کرتا کہ جس سے محبت کے دعوے کریں اس کی نافرمانیاں بھی کرتے رہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو ہر انسان بڑا ہشیار ہے بہت ہشیار، کسی سے ایسی محبت کر کے دیکھ لیں کہ ارے یا را! تیری محبت میں مرا جا رہا ہوں ارے یا را! کچھ نہ پوچھو میں جب تک تجھے دیکھنے لوں پریشان رہتا ہوں غیندھی نہیں ہوتی، آنکھیں ہر وقت تیری ہی طرف لگی رہتی ہیں میرے دوست تیری محبت نے تو مجھے مجنوں بنادیا ہے مگر دیکھ تیری بات ایک بھی نہیں مانوں گا یا چلو وہ باتیں مان لوں گا جس میں مجھے مزا آئے دوسرا ایک بھی نہیں مانوں گا کیا دنیا میں کوئی پاگل سے پاگل احمد سے احمد بھی اس محبت کو مانے گا؟

سے دورگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا
سرا سر موم یا پھر سنگ ہو جا
دورگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جایا تو اللہ کے رنگ کو قبول کر لے:
 ﴿صِبَغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنِيدُونَ﴾ (ب ۱ - ۱۳۸)

اپنے دل پر اللہ کا رنگ چڑھالے اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کوں سا ہو سکتا ہے۔

عبادت کے معنی:

آیت کے آخر میں اسی اللہ کے رنگ کی تشریع اور تفسیر ہے:

﴿وَنَحْنُ لَهُ عَنِيدُونَ﴾ (ب ۱ - ۱۳۸)

تقديم ما حلقه التأثير حصر کے لئے ہے فرمایا: "لَهُ عَنِيدُونَ" "ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی یہ

ہیں کہ پورے کے پورے اللہ کی رضا کے تابع ہو جاؤ۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں کسی کے اتنا تابع ہو جانا کہ اپنی کوئی خواہش باقی نہ رہے سب کچھ کسی پر قربان کر دینا اسے عبادت کہتے ہیں۔ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُوْزِعُهُ لِيَا مَگر احکام مانتے نہیں یا کچھ مان لئے کچھ نہیں مانتے تو یہ عبادت نہیں، عبادت کے معنی مکمل طور پر غلام بن جانا مکمل طور پر فداء ہو جانا، اپنی سب خواہشات کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیں: "وَنَخْنُنَ لَهُ عَدِيدُونَ" یہ ہے اللہ کا رنگ، اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو اپنا رنگ عطا فرمادیں۔

معبوود صرف اللہ ہے:

فرمایا:

﴿۱۸﴾ يَسِّأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْخُلُوا فِي الْيَسْلَمِ كَافَةً وَلَا
تَسْتَعِفُوا خُطُوبَتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
﴿۱۹﴾ فَإِنْ رَأَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبِيِّنَاتِ
فَأَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ يَرِى حَكِيمٌ ﴿۲۰۸ - ۲۰۹﴾

ایمان کے دعوے کرنے والو! "أَذْخُلُوا فِي الْيَسْلَمِ كَافَةً" "پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ" پورے کے پورے کوئی حالت تمہاری اسلام کے خلاف نہ ہو تو تمہارا ایمان کا دعویٰ قبول ہو گا پورے مکمل داخل ہو جاؤ اگر اسلام کے ایک لاکھ احکام میں سے ایک کو چھوڑ دیا باقی ننانوے ہزار نو سو ننانوے احکام پر عمل کرتے رہے اور ایک حکم کو چھوٹا یا معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا کہ اب تو ہم بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اگر یہ ایک حکم چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، تو سن لو تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے اگر اسلام کے بڑا روں لاکھوں احکام میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو یہ شیطان کا اتباع ہے اسی لئے فرمایا:

﴿۲۰۸ - ۲۰۹﴾ وَلَا تَسْتَعِفُوا خُطُوبَتِ الشَّيْطَنِ

شیطان کے پچھے مت لگو شیطان کی تھوڑی سی بات بھی مت مانو پورے کے پورے اللہ کے بندے بن جاؤ تو مسلمان کھلاوے گے ورنہ نہیں اور اگر اسلام کو سمجھنے کے بعد پھر بھی شیطان کا اتباع کرنے لگے کوئی کوئی بات شیطان کی بھی ماننے لگے کہ چلنے اسے بھی راضی کر لیں۔

۷ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی
خوش رہے رحمٰن بھی راضی رہے شیطان بھی

اگر یہ مذہب بنا لیا کہ دونوں کو خوش رکھیں تسبیح بھی پڑھ لیا کرو، اتنے ہزار بار درود شریف بھی پڑھ لیا کرو، اشراق، چاشت، تجدید یہ کام بھی کر لیا کرو، عمرے اور حج بھی کرتے رہو، زکوٰۃ خیرات بھی ادائے کرتے رہو مگر ساتھ ساتھ شیطان کو بھی خوش رکھو۔ مثال کے طور پر سب سے پردہ کر لیا گر ایک بہنوئی سے نہیں کیا، بہنوئی کی بہت خصوصیات ہیں تا ادھر کو کہیں لمبا بیان نہ چلا جائے، بہنوئی سے پردہ نہیں کیا یا اس سے بھی زیادہ خطرناک نندوئی یا دیور کو گلے کا زیور بنار کھا ہے ایسے کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا شیطان کو بھی خوش رکھو دنیا میں رہنا ہے تو شیطان کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔

۸ خوش رہے رحمٰن بھی راضی رہے شیطان بھی
یا کہیں کسی بینک والے کے ہاں ناشتہ کر لیا، اس کی گاڑی میں چلے گئے۔

رحمٰن کے ساتھ شیطان کو خوش کرنے والے:

کسی نے فون پر مجھ سے پوچھا کہ ہمارے پڑوی بینک میں ملازم ہیں اگر میں ان کی گاڑی میں انہیں مسجد لے جاؤں تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ میں نے کہا کہ آپ بینک والے کی گاڑی کیوں استعمال کر رہے ہیں یہ تو حرام ہے، وہ خود نہیں چلا سکتا آپ کیوں اسے لے کر جائیں۔ بات جو صحیح ہوتی ہے نکل ہی جاتی ہے کہتا ہے اس کی لڑکیوں سے بھی میری کچھ بات چیت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس

خطبات الرشید

کی لڑکیوں سے کچھ بات چیت ہو جاتی ہے آج اسی شخص نے پھر پوچھا کہ پڑوس میں اگر کوئی بینک والا ہو اس کا بچہ یہاں ہو تو میں اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں یا نہ لے جاؤں؟ میں نے کہا کہ بچے کو نہ لے جانے میں کیا حرج ہے۔ نہ لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ گاڑی بینک والے کی ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں آپ بینک والے کی گاڑی میں نہ بیٹھیں وہ تو وہی لعنت والا کام ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ بچہ یہاں ہے اسے بچانا ہے۔ میں نے کہا کہ بچے کو بچانے کے لئے آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے پھر بعد میں ایک بات خیال میں آئی کہ ان کافون تو تقریباً روزانہ ہی آتا ہے یہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ترکیب لگ جائے پڑوی کی لڑکیوں سے بات کرنے کی، معلوم نہیں مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہاں لڑکیوں سے بات چیت کر لیا کرو اور ان سے تعلق رکھو شاید وہ یہ چاہتا ہو گا کہ دارالافتاء سے بینک والوں کی لڑکیوں کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ کرے کہ کل ہی اس کافون آجائے تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ بینک والا اپنے بیٹے کو خود ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتا؟ اتنا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی گاڑی میں نہ لے جائیں ان کی گاڑی میں کیوں نہ لے جاتے ہیں احسان کرنا ہی ہے تو اپنی گاڑی میں نہ لے جائیں یا کوئی نیکسی کر کے اس میں نہ لے جائیں حرام آمدی وابی گاڑی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہے

ؐ خوش رہے جس بھی راضی رہے شیطان بھی

سودخوروں کو اللہ کی حکمکی:

”يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوَ اللَّهَ“ ایک آپر یعنی تو کیا کہ ایمان والے ہو یا نہیں پہلے تو یہ فیصلہ کرو۔ دوسرا آپر یعنی کہ اگر ایمان کے دعوے کرتے ہو تو: اتقوا اللہ۔ اللہ سے ذر و جو اللہ سے نہیں ذرتا اس کا ایمان نہیں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ سے

ڈرنے کی علامت یہ ہے: وذروا ما بقى من الروبو۔ اللہ نے جس چیز پر لعنت سمجھی ہے وہ چھوڑ دوسو دی لیں دین چھوڑ دو۔ تیسرا آپریشن: ان کنتم مؤمنین۔ پھر کہتا ہوں کہ یا تو ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو اور اگر ایمان ہے تو سود کو چھوڑنا پڑے گا اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت میں تین بار سخت تنبیہ کی، آگے چوتھی بار تو اتنی زبردست تنبیہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تنبیہ ہو ہی نہیں سکتی: فان لم تفعلوا۔ اگر سودی لیں دین نہ چھوڑ گے تو: فاذنووا بحرب من الله ورسوله۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو جنگ کا اعلان ہے، کفر اور شرک کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس پر جنگ کا اعلان کیا گیا ہو مگر سود کی لعنت اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سود کا ایک درہم چھتیں زنا سے بدتر ہے۔“ (احمد، طبرانی فی الکبیر

(والاوسط)

ایک درہم سائز ہے تین گرام چاندی کا ہوتا ہے اندازہ لگائیں کہ اگر ہینک والوں کے ہاں ایک ناشتا کیا تو کتنے درہم کھالنے کتنے سوزنا کرنے ایک مجلس میں چند منشوں میں کئی سو بدکاریاں کر لیں، کھلی بغاوت کر رہا ہے سب کے سامنے کر رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اسے حلال بھی سمجھ رہا ہے بعض لوگ تو اسے ثواب سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ جوڑ پیدا کرنے کے لئے کر رہے ہیں اس لئے ثواب ہے اور سنیں فرمایا:

”سود میں تہتر خرابیاں ہیں ان میں سے چھوٹی سے چھوٹی خرابی ایسی ہے

جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔“ (حاکم علی شرط الصحبین)

جو لوگ سودی لیں دین سے پرہیز نہیں کرتے رات دن رات دن علی الاعلان اپنی ماوں سے بدکاریاں کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں۔

اللہ کی خاطر دنیا قربان کر دی:

میں اس زاہد نبی کا قصہ بتارہا تھا چار اداروں سے ملازمت کی پیش کش آئی تین تو چینک تھے، انہیں انکار کر دیا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں میرے جانے والے لوگ مجھے سمجھا رہے تھے، بہت اصرار کر رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑی ترقی ہے اسے مت چھوڑو کر لو کر لو آگے راہیں کھلیں گی، کہتے ہیں میں نے بالکل انکار کر دیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، چوتھا ادارہ جہاں مجھے بلا مایادہ ہوا لی جہاز کا ادارہ ہے اس میں مجھے متعین کر لیا گیا بعد میں پا چلا کہ اس میں مسافروں کو اور عملے کو شراب بھی پلانی پڑے گی تو میں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میرے ذمے ایسے کام لگاؤ جس میں شراب کا لین دین نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر ملازمت کرو گے تو یہ کام کرنا پڑے گا ورنہ تو ملازمت نہیں ہو سکتی آپ استغفاء دے دیں۔ میں نے پہلی فرصت میں استغفاء دے دیا اب اور کوئی ملازمت سامنے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اتنی بڑی دنیا کو قربان کر دیا، بڑی بڑی ملازمتیں، بڑی بڑی تخفواہ، بڑا منصب، بڑے سے بڑا اعزاز سب کچھ قربان کر دیا خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لئے بڑے مناصب کو ملازمتوں کو، عزت کو، جاہ کو، مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ایک اللہ کی محبت پر قربان کر دیا دنیا جاتی ہے تو جائے دنیا کی وقعت ہی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں اسے لایا جائے۔ دوسرا سبق اس سے یہ حاصل ہوا کہ کبھی کہیں کسی مصلح باطن سے کسی وقت میں تھوڑا بہت تعلق ہو جائے تو بھٹکنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، یہ درمیان میں بھٹک گئے ذاہمی منڈادی اور علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیا اس کے باوجود اتنا ساتھ رکھا کہ باہر سے گزرتے ہوئے دارالاوقاء کی زیارت کر جاتے تھے کہتے ہیں کہ دارالاوقاء کی زیارت کرنے کے لئے اس کے سامنے سے گزرتا تھا اندر آنے کی بہت نہیں ہوتی تھی

بھنگیوں کی، یہودیوں کی عیسائیوں کی صورت بنا کر اندر کیسے آتا شرم آتی تھی اس لئے اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی باہر سے گزر جاتا تھا جن کے ساتھ محبت کا تعلق رہا چلنے ان کی گلی ہی سے گزر جائیں، مکان ہی پر نظر پڑ جائے۔ دوسری بات یہ ہی کہ چھپے ہوئے مواعظ پڑھتے رہے وعظ کی کیشیں سختے رہے آخر اللہ تعالیٰ نے مد فرمائی اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ جس میں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ طلب رہے اپنی کوشش میں لگا رہے تو جھٹکنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیگیری فرماتی ہے۔ صحیح دیندار بننے کے لئے وعظ ”علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا؟“ ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو فکر آخرت عطا فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله

وصحبه اجمعين۔

والحمد لله رب العلمين۔

بلا شیر جو لوگ ایمان لاسے اور انہوں نے اپنے کام کے لئے تعلیٰ ان کے لئے محبت پہنچ کر دے گا اصریح (۶۱)



شامیں ایں

— وَعْظ —

فِي الْعَصْرِ الْمُنْتَهَىٰ عَظِيمٌ حَدَثَ أَقْدَسُ مُهَاجَرٍ لِلشَّيْءِ لَا يَخْلُو خَلْقٌ بِالْأَنْتَاجِ

— نَاسِر —

کتاب کھجور

ناظم آباد لا کراچی

واعظ: ن

نام: ن

بمقام: ن

تاریخ: ن

برق: ن بعد نهاد عصر

تاریخ طبع مجلد: ن ذی قعده ۱۴۲۳

طبع: ن حسان پرنگ پریس فون: ۰۲۱-۲۶۳۰۱۹

ناشر: ن کتابخانه کلیسا نام آباد برج کپاچی ۷۵۶۰۰

فون: ۰۲۱-۲۶۰۲۳۶۱ لیس: ۰۲۱-۲۶۲۳۸۱۳

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وعن

شامت اعمال

(۲ صفر ۱۴۳۱ھ)

﴿وَكَذَلِكَ تُؤْتَى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا إِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (۱۶)

(۱۲۹-۸)

”وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكونون
 كذلك يؤمر عليكم“ (در من در)

حكومتوں کے تبدیل ہونے سے اس باق حاصل کریں ہر بات سے اپنی آخرت
 کی فکر پیدا کرنی چاہئے اور ایسے موقع پر مل کیا رہنا چاہئے اس بارے میں کچھ بتانا
 چاہتا ہوں۔ پاکستان میں تو ہر ایک دو سال بعد حکومت تبدیل ہوتی ہے۔ ایک کافر
 نے کسی وقت میں یہ کہا تھا کہ میں جتنے پاجامے بدلتا ہوں پاکستان میں وزارتیں
 حکومتیں اس سے زیادہ بدلتی ہیں۔ دھوتی لگانے والا مشرک یہ کہتا ہے۔ حکومتیں تو جلدی
 جلدی بدل ہی رہی ہیں ساتھ یہ بھی کہ عوام ہر حکومت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ
 یہ حاکم بڑا ظالم ہے اسے ہٹاؤ، اسے ہنا کر یوم نجات منایا اس کے باوجود جو آیا تو وہ
 اس سے بھی زیادہ ظالم، تیرا اس سے زیادہ چوڑھا اس سے بھی زیادہ۔

ایک غلام کا قصہ ہے کہ اس کا ناک ندو تو میدے کی روٹی کھاتا تھا غلام کو چھنے

ہوئے آئے کی روٹی کھلاتا تھا، غلام نے بہت احتجاج کیا کہ یا تو مجھے بھی میدے کی روٹی کھلاؤ ورنہ مجھے فروخت کر دو مالک نے اسے فروخت کر دیا۔ اب جو مالک ملا وہ خود تو چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھاتا غلام کو ان چھنے آئے کی روٹی کھلاتا، غلام نے یہاں بھی اصرار کیا کہ جو خود کھاتے ہو وہی مجھے بھی کھلاؤ ورنہ مجھے شیق دو۔ مالک نے کسی اور کو شیق دیا وہ خود تو چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھاتا غلام کو بھوی کی کھلاتا، غلام نے بہت شور کیا اور یہ حاکم تو بڑا ظالم ہے اس سے بھی یعنی کامطالہ شروع کر دیا، اس نے شیق دیا۔ اب جو مالک ملا وہ خود تو کھاتا بھوی کی روٹی اور اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتا تھا، اس کا سر موٹڈھ کر اس پر چراغ رکھ کر کتاب دیکھتا تھا اب وہ سر بھی نہیں ہلا سکتا کیونکہ چراغ گرجانے گا تو پٹائی ہوگی۔ غلام کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے! تجھے پہلے مالک پر صبر نہ آیا وہاں تو اپھی حالت میں تھا چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھاتا تھا، دوسرے کے پاس بھی تجھے اطمینان نہ ہوا تجھے ان چھنے آئے کی روٹی کھلاتا تھا تو وہاں بھی شور کرتا رہا پھر تیرے کے پاس بھی تو احتجاج کرتا رہا حالانکہ وہاں بھوی ہی کہی کچھ تو کھاتا تھا اور اب یہ حال ہے کہ مالک تیرا سر موٹڈ کر چراغ رکھتا ہے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتا تو بھوکا مر رہا ہے پھر یہ کہ مل بھی نہیں سکتا تو اب تو صبر سے کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ غلام نے جواب میں کہا کہ گذشتہ تجارت نے ثابت کر دیا کہ اگر میں نے آئندہ بھی خود کو یعنی کامطالہ کیا تو پھر مالک ایسے ملے گا جو میری آنکھ میں بقی ڈال کر جلانے گا اس لئے اب میں یہاں صبر سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو ہر آنے والا کوڑا پسلے کوڑے کی بُنْسَبَت زیادہ

برے گا یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے:

﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا إِيمَانًا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾(۱۶۷)

(پ ۸ - ۱۲۹)

یہ ہمارا دستور ہے جو ابتدائے آفرینش سے ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ

ہم ظالموں کو ظالموں سے مرواتے ہیں اس لئے کہ یہ نافرمان ہیں نافرمان۔ ظالم کے معنی صرف یہ نہیں کہ دوسروں پر ظلم کرے بلکہ سب سے بڑا ظالم تودہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرے اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم میں جائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے میں ظالموں کو ظالموں سے پتواتا رہوں گا خوب، بجا آئیک دوسرے کو خوب لگاؤ ہمارے عذاب کا کوڑا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ظالموں کو ظالموں کے ذریعہ عذاب دینے میں کئی حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو یہ ہے کہ ایک مارتے مارتے تھک گیا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو مسلط فرمادیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ”کل جدید لذیۃ“ ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے تو کوڑا بھی ذرا پرانا ہو گیا مارنے والا بھی پرانا ہو گیا اب مارنے والا بھی نیا ہوا اور کوڑا بھی نیا۔ تیسرا حکمت یہ کہ مارنے والا بھی تو نافرمانوں میں سے ہی ہے اسے بھی تو لگانا ہے اس لئے اس کی جگہ کسی اور کو مسلط فرمادیتے ہیں تاکہ کوئی نافرمان نہ کامی سے نہ نفع سکے۔ فرمایا:

﴿كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَذَلَنَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ﴾ (ب-۵۶)

اہل جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ سے ان کی کھالیں جل جانے کی وجہ سے عذاب کا احساس کم ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر نئی کھال دیں گے تاکہ عذاب میں کمی نہ آنے پائے، ایسے ہی نافرمان لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے پھر انہیں عذاب کے کوڑے لگتے لگتے جب عادت ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے نیا کوڑا لگاتے ہیں، بات سمجھ میں آئی، چودہ اگست کو یوم نجات منانے والو! حکومتیں تبدیل ہونے پر یوم نجات منانے والو! یوم نجات توجہ بننے کا جب آپ گناہ چھوڑ دیں گے ورنہ وہ تو عذاب ہی عذاب ہے مصیبت ہی مصیبت ہے، چند نوں میں پھر چلائیں گے کہ یا اللہ! اس سے نجات

دے، یا اللہ اس سے نجات دے، گناہ چھوڑے بغیر جو یوم نجات منائے جائیں گے وہ یوم نجات نہیں بلکہ سارے ماتم کے دن ہیں۔

اعمالکم عمالکم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں
بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل
میرے ہاتھ میں ہیں، میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں
میں ان کے بادشاہوں کے دل میں ان کی طرف رحمت اور شفقت سے
متوجہ کر دیتا ہوں اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان کی
طرف بادشاہوں کے دل غصہ اور انقام سے متوجہ کر دیتا ہوں سو وہ انہیں
سخت عذاب چکھاتے ہیں اس لئے خود کو بادشاہوں پر بد دعاء میں مشغول
نہ کرو بلکہ خود کو ذکر اللہ اور تضرع میں مشغول کرو تاکہ میں تمہارے
بادشاہوں کے مظالم سے محفوظ رکھوں۔“ (مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث ہے:

”بے شک تمہارے اعمال تم پر حاکم بنائے جاتے ہیں اور جیسے تم ہو گے^(۳۶۶)
ویسے ہی تم پر حاکم مسلط کئے جائیں گے۔“ (المناصد الحسنة)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی ہی تم
پر حکومت متعین فرمادیں گے یا اپنے اعمال کا ثرہ ہے، جسے کسی حاکم کے پارے میں
اعتراض ہو کہ یہ ایسا برا حاکم ہم پر مسلط ہو گیا تو اس حاکم کو برداشتہ کی بجائے آئینہ
پاس رکھا کرے جیسے ہی خیال آئے آئینہ دیکھا لیا کرے کہ ارے ارے ای تو بالکل میں
ہی ہوں۔ بس جو حاکم آئے جو آئیں گے، جو ہوا جو ہو گا وہ مسلمانوں کے اعمال ہیں

اعمال، اگر صاحب حکومت لانا چاہتے ہیں تو جب تک بد اعمالیاں نہیں چھوڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہی حکومت آئے گی۔

ایک شیر جنگل میں رہتا تھا، جنگل کے دوسرے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پریشان کرتا تھا کبھی کسی کو چیر دیا کبھی کسی کو کھا گیا۔ جانوروں نے اپنے دو تین نمائندے شیر کے پاس بھیجے انہوں نے شیر سے کہا کہ روزانہ ہم میں سے ایک ایک آپ کی خدمت میں خود ہی پہنچ جایا کرے گا آپ زحمت نہ فرمایا کریں۔ سیاست کے طور پر یہ متعین ہو گیا کہ کبھی کوئی آگیا کبھی کوئی آگیا، ایک خرگوش کو متعین کر دیا گیا کہ وہ روزانہ ایک جانور شیر کے پاس لایا کرے، وہ بے چارے جاتے رہے ایک ایک کر کے وقت آتا رہا ایک بار ایک خرگوش کی باری تھی اس نے ذمہ دار خرگوش سے کہا کہ اس کروڑ را دیر سے جاؤ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کوئی ترکیب لڑاتے ہیں کیونکہ اگر ایک ایک کر کے سارے جانور شیر کھاتا رہا تو سارا جنگل خالی ہو جائے گا اس تجویز کے مطابق خرگوش بہت دیر سے گیا۔ شیر بہت ہی زیادہ غصہ میں تھا کہ یہ بڑے بد عہد ہیں وہدہ کیا تھا کہ روزانہ میری خوراک بننے کے لئے کوئی نہ کوئی آیا کرے گا آج ابھی تک نہیں آیا دیکھئے آج آتا ہے تو میں پھر کیسے خبر لیتا ہوں، بہت غصے میں تھا، خرگوش پہنچا تو شیر غصے میں بپھرا ہوا تھا، خرگوش نے کہا حضور! پہلے میری ایک عرض سن لیجئے۔ شیر نے کہا بتاؤ کیا ہے۔ خرگوش کہنے لگا کہ جنگل میں ایک شیر بالکل آپ جیسا ہی ہے، ہم دو آرہے تھے تو ایک کو اس نے جھپٹ لیا میں جلدی سے بھاگ کر آپ کو اطلاع کرنے کے لئے آیا ہوں، حضور! اگر آپ کو جنگل پر حکومت چاہئے اور یہ کہ روزانہ کوئی نہ کوئی جانور آپ کا لقہ بنتا رہے تو پھر پہلے اس شیر کا کچھ انتظام کریں۔ شیر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا کہنے لگا اچھا جنگل میں میرا کوئی شریک بھی ہے؟ خرگوش نے کہا ہاں ہاں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے اسے کنوں پر لے جا کر کہا کہ وہ شیر اس کے اندر ہے جھاٹک کر دیکھیں، جب شیر کنوں میں جھانکنے کے لئے آگے بڑھا تو خرگوش

کہتا ہے حضور! مجھے ذرا اپنی بغل میں دبالیں۔ تاکہ وہ مجھے نہ دبوچ لے شیر نے اسے بغل میں دبایا آگے بڑھ کر کنوں میں جھانکا تو کنوں میں شیر نظر آیا جس کی بغل میں ایک خرگوش تھا۔ خرگوش بولا کہ دیکھو وہ ہے تیرا شریک اور اس کی بغل میں وہ خرگوش بھی ہے جو مجھ سے چھین کر لے گیا تھا۔ جب ہوں بڑھتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے شیر نے یہ نہ سوچا کہ یہ خرگوش کو اب تک بغل میں دبا کر بیٹھا ہے اسے کھایا کیوں نہیں۔ اس نے سمجھا کہ واقعہ کنوں میں شیر ہے اس نے خرگوش کو چھوڑا اور کو دیکھا کنوں میں شیر کو مارنے کے لئے۔ خرگوش نے جا کر سارے جنگل میں اعلان کر دیا کہ تمہارے باڈشاہ کا خاتمہ کر آیا ہوں مبارک ہو مبارک ہو۔

قصہ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ شیر بظاہر دوسرے پر حملہ کر رہا ہے لیکن درحقیقت خود اپنے اوپر حملہ کر رہا ہے اسی طرح حاکموں کو برا کہنا، حکومتوں کو برا کہنا، دوسروں پر طعن و تشیع کرنا برا کہنا یہ بظاہر حملہ کر رہے ہیں دوسروں پر باقیں کر رہے ہیں دوسروں کی لیکن دراصل یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (۱۱ - ۱۲)

جب تک لوگ اپنے اندر بد اعمالیاں پیدا نہیں کرتے اللہ بھی ایسی ہی سزا نہیں دیتا۔ قرآن پر ایمان ہے تو، ارے! وہ بات پھر ادھر کو جاری ہے اس لئے کہ اگر آج کے مسلمان کو قرآن پر ایمان نہیں بس قرآن سے تعلق اتنا رکھا ہوا ہے کہ خوانیاں کرواد، لذوکھاو، چائے پیو، دعا کر لججے یا اللہ! قرآن پر ایمان عطا فرماء، قرآن کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے، محبت قرآن، لذت قرآن، اطاعت قرآن، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرماء، نافرمانیوں سے بچا لے۔

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں حکومت کے بارے میں خیال آئے کہ یہ حکومت ظالم ہے، حقوق ادا نہیں کرتی، کسی بھی قسم کی کوئی خرابی ہوتا اے زائل کرنے کا

یہ طریقہ نہیں کہ شکایتیں کرتے رہو، ہنگامے کرتے رہو، جلوس نکالو، ہر تالیں کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں جب نافرمانیوں سے توبہ کریں گے تو اللہ کی حمتیں نازل ہوں گی، صالح اقتدار آئے گا ورنہ نہیں، نافرمانی چھوڑے بغیر راحت و سکون نہیں مل سکتا یہ اللہ کا اعلان ہے:

﴿ وَمَنْ أَغْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَشْرًا، يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَغْمَى ﴾ ۱۵۶ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ ۱۵۷ ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَكَ مَا يَنْتَنَا فَنَسِينَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ لَنْسَى ﴾ ۱۵۸ ﴿ وَكَذَلِكَ تَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِنَائِنِ رَبِّهِ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ﴾ ۱۵۹ ﴿ (ب۔ ۱۶ - ۱۲۷ تا ۱۲۴) ﴾

ترجمہ: ”اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اسے انداھا کر کے اٹھایا میں گے وہ کہے گا کہ اے میرے رب! آپ نے مجھے انداھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ ایسے ہی تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسے ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا اور اسی طرح اس شخص کو ہم سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آئیوں پر ایمان نہ لائے اور واقعہ آخرت کا عذاب ہے برا سخت اور بڑا دریپا۔“

پانچ کام:

حکومتوں اور حکام کو برائی کننے کی بجائے یہ پانچ کام کریں نمبر وار بتاتا ہوں انہیں خوب یاد کر لیں خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت سے توفیق عطا فرمائیں۔

① اپنی بداعماليوں کا اقرار کریں:

اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ یا اللہ! دنیا میں جتنے فتنے فسادات ہیں جو کچھ و بال اور عذاب آ رہے ہیں جو مصائب نازل ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہماری بداعماليوں اور ہمارے کرتوں پر و بال اور عذاب ہیں، اس کا اقرار کریں اور اقراری مجرم نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھے جو شخص خود کو پاک سمجھتا ہے اور دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھتا ہے وہ توبہ سے بذا مجرم ہے ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ دنیا میں آفات و مصائب انسانوں کی نافرمانیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہیں گناہوں کو چھوڑ کر اور نافرمانیوں سے توبہ کر کے اگر انہیں راضی کر لیا جائے تو وہ دنیوی راحت و سکون کے تمام اسباب کو موافق بنادیتے ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ الْإِنْسَانُ
لِيُذَقَّهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (۴۱-۴۲) (ب)

ترجمہ: ”خشنگی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلا ایں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مرا انہیں چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔“

اس آیت میں صریح فیصلہ مذکور ہے کہ بحر و بر یعنی سمندر اور خشنگی میں آنے والی تمام آفات انسانوں کی بداعماليوں کی پاداش ہیں پھر فرمایا کہ یہ پوری سزا انہیں بلکہ کچھ نمونہ ہے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی، دنیا دار جزا نہیں اس کے باوجود اس میں کچھ مرا چکھا دیتے ہیں۔ دنیا میں آفات و مصائب کے طوفان دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ یہ مصائب جب کہ پوری سزا انہیں تو بداعماليوں اور گناہوں کی طغیانی کس حد تک ہے

اور ان کی پوری سزا کا کیا عالم ہو گا؟ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

»وَمَا أَصْبَحَ كُلُّ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسِبَتْ أَيْدِيهِكُلُّ

وَيَغْفُلُونَ عَنْ كَثِيرٍ (۴۰) (ب۔ ۲۵)

ترجیح کرد: ”اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے کاموں سے اور بہت سے تو وہ درگزر کر دیتی ہے۔“

اس آیت میں بھی یہی ارشاد ہے کہ اکثر بداعمالیوں سے تو وہ دنیا میں درگزر ہی فرمادیتے ہیں، دنیا میں جو مصالح نظر آ رہے ہیں وہ بعض گناہوں کی پاداش ہیں اس کے باوجود دنیا میں اتنے مصالح، اتنی آفات، اتنی پریشانیاں اس سے اندازہ لگائیں کہ گناہ کتنے زیادہ ہیں۔

۲ استغفار کریں:

تمام باطنی اور ظاہری گناہوں سے استغفار کریں توبہ کریں، خاص طور پر جو گناہ معاشرے میں اس طرح داخل ہو گئے کہ انہیں گناہوں کی فہرست ہی سے نکال دیا گیا، ان گناہوں میں بتلا مسلمان اللہ کے باغی ہیں کیونکہ یہ کھلی نافرمانیاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کل امتی معافی الا المجاهرین“ (صحیح بخاری)

ترجیح کرد: ”میری پوری امت کو معاف کیا جاسکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی علائیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔“

اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوتیں یہ ہیں:

❶ ذاہی ایک مٹھی سے کم کرنا، کٹانا یا منڈانا، دل میں اللہ کے جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں؟

❷ شرعی پرده نہ کرنا۔ وہ قریبی رشتہ دار جن سے پرده فرض ہے یہ ہیں:

خطبات الرشید

- (۱) بچا زاد (۲) پھوپھی زاد (۳) ماموں زاد (۴) خالہ زاد (۵) دیور (۶) جینھے (۷) نندوئی (۸) بہنوئی (۹) پھوپھا (۱۰) خالو (۱۱) شوہر کا بھتija (۱۲) شوہر کا بھانجنا (۱۳) شوہر کا پچا (۱۴) شوہر کا ماموں (۱۵) شوہر کا پھوپھا (۱۶) شوہر کا خالو۔
- (۷) مردوں کا نخنے ذھانکنا۔
- (۸) بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا، کھنچانا، دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا۔
- (۹) گانا باجا سنا۔
- (۱۰) لی وی دیکھنا۔
- (۱۱) حرام کھانا جیسے بنک اور انشورس کی کمائی۔
- (۱۲) نیبت کرنا اور سنا۔

یہ تو ظاہری گناہ ہیں ان کے علاوہ باطنی گناہ جیسے کبر، عجب، حسد، ریاء، حب مال، حب جاہ وغیرہ ان سب گناہوں سے استغفار کریں۔

(۳) ہمت بلند کریں:

آئندہ کے لئے گناہ چھوڑنے اور گناہوں سے بچنے کے لئے ہمت بلند کریں پکا عزم کریں پکا ارادہ کریں کہ آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔

(۴) دعاء:

اس دعاء کا معمول بنائیں کہ یا اللہ تو ہمیں سب ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماء آئندہ کے لئے ہماری حفاظت فرماء۔ ہمت پہلے دعاء بعد میں اس لئے کہ ہمت کے بغیر دعاء قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعاء خاص طور پر جاری رکھیں کہ جو کچھ بھی ہو جیسے بھی ہواں کے اسباب کچھ بھی ہوئے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ایسا مقدر فرمائیں کہ تمام امت مسلمہ کے حق میں نافع اور مفید ہو۔

⑤ تبروں میں وقت ضائع نہ کریں:

حکومتیں بد لئے کے موقع پر لوگ خبریں سن سکتے رہتے ہیں ان حالات میں اچھے اچھے لوگ بھی وقت بہت ضائع کرتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں وقت ضائع کرنے کی بجائے دنیا کے طلب گاروں کے حالات سے اسماق حاصل کئے جائیں، ہمت پیدا کی جائے، ایک تو اس طریقے سے کہ وہ لوگ ہمت کر رہے ہیں جل رہے ہیں مر رہے ہیں جانیں دے رہے ہیں، اقتدار کی ہوس میں دنیا طلب کرنے میں یہ لوگ کتنی محنتیں کرتے ہیں رات دن رات دن کوشش محنت، آرام نہیں کرتے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں چلا چلا کر چلا چلا کر گلے بیٹھے گئے، پہلی بات تو یہ کہ یہ طریقہ ہی بتاتا ہے کہ یہ لوگ حکومت کے قابل نہیں حاکم بھی کبھی ایسے کام کرتا ہے جن لوگوں میں انسانیت ہی نہ ہو وہ حکومت کیا کریں گے، یہ الگ بات ہے کہ گدوں پر بڑے گدھے کی حکومت، کتوں پر بڑے کتے کی حکومت یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی ہوس کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ان کے بارے میں تبصرے کر کے اپنا نقصان کیوں کرو رہے ہیں جو ہونا ہو گا ہو جائے گا بلکہ اس موقع پر تور جو عالی اللہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہئے کہ یا اللہ! ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں پر رحم فرمایا اور اچھے حاکم مقدر فرمایا۔ یہ سوچیں کہ ان لوگوں کے بارے میں تبصرے کرنے میں آپ کا فائدہ ہے یا نقصان اگر آپ کا کوئی محبوب لیڈر برسر اقتدار آگیا تو بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا وہ جیسے دوسروں کو بجائے گا آپ کو بھی ساتھ ہی بجائے گا اور اگر آپ کا محبوب لیڈر ناکام ہو گیا تو پھر بھی آپ کا کوئی نقصان نہ ہو گا، نہ کسی کے آنے میں آپ کا نفع نہ کسی کے نہ آنے میں آپ کا نقصان، اگر نفع و نقصان ہے تو اس میں ہے کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی یا نہیں چھوڑی۔ وہ لوگ دنیا کی ہوں یہی رات دن محنتیں کر رہے ہیں اور آپ ان پر فضول تبصرے کر کے اپنی دنیا اور

آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔

دنیا غیر اختیاری آخرت اختیاری:

دوسری بات یہ ہے کہ جس کام کے لئے وہ ہمت کر رہے ہیں مجاہدے، مشقتیں، مختیں برداشت کر رہے ہیں وہ کام اختیاری نہیں اس کا حاصل کرنا ان کے اختیار میں نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محنت کرنا، جنت حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا، جہنم سے بچنے کے لئے محنت کرنا اس کے نتائج اللہ نے انسان کے اختیار میں دیے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا اللہ یقیناً یقیناً یقیناً دشکیری فرمائے گا اور اسے کامیاب کرے گا:

» وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِي سَبِيلِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شَيْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَ

الْمُخْسِينَ ﴿۶۹﴾ (ب ۲)

ترجمہ: ”اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور بالضرور دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔“

جو لوگ بھی ہیں راضی کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ”لنہدیَنَّهُمْ“ یقیناً یقیناً، نون ثقلیہ لام تاکید اور لام تاکید جواب قسم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں حل斐ہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان پر اپنے راستے کھول دوں گا ایک راستہ نہیں بلکہ راستے ”لنہدیَنَّهُمْ شَيْلَنَا“ اللہ کا وعدہ ہے کہ طلب دنیا میں مرنے مارنے والوں کی عمریں کھپ جائیں تو بھی ضروری نہیں کہ انہیں دنیا میں بھی جائے اور اللہ کی رضا کے لئے جو محنت کرتے ہیں انہیں یقیناً اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے:

» مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءَ لِمَنْ نُرِيدُ شَرَ

جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلُهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ﴿۱۵﴾ (ب ۱۵)


یہ ضروری نہیں کہ ہم دنیا کے طالب کو دنیادے بھی دیں اور وہ جتنی مانگے اتنی دیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ دیں ایسے ہی مرتاز ہے، ہم جسے چاہیں گے دیں گے جسے چاہیں گے نہیں دیں گے اور جسے دیں گے وہ اس کی چاہت اور خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی سے دیں گے۔

یا اللہ! تو ہم سب کو صحیح معنی میں دنیا اور آخرت کی آفات و مصائب سے نجات عطا فرمادے، یا اللہ! ہم تجوہ سے قاعدے کے مطابق نجات کی دعا کر رہے ہیں، قاعدہ کیا؟ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنادے، ہر قسم کے ظاہری و باطنی گناہوں سے پچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائی محبت عطا فرمادے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے لگے۔

وصل اللهم وبارك وسلام على عبدك ورسولك محمد وعلی الہ
وصحبہ اجمعین۔

والحمد لله رب العلمین۔

دِينُنَّ الْحَرَامِ



اور گروں میں اُن کے ذرا ذرا سے آؤ (الفرق، ١٠٩)

الْمُؤْمِنُ بِهِ هُوَ الْمُؤْمِنُ
الْمُؤْمِنُ بِهِ هُوَ الْمُؤْمِنُ

قی نوں اللہ کے ہاں ضعیف نہیں سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے (صحیح مسلم)

طريق اصلاح

دעת

فقيه العصر مفتى الحج وحضرت اور منفذی لاشیخ الحمد صالح بن ابي اللئالي

ناشر

كتاب كهرما

ذاiez آباد کراچی

و عظیم: ن

نام: ن

ب مقام: ن

ب تاریخ: ن

بعد نماز عصر: ن

تاریخ طبع مجلد: ن ذی قعده ۱۴۲۳

طبع: ن

حسان پرنگ پریس فون: ۰۲۱-۲۲۳۱۰۱۹

ناشر: ن

کتابخانه کتابخانه علم آزاد برج راه کاری ۷۵۱۰۰

فون: ۰۲۱-۲۲۰۲۳۶۱ فکس: ۰۲۱-۲۲۲۲۸۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وعن

طريق اصلاح

(۱۳ ربیع کا ۱۴۰۷ھ)

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُقُونَ ﴾ۚ الَّذِينَ مَأْمُوا وَكَانُوا يَسْقُونَ ﴾ۚ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ۚ﴾ (ب۔ ۱۶۶-۱۶۷)

دواصلاح طلب موضوع:

اصلاح باطن کے بارے میں دو موضوع بہت مت سے خیال میں آتے رہتے ہیں کہ ان کی اصلاح بہت ضروری ہے بالآخراب تین چار ہمینوں سے یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو بہت شدت سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دونوں کی کچھ تفصیل بتائی جائے۔

① مقامات کی طرف توجہ:

ایک تو ہے تشریع مقامات، سالک پر گزرنے والے حالات میں سے بعض کو تصوف کی اصطلاح میں ”مقامات“ کہا جاتا ہے، اس لئے ان مقامات کی تشریع کی

جاتی ہے کہ فلاں مقام کا کیا مطلب، فلاں کا کیا مطلب، پھر اس کی تحصیل کے طریقے کہ یہ مقام ایسے حاصل ہوتا ہے اور یہ ایسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی علامات بتائی جاتی ہیں کہ یہ علامت پائی جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کو یہ مقام حاصل ہو گیا۔

② ازالہ رذائل و تحصیل فضائل:

دوسرा موضوع ہے ازالہ رذائل و تحصیل فضائل۔ رذائل کیا کیا ہیں ان کے نام، ان کی تشریع اور ان کے ازالہ کی تدابیر فضائل کیا کیا ہیں، ان کے نام، ان کی تشریع اور ان کی تحصیل کے طریقے۔ یہ دو موضوع ہیں۔

مقامات کی طرف توجہ مضر ہے:

ان میں سے جو پہلا موضوع ہے یعنی مقامات کے نام پھر ان کی تشریع پھر ان کی تحصیل کے طریقے اور کامیاب ہو جانے کی علامات، یہ موضوع بہت خطرناک ہے بہت ہی خطرناک یہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ فلاں مقام پر ہیں یا فلاں مقام پر، سید ہے سید ہے مقصد کی طرف چلتے جائیں مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اصل مقصد ہے رضاۓ الہی ادھر کو چلتے جائیں درمیان میں کن کن مقامات پر آپ کا گزر ہوا اور اس وقت آپ کس مقام پر ہیں اور ان مقامات کی تشریع کیا ہے، یہ مباحثہ بہت سخت مضر ہیں۔ ایک چھوٹا سا ضرر بتاؤں، مثال کے طور پر آپ مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں راستے میں مختلف مقامات پر آپ کا گزر ہو گا، کہیں سمندر پر، کہیں پہاڑوں پر، کہیں خشکی پر، کہیں بزرے پر، کہیں بہت خوبصورت شہروں پر، مختلف جگہوں پر گزر ہو گا۔ آپ کو مکہ پہنچنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ ہوائی جہاز کے کل پر زدے درست ہوں اور پالٹ ماهر قابل اعتماد ہو، یہ دونوں شرطیں موجود ہوں تو جہاز میں بینچ کر آرام سے بے فکر ہو کر سو جائیے مکہ جہیچ جائیں گے۔ اور اگر یہ سوچنے لگے کہ اب جہاز کہاں

پہنچا، اب کہاں پہنچا، اب فلاں سمندر پر ہے، اب فلاں ریگستان پر ہے، اب فلاں پہاڑ پر ہے، اب فلاں فلاں باغ پر سے گزر رہا ہے، اب بہت اچھے شہروں پر گزر رہا ہے، یہ فلاں شہر ہے اور یہ فلاں۔ ایسا سوچنے سے اگر کسی کو یہ شوق ہو جائے کہ ذرا یہ شہر دیکھ لوں، یہ باغ دیکھ لوں، ہواںی جہاز سے تو خیر شوق ہی کرتے رہیں گے اتر تو سکتے نہیں اور اگر بذریعہ ذخیری جاری ہے ہوں راستہ میں کوئی محفلی خانہ آگیا اسے دیکھنا شروع کر دیا، کہیں کوئی شہر آگیا تو اس کا چڑیا گھر دیکھنا شروع کر دیا، مختلف تفریع گاہوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہیں سمندر آگیا تو اس میں نہانے کا شوق پیدا ہو گیا، کہیں کوئی باغ آگیا تو اس کے پھل وغیرہ کھانے کا شوق ہو گیا پھر تو آپ مکہ پہنچنے سے رہے، راستے میں ہی انہی چیزوں میں ساری عمر کھپا دیں گے، ہو سکتا ہے ایسا دل لگ جائے کہ بس نہیں رہ پڑو، جیسے گرداور چیلے کو ”انیا و پور“ میں رہنے کا شوق ہو گیا تھا۔

انیا و پور:

انیا و پور کے معنی ہیں بے انصافی سے بھرا ہوا، ”انیا و“ کے معنی انصاف، اس سے پہلے، ”ان“ نافیہ ہے جیسے ”انجوان“ میں ہے، انیا و پور کے معنی ”نا انصافی سے بھرا ہوا“ اس شہر کے راجہ نے ہر چیز ایک ہی بھاؤ کر رکھی تھی جس بھاؤ میں سونا اسی بھاؤ میں دال، وہاں سے گرو چیلے کا گزر ہوا چیلے نے جب دیکھا کہ کھی بہت سنتا ہے تو کہنے لگا کہ کچھ دن یہاں نہ ہریں کھی کھا کر ذرا طاقتور ہو جائیں، گرو نے سمجھایا کہ بیٹھا! جہاں کھری کھوئی ایک بھاؤ تلتی ہو وہ شہر رہنے کے قابل نہیں۔ چیلے نے کہا کہ حضور اتحوذے سے دن تو نہ ہر جائیں پھر چلے جائیں گے، گرو نے اجازت دے دی، نہ ہر گئے! اتنے میں وہاں ایک چوری ہو گئی، دو چور کسی مکان میں چوری کرنے گئے ایک نے نقب لگائی دوسرا پھرے داری کے لئے دور کھڑا رہا، نقب لگانے والے پر مکان کی دیوار گر گئی اور وہ مر گیا۔ دوسرے ساتھی نے راجہ کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہم دو

ساتھی چوری کرنے گئے تھے تو نقب لگانے والے پر مکان کی دیوار گرفتی جس سے میرا ساتھی مر گیا صاحب مکان نے ایسی کمزور دیوار کیوں بنائی۔ راجہ نے کہا کہ واقعہ اس کا قصور ہے بلاؤ اسے، مالک مکان کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا کہ تو نے دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی کہ نقب لگانے والا چور اس کے نیچے دب کر مر گیا؟ اس نے کہا کہ حضور! میرا کیا قصور وہ تو معمار نے ایسی کمزور بنادی۔ حکم ہوا کہ معمار کو بلاؤ اسے لایا گیا تو اس سے پوچھا تو نے دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی جس کے نتیجے میں چور مر گیا؟ اس نے کہا یہ گارا بنانے والے مزدور کا قصور ہے اس نے گارا پٹلا بنادیا۔ حکم ہوا کہ اس مزدور کو حاضر کرو۔ وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے گارا اتنا پٹلا کیوں بنادیا جس کے نتیجے میں دیوار کمزور بنی جو نقب لگانے والے چور پر گرفتی اور وہ مر گیا؟ اس نے کہا کہ یہ پانی ڈالنے والے ماشکی کا قصور ہے اس نے پانی زیادہ ڈال دیا تو گارا پٹلا ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اس ماشکی کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا تو اسے پوچھا کہ تو نے پانی اتنا زیادہ کیوں ڈال دیا کہ گارا پٹلا ہو گیا اور اس سے دیوار کمزور ہو کر گرفتی چور اس کے نیچے دب کر مر گیا؟ اس نے کہا یہ تو راجہ کے فیل بان کا قصور ہے جب پانی ڈالنے لگا ایک ہاتھی میری طرف پکا ڈر کے مارے میرے ہاتھ سے مشکیزے کا منہ چھوٹ گیا اور پانی زیادہ پڑ گیا حکم ہوا کہ فیل بان کو بلاؤ۔ اس سے پوچھا تو نے ہاتھیوں کی نگرانی صحیح کیوں نہ کی جس کے نتیجے میں چور مر گیا؟ اس نے کہا کہ حضور! ایک عورت قریب سے پازیب پہنے جا رہی تھی اس کی پازیب کی آواز سے ہاتھی بدک گیا اور میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ تو حکم ہوا کہ اس عورت کو بلاؤ اسے حاضر کیا گیا اس سے پوچھا گیا کہ ایسا زیور کیوں پہنا کہ ہاتھی بدک گیا اور یہ حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ سنار نے ایسا زیور بنادیا اس کا قصور ہے۔ حکم ہوا کہ سنار کو بلاؤ، اسے پیش کیا گیا، اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا زیور کیوں بنایا جس کی آواز سے ہاتھی بدک گیا مشکیزے کا منہ چھوٹ گیا گارا پٹلا ہو گیا دیوار کمزور بن گئی اور چور اس کے نیچے دب کر مر گیا؟ سنار کوئی جواب نہ دے سکا اس لئے اس پر

فرد جرم عائد کر دی گئی حکم ہوا کہ اسی کو پھانسی دو مگر دوسری چیزوں کی طرح "انیاد پور" کی پھانسی کا پھندا بھی ایک ہی معیار کا تھا جو نہ کشاہ ہو سکے نہ تھ۔ پھانسی کا پھندا سنار کی گردن سے زیادہ کشاہ تھا سنار کی گردن پتلی تھی، پھانسی دینے والے راجہ کے پاس پہنچ کر اب کیا کریں؟ راجہ نے کہا کہ دیکھ لو جسے بھی پھندا پورا آجائے اسے پھانسی دے دو، انہوں نے تلاش کیا اتنے میں چیلہ لگھی کھا کھا کر بہت موٹا ہو چکا تھا انہوں نے اسی کو پھانسی کے لئے پکڑ لیا چیلے نے گرو سے کہا: حضور! آپ کا فرمان صحیح تھا اب آپ ہی نجات کی کوئی صورت نکالیں۔ گرو نے کہا کہ میٹا! میں نے کہا نہیں تھا کہ جہاں کمری کھولی ایک بھاؤ تلتی ہو وہ شہر رہنے کے قابل نہیں بس اب تو پھنس گئے۔ چیلے نے کہا کہ حضور! غلطی ہو گئی آپ ہی سب کچھ ہیں اب آپ ہی نجات کی کوئی صورت نکالیں۔ گرو نے کہا ایک تدبیر لگاتے ہیں شاید اس سے کامیابی ہو جائے، پھانسی کے پاس جا کر دونوں میں سے ہر ایک یہ اصرار کرے کہ مجھے پھانسی دو، ان دونوں نے اس تدبیر پر عمل کیا دونوں نے جھگڑا شروع کر دیا ہر ایک آگے بڑھ بڑھ کر کچھ رہا ہے کہ مجھے پھانسی دو دوسرے کو دھکے دے دے کر ہٹا رہا ہے۔ ان لوگوں نے راجہ کو جا کر یہ سارا حال بتایا راجہ نے ان سے اس عجو بے کا سبب معلوم کیا تو گرو نے بتایا کہ یہ ایسی ساعت ہے کہ اس میں جو پھانسی چڑھ جاتا ہے وہ سیدھا بکٹھو (بہشت) میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ راجہ نے کہا کہ پھر بہتر یہ ہے کہ مجھے ہی پھانسی چڑھا دو۔ انہوں نے راجہ کو پھانسی چڑھا دیا:

خس کم جہاں پاک

مکہ پہنچنے کی بات ہو رہی تھی مکہ پہنچنا جو اصل مقصد تھا وہ یہی ذہن سے محظوظ ہو جائے۔ اس لئے ان مقامات کی طرف توجہ ہرگز نہیں کرنی چاہئے بس اصل مقصد کو سامنے رکھ کر کسی شیخ کامل کا دامن پکڑ کر چلتے رہیں شیخ کی ہدایت کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔

سے نفس نتوان کشت الا ظل پیر
وامن این نفس کش را وامکیر

یہ تو چھوٹی سی خرابی ہے بڑی خرابیاں جن کی وجہ سے اس طرف زیادہ توجہ ہوئی کہ اس جمالت، ضلالت اور گمراہی کی اصلاح فرض ہے وہ یہ کہ جو شخص مقامات کے بارے میں کتابیں دیکھنے لگتا ہے اس کی عقل پر پہلا تملہ تو ہوتا ہے علمی پندار کا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے مقامات کی تشریع ایسی معلوم کر لی کہ بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء کو بھی اس کا پتا نہیں، مجھے پتا چل گیا کہ فلاں مقام فلاں مقام فلاں مقام، بس وہی حالت: انف فی الماء و است فی السمااء ”ناک پالی میں اور چورڑ آسمان میں“، علمی پندار اور عجائب پیدا ہو جاتا ہے خود کو کوئی بہت بڑا نکتہ رس امام طریقت سمجھنے لگتا ہے، یہ تو ہوا علمی وبال پھر وہ اس سے آگے بڑھ کر اس تحقیق میں لگ جاتا ہے کہ یہ مقامات کیسے حاصل کئے جاتے ہیں، پھر ان مقامات پر پہنچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا یا نہیں پہنچا تو کچھ تو سویں نفس اور کچھ اوہاں کے غلبے کی وجہ سے سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں اب مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا، ہوتا کچھ بھی نہیں ایسے ہی اپنے خیال میں شیخ چلی کی طرح تجھتار ہوتا ہے کہ اب یہ مقام حاصل ہو گیا، اب یہ حاصل ہو گیا پھر ایک دو مہینے کے اندر کہتا ہے کہ جتنے بھی مقامات تھے سارے ہی حاصل ہو گئے پھر دعوے بھی کرنے لگتا ہے کہ میں نے تو ایک دو مہینے کے اندر اندر اتنے بڑے مقامات حاصل کرنے کے لوگ تو کہنی کہنی سالوں میں ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچ پاتے، عجیب عجیب احادیثی باتیں کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ بکواس کرتا ہے کبھی کچھ۔ یہ علمی قباحت علمی قباحت سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس سے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ مردان سے ایک شخص نے خط لکھا کہ وہ جب بیت الخلاء میں جا کر بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے میں

نے کہا کہ وہ پاگل تو پہلے ہی ہو گیا تھا جبھی تو ایسی ایسی باتیں کرتا تھا۔ یہ اصحاب مقامات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب میں فلاں مقام پر ہوں، اب فلاں مقام پر ہوں، اب فلاں مقام پر ہوں پھر اسی طرح سوچتے سوچتے بالآخر پاگل ہو جاتے ہیں۔

ایسے لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ اس سے ہوئی کہ ایک کتاب ہے ”شریعت اور طریقت“ جو حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختلف مضامین کو جمع کر کے لکھی گئی ہے، اس کے سرورق پر لکھا ہوا ہے: ”از افادات حکیم الامۃ“ اس لئے عوام اسے حضرت حکیم الامۃ کی تصنیف سمجھتے ہیں اس کتاب میں مقامات کی تشريع پڑھ کر کئی لوگ اپنی نادانی سے مقامات کے چکروں میں ایسے پڑے کہ پاگل ہو گئے، اس بارے میں تین قصہ سن لیں۔

مقامات کے چکروں میں پاگل ہونے والے:

پاگل نمبر ایک:

تقریباً چونتیس پیشیں سال پہلے کی بات ہے ایک شخص کا یہاں اصلاحی تعلق تھا انہوں نے بتایا کہ وہ کتاب ”شریعت اور طریقت“ دیکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس کی تصنیف ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے مجھے دو غلط فہمیاں ہوئیں، ایک یہ کہ حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ طریقت کو شریعت سے الگ سمجھنا الحاد ہے، محدث جاہل صوفیہ نے یہ گھڑا ہوا ہے کہ علماء شریعت والے ہیں اور یہ جاہل صوفی طریقت والے ہیں اور طریقت والے شریعت والوں سے افضل ہوتے ہیں، شریعت والے تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ سب الحاد ہے، حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ میں نے بھی احسن الفتاویٰ کی پہلی جلد میں کتاب السلوک میں شریعت، طریقت، حقیقت اور

معرفت ان چاروں اصطلاحات کی وضاحت کی ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ شریعت و طریقت الگ الگ نہیں ایک ہی چیز ہے، کتاب کے نام سے مجھے غلط فہم ہوئی کہ اس میں یہی موضوع ہوگا ملحدین کے رد پر ہوگی، پھر جب بتایا کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے تو اور بھی زیادہ اس پر اطمینان ہو گیا کہ اس میں یہی مضمون ہوگا کہ شریعت و طریقت ایک ہی چیز ہے۔ اس خیال سے میں نے انہیں کتاب پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص کتاب میں مقامات کی تشریع پڑھ پڑھ کر انہیں حاصل کرنے کے چکر میں مکمل پاگل ہو گیا تو اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا، ایک دن وہ پاگل خانے کے کمرے کی کھڑی سے باہر کو دا جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا اور موت واقع ہو گئی اس طرح وہ شہید مقامات ہو گیا۔ پہلے تو اس کے بارے میں مجھے خیال تھا کہ شاید کوئی اور بیماری ہو گئی ہوگی مگر اب پے پے جوتا زہ واقعات ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی اور بیماری نہیں ہوئی تھی بلکہ یہی بیماری ہوئی تھی کہ صاحب مقامات بن رہا تھا اس لئے پاگل ہو گیا، دماغ میں خیالات کا ایک ہجوم کہ اب یہ مقام حاصل ہو گیا، اب یہ حاصل ہو گیا یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا۔

پاگل نمبر دو:

تقریباً دو تین مہینے پہلے ایک شخص پاگل ہو گیا اس کے جنون کی باتیں کچھ تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ اس نے بھی پہلے پوچھا کہ میں کتاب "شریعت اور طریقت" دیکھنا چاہتا ہوں اجازت ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ کچھ حرج نہیں، اجازت ہے۔ اس بناء پر کہ یہ کتاب حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو یقیناً ملحدین کے رد پر ہوگی۔ وہ شخص کتاب میں مقامات کی تشریع پڑھ کر دوستوں کو بتاتا تھا کہ مجھے اتنے مقامات ایک مہینے کے اندر حاصل ہو گئے کہ میری اتنی عمر میں حاصل نہیں ہوئے تھے

اور اس کے ساتھ ساتھ میرا نام لے کر یہ بھی کہتا تھا کہ انہوں نے ایک جست میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، حضرت شیخ کی توجہ ایسی ہوئی کہ ایک جست میں افلاک پر پہنچا دیا، پھر یہ دعوے کرنے شروع کر دیئے کہ میں ہر بات شیخ سے پوچھ کر کرتا ہوں، اتنے اعلیٰ مقامات حاصل کر لئے ہیں کہ دور بیٹھے بیٹھے شیخ سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں عمرے کے لئے گیا تو کہا کہ میں اتنی دور سے بھی شیخ سے پوچھ پوچھ کر کام کرتا ہوں۔ کسی نے کہا ذرا فلاں بات پوچھ کر بتائیں تو کہنے لگا اچھا بھی پوچھتا ہوں پھر کہنے لگے کہ اس وقت شیخ آرام فرمارہے ہیں بعد میں پوچھیں گے۔ دیکھئے کیسی ہوشیاری دکھائی، اور بھی بہت سی پاگل پن کی باتیں کرنے لگے، کبھی بلب کو دیکھنا شروع کر دیا تو آنکھ جھپکے بغیر گھننا گھننا بھردیکھتے رہتے ہیں اور بھی نجانے کیسی کسی پاگلوں والی حرکتیں ہیں۔ جب مجھے اپنے مقامات بتاتے تھے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا تو میں کہتا تھا کہ میری ہدایات پر عمل کرو اور کسی طبیب سے رجوع کرو اپنے دماغ کا علاج کرو اور تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، مگر اس نے میری بات نہ مانی نہ میری بتائی ہوئی تداہیر پر عمل کیا نہ ہی کسی طبیب کی طرف رجوع کیا، بالآخر جب جنون کے بہت زبردست دورے پڑنے لگے تو اس کے گھروالے زبردستی ہسپتال میں لے گئے، مجھے اس وقت تک کتاب ”شریعت اور طریقت“ کی حقیقت کا علم نہ تھا ورنہ میں ایسے مبتدی کو ہرگز اجازت نہ دیتا بعد میں علم ہوا تو اسے پڑھنے سے روک دیا، اب اس کی حالت کچھ بہتر ہے۔

پاگل نمبر تین:

ایک شخص نے اپنے حالات میں بتایا کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ کتاب ”شریعت اور طریقت“ پڑھوں یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بہت مشکل ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پڑھ کر دیکھیں اگر سمجھ میں آئے تو پھر مجھے بتائیں تو میں نے

انہیں بتایا کہ میرتی سمجھ تو آرہی ہے تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں۔

اس شخص نے کتاب کچھ کچھ دیکھنی شروع کی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اب فون پر مجھ سے کبھی کہتے ہیں کہ مجھے وصول ہو گیا کبھی کہتے ہیں وصول ہو گیا کبھی کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر پہنچ گیا، ایک بار کہنے لگے ”مقام سکینہ“ حاصل ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ تصوف کی کوئی کتاب دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ”شریعت اور طریقت“ پڑھ رہا ہوں۔ میرے زعم میں اب تک وہی بات تھی کہ یہ کتاب محدثین کے رد میں ہو گی۔ مگر جب مسلسل اس قسم کے کئی واقعات سامنے آئے تو میں نے کتاب منگوا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس میں تصوف کی اصطلاحات ہیں، مقامات کی تشرع، ان کی تحصیل کی تدابیر اور اشغال و مراقبات وغیرہ کا بیان ہے۔ لوگ شیخ کی اجازت کے بغیر مقامات کے چکروں میں پڑ کر پاگل ہو رہے ہیں، اس پاگل نمبر تین کے جنون کی ابتداء ہی میں مجھے پتا چل گیا تو میں نے اسے تنبیہ کی یہ کتاب پڑھنے سے روک دیا تو وہ بحمد اللہ تکمل جنون سے نجی گیا بھی دماغ پورے طور پر شیخ نہیں مگر نسبتہ کافی بہتر ہے۔

طالبان مقامات کے قصہ:

طالبان مقامات کے کچھ قصے بھی سن لیجئے:

① پاگل خانے کی کھڑکی سے کودا تو سر پھٹ جانے سے مر گیا۔

② شیخ سے مکالہ قلبیہ۔

③ مقام ”سکینہ“ پر پہنچ گیا۔ یہ تینوں قصے ان پاگلوں کے ہیں جو مقامات کی تشرع پڑھ کر پاگل ہوئے، ان کی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔

④ دن میں تارے نظر آنے لگے:

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں سے ایک مرید طالب

مقامات تھے انہوں نے اپنے حالات میں لکھا کہ وہ اندر ہرے کمرے میں ذکر کرتے ہیں کمرے کے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان سب بند ہوتے ہیں اس وقت انہیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے ذکر بالکل چھوڑ دو اور کسی طبیب سے معاشرہ کرو اور دماغ کا علاج کرو۔ یہ جو طالبان مقامات کتاب ”شریعت اور طریقت“ پڑھ پڑھ کر پاگل ہو رہے ہیں وہ بھی انہیں کا بھائی تھا غیمت ہے شیخ کو بتا دیا ورنہ وہ بھی پاگل ہو جاتا۔

⑤ درندوں کی انتہیاں نظر آنے لگیں:

ایک صوفی صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ جنگل میں جا کر ذکر کرتے تھے اس وقت جنگل کے درندے جب ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو ان درندوں کے پیٹ کے اندر کی چیزیں انتہیاں وغیرہ انہیں صاف نظر آتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھر میں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اچھا ہو انج گئے ورنہ آپ کو بھی کسی پاگل خانے میں بھیجننا پڑتا اور اگر پاگل خانے میں نہ بھیجتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی بہت بڑا قطب بن گیا ہے بلکہ غوث بن گیا، ایسے دنیا گمراہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بچالیا اور آپ کے شر سے لوگوں کو بھی بچالیا۔

⑥ ولایت کے ابواب:

ایک شخص نے مجھے خط لکھا کہ میں اپنے شیخ سے ولایت کبریٰ کا ستر ہواں باب پڑھ رہا تھا میرے شیخ کا انتقال ہو گیا میں نے باقی ابواب پڑھنے کے لئے نظر دوڑائی کہ کس شیخ سے یہ سارے باب پورے کروں تو پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی مجھے آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آیا اس لئے آپ مجھے یہ باب پورے کروادیں۔ میں نے انہیں جواب لکھوایا کہ آپ یہاں آئیں پھر دیکھیں آپ کو کیسے ستر ہواں باب

پڑھاتے ہیں، وہ آگئے تو انہیں سمجھایا کہ یہ ابواب، ولایت صغیری اور ولایت کبریٰ وغیرہ کچھ نہیں ہیں سید ہے سلمان بنیں سید ہے سید ہے مسلمان، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑیں، دل کے اندر جو روگ ہیں ان سے دل کو صاف کریں، دنیا کی محبت دل سے نکالیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل کو منور کریں، ظاہری باطنی معاصی سے نجات مل جائے بس تصوف اور سلوک کا حاصل یہی ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے ولایت کبریٰ کا مطلب کیا سمجھ رکھا ہوگا اور باب میں کیا پڑھتے ہوں گے پھر اس باب کے بارے میں سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنے فیصد ”ولی اکبر“ بن گئے مکمل پاگل ہو جاتے تو سمجھتے کہ ولایت کبریٰ حاصل ہو گئی، غنیمت ہے اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں صحیح دیا تو دماغ صحیح ہو گیا۔

⑦ مقام احادیث کا مرافقہ:

وزیرستان میران شاہ سے ایک مولانا صاحب نے لکھا ”میں اپنے شیخ سے مقام احادیث کے مرافقے کی مشق کر رہا تھا کامیابی سے پہلے ہی شیخ کا انتقال ہو گیا دوسرے شیخ سے تعلق قائم کیا اور ان کی ہدایت کے مطابق مقام احادیث کا مرافقہ کرتا رہا پھر بھی یہ مقام حاصل نہ ہوا اور ان شیخ صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اب مجھے آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا آپ تکمیل کروادیں۔“

میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسے مراقبات کے خیالات چھوڑیں، سید ہے سید ہے مسلمان بنیں دوسروں کو مسلمان بنائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنے چھڑوانے کا کام کریں۔ معلوم نہیں ان مشائخ نے کیا کیا مراقبات بتائے ہوں گے پھر مقام احادیث حاصل کرنے کے لئے معلوم نہیں وہ کتنی مختیں کرتے رہے ہوں گے، پھر اس میں کامیابی کا کیا مطلب سمجھتے ہوں گے واللہ اعلم ان کے پاس کامیابی کا کیا معیار ہے، یہ کیسے پتا چلے کہ کامیاب ہوئے یا نہیں؟

اس پر ایک قصہ بھی یاد آگیا حیدر آباد میں ایک شخص کو وہم ہو گیا کہ وہ گدھا بن جائے گا میں اس زمانے میں حیدر آباد کے قریب ایک قصبے میں پڑھاتا تھا وہ بار بار میرے پاس آ کر پوچھتا کہ میں گدھا تو نہیں بن جاؤں گا، میں اسے سمجھاتا کہ نہیں نہیں گدھے نہیں بنو گے بہت سمجھاتا بہت سمجھاتا کہ ارنے نہیں بننے کا انکر اسے کسی صورت بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی دور دور سے چل کر میرے پاس بھی پوچھنے آتا تھا تھا کہ ایک بار میں اپنے گھر خیر پور گیا تو وہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے وہاں بھی پہنچ گیا۔ مجلس میں میرے بڑے بھائی بھی تشریف رکھتے تھے میں نے انہیں اس کی پریشانی کی وجہ بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ممکن ہے اس کا علاج تو بہت آسان ہے، جب بھی ایسی پریشانی کا دباؤ پڑے تو اپنے چیخپے ہاتھ کا کردیکھ لیا کریں اگر دم پیدا ہو رہی ہو تو گدھا بن رہا ہے ورنہ نہیں۔ گمراں کے لئے یہ نہیں بھی کارگر ثابت نہ ہوا اس لئے پھر پریشان ہو کر بار بار میرے پاس آتا رہا مجھے بہت تنگ کرتا تھا، بالآخر ایک بار میں نے تنگ آ کر اس سے کہہ دیا کہ ہاں آپ گدھے بن جائیں گے، یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا بہت بے تاب ہو کر تڑپنے لگا اور بہت منت سماجت کر کے بار بار مجھ سے وہی سوال دہرانے لگا کہ میں گدھا تو نہیں بن جاؤں گا۔ میں نے بھی طے کر لیا کہ اب اسے یہی جواب دوں گا کہ آپ گدھے بن جائیں گے۔ وہ بہت پریشان ہوا کبھی میری ڈاڑھی کو ہاتھ لگاتا کبھی پاؤں پکڑتا اور بہت منت سماجت سے گزگڑا کر کہتا ہے کہ اللہ کے لئے بتائیں میں گدھا تو نہیں بن جاؤں گا اور کبھی دھمکی بھی دیتا کہ قیامت کے دن گریبان پکڑوں گا۔ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا اس لئے میں نے کہہ دیا کہ آپ گدھے نہیں بنیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً گشت بھاگا پھر اس کے بعد کبھی میرے پاس نہیں آیا اس خوف سے کہ اگر پھر میں نے کہہ دیا کہ آپ گدھے بن جائیں گے تو واقعہ بن ہی جاؤں گا۔ یہ سختا ایسا کارگر ثابت ہوا کہ ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ

گئی۔

یہ قصہ اس لئے بتایا کہ یہ جو اصحاب مقامات ہیں نا ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ صاحب مقام کی کہیں دم نکل رہی ہو تو انہیں بتا دیں کہ آپ کو مقام احادیث حاصل ہو گیا یا آپ قطب بن گئے اس لئے کہ آپ کی دود میں نکل آئیں اور اگر تین دمیں نکل آگئیں تو آپ غوث بن گئے۔ ایسی کوئی بات ہوتی ان کے دم و م ظاہر ہونے کا کوئی قصہ ہوتا کوئی علامت ظاہر ہو جاتی تو پھر کوئی مشکل نہ ہوتی۔ دراصل اوہام باطلہ اور کچھ بخارات وغیرہ ان کے دماغ کو چڑھتے ہیں "شریعت اور طریقت" جیسی کتابیں پڑھ پڑھ کر پھر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب میں فلاں مقام پر پہنچ گیا ہوں، اب فلاں مقام پر پہنچ گیا ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں ترقی کر رہے ہیں حماریت کی طرف اور کچھ رہے ہیں کہ ولایت کے مقام طے ہو رہے ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھتے رہتے ہیں کہ اب احادیث پر پہنچ گیا، قطبیت پر پہنچ گیا، غوثیت پر پہنچ گیا۔

⑧ مریدوں کو غوث اور مہدی بنادیا:

ایک پیر صاحب اپنے خلفاء کے بارے میں کہتے رہتے تھے کہ یہ خلیفہ صاحب قطب بن گئے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ غوث بن گئے، ایک خلیفے کو غوث بنادیا اس نے بغاوت کر دی پیر کے بہت سخت خلاف ہو گیا پیر کو بہت بدنام کیا سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے عجیب عجیب قصے بتائے کہ پیر صاحب کے ہاں کسی پر وجود چڑھتا تھا تو پیر صاحب پانی پر دم کر کے دیتے تھے وہ پانی پیتے ہی وجدی ہوش میں آ جاتا تھا۔ جب یہ غوث صاحب اپنے پیر کے مخالف ہوئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قصہ شروع کیا کہ کثر کے پانی سے بوٹی بھر کر، پیر صاحب سے دم کروالیتے اور جب کسی پر وجود چڑھتا سے پلا دیتے، گناہ پانی کثر کا، یہ ہیں طالبان مقامات اور اصحاب وجہ۔ ایک خلیفہ کو قطب یا غوث بنادیا تھا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جب

کہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا ب مہدی نہیں ہوں۔ ویسے وہ پورا پورا رجوع نہیں کرتا یعنی مہدی تو ہے مگر دعویٰ نہیں کرتا اس لئے کہ علماء تسلیم نہیں کرتے۔

⑨ مقام مریم:

ایک لڑکی کہتی ہے کہ اسے خواب میں بشارت ملی ہے کہ اس کے پیٹ سے امام مہدی پیدا ہونے والے ہیں۔ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں معلوم کہ شادی ہوگی بھی یا نہیں، اسے پہلے سے بشارات مل رہی ہیں کہ تیرے پیٹ سے امام مہدی پیدا ہوں گے اگر اس طالبہ مقامات کو ویسے ہی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام پر پہنچ جانے کا دعویٰ کرے گی، جیسے انہیں بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو گیا تھا ایسے ہی اسے بھی بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو گا۔ یہ حالات بتاتے ہیں طالبان مقامات کے، ان کے دماغ پر جنوں کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر اسی میں پہنچنے رہتے ہیں۔

⑩ مقامات کافور ہو گئے:

ایک پیر صاحب جو کہ طالبان مقامات میں سے تھے اپنے مریدوں میں خوب مقامات تقسیم کرتے تھے۔ میں ایک بار کسی کام سے ایک موضع میں گیا اتفاق سے وہ پیر صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، میں نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد انہوں نے حسب معمول اپنے مریدوں کو حلقة میں بٹھا کر سیدھی جانب سے شروع کیا، فرداً فرداً ایک کو بلا کراس کے قلب کی ایک طرف نیزے کی طرح انگلی کا بہت زوردار اشارہ کر کے اسم ذات کی بھرپور زبردست ضریب لگائیں مگر کوئی مرید بھی اس سے مس نہ ہوا، وہ یہ عمل دریتک بار بار دہراتے رہے، ضربوں پر ضریب مگر سب بے سود، جب دیکھا کہ کسی پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تو کہنے لگے کہ یہ جماعت تو بہت اچھی چلی ہوئی

تحتی معلوم نہیں آج انہیں کیا ہو گیا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ اپنے اس کرتب میں بھامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں ڈالی تھی بس یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرا وہاں بیٹھنا ہی کافی ہو گیا، مجھے دیکھ کر ان کے مقامات کا فور ہو جاتے ہیں، ان اصحاب مقامات کا تو کیا کہنا مجھ سے تو بڑے بڑے جنات بھی ڈرتے ہیں ذر کے مارے بھاگ جاتے ہیں (جنات کے بھاگنے کے قصے وعظ "آسیب کا علاج" اور "الوار الرشید" میں دیکھیں۔ جامع) وہ پیر صاحب مریدوں کو ایسے ایسے تو مقامات تقسیم کر رہے تھے مگر حال یہ ہے کہ ان مریدوں کے گھروں میں شرعی نہ غیر شرعی دور دور تک پردے کا نام و نشان تک نہیں، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں اور ایک دوسرے پر علانية کھلے کھلے مظالم کی کوئی انتہاء نہیں۔

۱۱ مدعا ولایت:

ایک بار میں یہاں خلۃ العلماء میں بینجا ہوا تھا ایک شخص آیا اسے حارسین نے باہر روک لیا تو اس نے پرچہ بینجا جس میں لکھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں مجھے حضرت غوث اعظم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقب ملا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا تحفہ لائے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام میری پیشانی پر اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھ گئے ہیں، آپ اللہ کے ولیوں کو پہچان لیتے ہیں، میں تھائی میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہاں علماء کرام سے پوچھا کہ اسے کیا جواب دیا جائے؟ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ اسے مواعظ پڑھنے کا کہا جائے شاید تمیک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ جو خود کو نبی سمجھتا ہو وہ ہمارے مواعظ کہاں پڑھے گا، اس سے کہہ دیں کہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دماغ درست کر دیں۔

(۱۲) مقام حماریت:

ایک مولیٰ صاحب نے مجھے لکھا کہ میں مقامات سلوک طے کرنا چاہتا ہوں اس کے نصاب کی تجھیل میں کتنی مدت گئی گی؟ جہالت اور حماقت کا کرشمہ دیکھنے۔ علوم اسلامیہ کی طرح اصلاح باطن کا بھی کوئی خاصی نصاب اور اس کے مختلف ابواب بنا رکھے ہیں جن کی تجھیل کے لئے کوئی مدت مسمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکی گمراہی سے امت کی حماقت فرمائیں۔

ازالہ رذائل و تحصیل فضائل:

دوسرا موضوع ہے ازالہ رذائل و تحصیل فضائل، اس کا بہتی زیور میں بھی کچھ بیان ہے اور بعض دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں بھی وہی دو و بال پڑتے ہیں علمی بھی اور عملی بھی۔ علمی و بال تو یہ پڑتا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ ذرا ساد کیخنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ امراض باطن کا طبیب حاذق بن گیا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک بالکل جاہل صوفی ایک بہت بڑے عالم کا امتحان لے رہا تھا کہ کبرا اور عجب میں کیا فرق ہے اور ان کے مقابل میں جو فضائل ہیں ان کے کیا نام ہیں، جاہل مجلس میں پوچھ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم سے پوچھنے سے مطلب استفادہ نہیں محس اپنی بڑائی جتنے کے لئے کہ ہم اتنے بڑے امام طریقت ہیں۔ ایک تو یہ علمی و بال پڑتا ہے کہ دو چار باتیں سیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے امام طریقت بن گئے۔

عملی و بال یہ پڑتا ہے کہ خود ہی اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں، کچھ معلوم نہیں نہ اپنی تشخیص صحیح ہوتی ہے نہ تجویز صحیح ہوتی ہے سمجھتے یہ ہیں کہ بہت بڑے ولی اللہ بن گئے حالانکہ عجب اور سکبر اور پندار برہعتا جاتا ہے، جا رہے ہیں جہنم کی طرف سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے ولی اللہ بن رہے ہیں۔

امراض کے بارے میں کتب کی نوعیت:

اب سینے امراض باطنہ اور ظاہرہ پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں دونوں کی نوعیت ایک ہی ہے۔ امراض ظاہرہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ معالجین کے لئے ہوتی ہیں کہ وہ ان سے کچھ مدد حاصل کریں کہ یہ مرض ہے یہ نسخہ ہے یادوں سے درجے میں ان معالجین کے لئے جنہیں کسی معانلح کی سہولت میسر نہ ہو وہ وقت پر جلدی سے کچھ کام چلانے کے لئے کتاب دیکھ لیں۔ بہشتی زیور میں جو نسخہ ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ معانلح ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری ایسے ہوتی ہے اس کا یہ نسخہ ہوتا ہے اور وہ معانلح جسے کوئی معانلح میسر نہیں وہ ذرا عارضی طور پر اس سے کچھ سکون حاصل کر لے، جس معانلح کو معانلح کی سہولت میسر ہو وہ کتاب سے نسخہ دیکھ کر علاج نہیں کرے گا وہ تو کسی معانلح کے پاس پہنچے گا اس سے علاج کروائے گا۔ کوئی بالکل ناواقف کتابوں کے نسخہ دیکھ دیکھ کر خود ہی علاج کرنا شروع کر دے اس کی بھی چند مثالیں سن لیں:

❶ حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طب کی کتابیں پڑھی تھیں مگر کسی طبیب حاذق کے پاس رہ کر تجرب نہیں کئے تھے اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنے کسی مرض کے بارے میں بہت پرانی متقدیں کی کسی طبی کتاب میں سے دیکھنا شروع کر دیا دواء کی تجویز میں جب دواوں کی علامات دیکھتا ہوں ان کے مزاج دیکھتا ہے تو ایک دواء کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ میرے مرض کی یہ دواء ہے، دوسری دیکھی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے، تیسرا دیکھی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے، فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ دھندا ہی بے کار ہے کسی طبیب سے علاج کروانا چاہئے خود علاج کرنے کا قصہ چھوڑ دیا۔

❷ ایک بار ایک مولوی صاحب کو بخار ہو گیا انہوں نے کسی طبی کتاب سے نسخہ لکھا،

اور ایک اچھے ماہر طبیب کو دکھانے لے گئے، ان کا باہم دوستانہ تھا اس لئے حکیم صاحب نے نسخہ پڑھ کر انہیں نرمی سے سمجھایا اور نہ کوئی دوسرا ہوتا تو نسخہ پھاڑ کر پھینک دیتا کہتا چلو بھاگو یہاں سے آئے ہو حکیم کے پاس اور نسخہ لکھ لائے مگر انہوں نے دوستانہ تعلق کی وجہ سے وہ نسخہ دیکھا اور دیکھتے ہی فور بلا توقف بولے یہ آپ نے کسی کتاب سے نقل کیا ہے۔ دیکھئے عجیب بات ہے نایا خیال نہیں آیا کہ یہ کسی طبیب سے پوچھا ہو گا یا خود ہی تھوڑا بہت فن طب جانتے ہوں گے، انہوں نے پڑھتے ہی کہا کہ یہ آپ نے کسی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کتابوں سے دیکھ دیکھ کر خود علاج کرنا اور اس کی عادت ڈال لینا خطرناک ہے کسی طبیب سے ہی علاج کروانا چاہئے۔

پھر سمجھ لیں کتابوں کے نسخے معالجین کے لئے ہیں یا ان معالجین کے لئے ہیں جنہیں کسی معالج کی سہولت میسر نہیں۔ جن معالجین کو معالج کی سہولت میسر ہے ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کتابوں سے اپنا علاج کریں۔ امراض باطنہ کے بارے میں بہشتی زیور میں یا بعض دوسری کتابوں میں اگر کچھ لکھ دیا ہے تو اس کی کیفیت بھی بھی ہے وہ معالجین کے لئے ہیں جن حضرات کو اکابر نے اصلاح باطن کی اجازت دے دی کہ امراض باطنہ کی تشخیص کر کے ان کی اصلاح کریں وہ دیکھا کریں، پھر ایسا نہیں کہ اسی پر عمل کریں بلکہ کچھ اپنی بصیرت، فرات، تجارت اور کچھ کتابوں میں دیئے گئے طریقوں سے بھی استنباط کر کے کچھ حاصل نکالیں، اسی طریقے سے وہ معالجین جنہیں کوئی مصلح باطن میسر نہیں تو چلنے بوقت ضرورت کتاب دیکھ کر معلوم کر لیا کریں کہ عجب کیا ہوتا ہے، کبر کیا ہوتا ہے اور ان کا علاج کیا ہے، تھوڑا بہت کام چلا لیں۔ جس مریض باطن کے لئے کسی طبیب باطن سے استفادہ آسان ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ ان امراض باطنہ کی خود تشخیص کرتا پھرے کہ کیا کیا ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں پھر ان کا علاج کیسے ہوتا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ ان چیزوں کی

طرف توجہ کرے وہ تو معانیج کو اپنے حالات بتائے پھر جو نہیں وہ دے ان پر عمل کرے اور اس طریقے سے بڑھتا چلا جائے۔ سید ہے سید ہے مسلمان بن کر سید ہے سید ہے چلتے جائیں ادھر ادھر شیاطین کی ہاں ہوتی ہیں:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْتَهِيُوا

الشَّيْلَ فَنَفَرَقَ إِكْثُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (پ ۸ - ۱۵۳)

دین اسلام کی راہ سید ہی سید ہی ہے سید ہی سید ہی، نافرمانیوں سے بچتے بچاتے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر ادھر کی باتیں کہ یہ مقام مل گیا اور وہ مل گیا یہ شیاطین کے فریب ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے۔ سید ہا سید ہا آسان راستہ یہ ہے کہ محبت پیدا کیجئے جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو سب رذائل خود بخود چھوٹنے لگتے ہیں ایک ایک رذیلہ کے علاج کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی وہ خود بخود ہی ختم ہوتے چلتے جاتے ہیں۔

سے شاد باش اے عشق خوش سودائے ما

اے طیب جملہ علیہما

اے کہ افلاطون و جالینوس ما

اے دوائے نخوت و ناموس ما

بنیادی نہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کی جائے اور یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے اس کے لئے مختلف تدابیر ہیں ان میں سے ایک ہے کثرت ذکر و فکر، دوسرا اہل محبت کی محبت بشرطیکہ محبت سے مقصد یہی ہو کہ محبت پیدا ہو جائے اگر یہ نیت ہی نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لئے گئے تو اثر ہو گا ہی نہیں یا بہت دری سے ہو گا، اثر لینے کی نیت سے محبت اختیار کی جائے اور تیسری بات جس کا محبت پیدا ہونے میں بہت بڑا دخل ہے وہ ہے ترک معاصی، ترک معاصی کے لئے ہمت کو بلند کیا جائے جب ہمت کر کے ترک معاصی کی کوشش میں لگا رہے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا

ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔ ترک معاصلی کو آسان کرنے کے لئے محاسبہ اور مراقبہ کیا جائے، بہت آسان آسان نئے ہیں لگے رہیں، ردائل ظاہرہ و پاٹنہ کے بارے میں سرسری محاسبہ کریں، بہت زیادہ کھود کر یہ نہ کریں، سرسری محاسبہ کر کے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک پہلے خود ہی اصلاح کی کوشش کرے اور اگر وہ رذیلہ نکل جاتا ہے تو نحیک ہے ورنہ پھر اپنے مصلح کو بتائے جو کچھ وہ ہدایت کرے اس پر پوری طرح عمل کرے اور اطلاع و اتباع کا سلسلہ جاری رکھے، یہ ہے صراط مستقیم ہل آسان راستہ۔ غلط قسم کے پیروں نے چکروں میں لگا رکھا ہے اس لئے لوگ پیروں سے بہت ذرتے ہیں اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہوئے بھجنکتے ہیں کہ پتا نہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔

یہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ اپنے شیخ سے پوچھئے بغیر تصوف کی کوئی کتاب ہرگز ہرگز کوئی نہ دیکھے تین پاگل ہو گئے ایک تو ہو گیا مکمل پاگل وہ پاگل خانے میں جا کر کھڑکی سے باہر کو دا تو سر پھٹنے سے مر گیا دوسرا ہو گیا وہ تھوڑا تھوڑا صحت کی طرف آ رہا ہے، تیسرا ہو گیا تقریباً ۱۰/۱۰۰ اس کا چونکہ شروع میں ہی پتا چل گیا مقامات کے چکروں میں پڑ کر پاگل ہو رہا ہے، اس لئے بروقت علاج ہو گیا محمد اللہ تعالیٰ وہ راہ راست پر آ رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی کتاب جس میں مقامات وغیرہ کا بیان ہو ہرگز نہ دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ردائل و فضائل وغیرہ کے بارے میں کتابیں مشائخ کے لئے ہوتی ہیں عوام کے لئے ایسی کتابیں پڑھنا مضر ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔

وَصَلَّى اللَّهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدَ وَعَلَى الْهُ
وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
رَبِّ الْجَنَّاتِ الْعُلُوْمِ

مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور مفہوم سے تمام مسلمانوں کا خوازد رہیں (صحیح مسلم)

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْظَتِينَ
كَمَا كَلِمَتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

اور تم پنگہیاں مقرہاں۔ عزت والے عمل لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو (۸۲-۱۲۶۰)

میسائیت لسٹر مسلمان

— وَعْظ —

فِي الْعَصْرِ الْمُهْرَبِ عَظَّمَ حَضَرَتِ أَقْدَسِيْنَى الْجَلَالِ صَاحِبِيْنَ الْمُهَاجَرَاتِ

— نَاشِر —

کتاب کہدا

ناظم آباد گراچی

و عنوان: **مکتبہ علمیہ مسجد اقبال**
عنوان: **عیسائیت پند مسلمان** ناشر: **مکتبہ علمیہ مسجد اقبال**
جامع مسجد دارالافتاء والارشاد نام آباد کراچی
متقارن: **مکتبہ علمیہ مسجد اقبال**
تاریخ: **۱۴۰۷ھ**
برقت: **بعد نماز عصر**
تاریخ طبع مجلد: **۱۴۰۷ھ ذی قعده ۱۳۷۲ء**
طبع: **مکتبہ علمیہ مسجد اقبال** ناشر: **مکتبہ علمیہ مسجد اقبال**
عنوان: **مکتبہ علمیہ مسجد اقبال کراچی** فکس: **۰۲۱-۹۶۲۲۸۱۳۲**
فون: **۰۲۱-۹۶۰۴۳۶۱**

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وعظ

عیسائیت پسند مسلمان

(محرم ۱۴۳۶ھ)

(أَوْلَئِنِعِزْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
فَذَوْقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (۳۷-۳۸) (ب)

تَرْجِمَة: ”کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا (اور مزید یہ کہ) تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، سو مرا چکھو کر ایسے ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں۔“

سن چودہ سو سال بھری شروع ہو گیا ہے۔ پرسوں جب محرم کی پہلی تاریخ تھی میں کسی تحریر میں تاریخ لکھنے لگا تو لکھنے سے پہلے کچھ دیر کے لئے سکتہ ساطاری ہو گیا۔ دل کی دھڑکنیں منظم نہ رہ سکیں۔ آپ لوگ بھی سوچیں کہ نیا سال شروع ہونے پر خوشی کے شادیاں بجائے جائیں یا رنج و صدمہ کا انہمار کیا جائے یا اس سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آگے چل کر بتاؤں گا اس وقت تو قری سال سے متعلق کچھ مسائل بتانا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے سنئے۔ پہلی بات تو یہ کہ محرم کے مہینے میں مسلمان بہت سی بدعتات و مکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر ظلم یہ کہ ان گناہوں کو کارثوں کو سمجھتے ہیں۔ ہیں یہ بڑے بڑے گناہ مگر مسلمان انہیں ثواب سمجھو کر

کے جا رہے ہیں۔ ان گناہوں کی تفصیل میرے وعظ ”مکرات محرم“ میں ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اگر پہلے پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ پڑھیں اس لئے کہ یہ قائدہ مسلمہ ہے کہ بات بار بار دہرائی جائے تو ذہن نشین ہوتی ہے اور دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ کئی لوگ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب ایک بار پڑھی، دوسری بار پڑھی، تیسری بار پڑھی تو ہر بار پڑھنے میں ایسی ایسی باتمیں سمجھ میں آئیں جو اس سے پہلے سمجھ میں نہ آئی تھیں۔ خاص طور پر ”انوار الرشید“ کے بارہ میں ایسی خبریں کثرت سے موجود ہو رہی ہیں کہ اس کا جتنی بار مطالعہ کیا نئی نئی باتمیں کھلتی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک بار کتاب پڑھ لینے سے اس کے مضمایں پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ اس نے ضروری ہے کہ کتاب بار بار پڑھی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بات سمجھ میں آبھی گئی تو دل میں نہیں اترتی۔ سمجھ میں آجانا اور بات ہے دل میں اتر جانا اور دل پر اثر انداز ہونا دوسری بات ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ دل رنگ جائے۔ بات دل میں اس وقت اترتی ہے کہ اسے بار بار دیکھا جائے، بار بار سنایا جائے، بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے۔

”مکرات محرم“ کوئی بڑی کتاب نہیں، یہ صرف نو صفحات کا مختصر سارسالہ ہے اسے خود بھی بار بار دیکھیں اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں اس میں تو خاص طور پر اس کی بہت زیادہ تشویش کریں، اپنی مجلسوں میں سنائیں۔

آج کل کے مرید:

ایک بار بیرون ملک سے ایک بزرگ پاکستان تشریف لائے جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں بھی انہیں وداع کرنے مطار (ایئر پورٹ) گیا کیونکہ ان کے ساتھ بہت محبت کا تعلق ہے۔ وہاں ان کے مریدوں کا بھی خاصاً جمع تھا جو

انہیں رخصت کرنے آیا تھا۔ مولانا نے سب مریدوں سے مخاطب ہو کر میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا مطبوع "وصیت نامہ" سب لوگ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حقیقت شناسی اور دورسی کی فکر عطا فرمائی ہے، ہر بات میں حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں کامیاب فرمائیں اور اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔

ان بزرگ نے جب اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں سے یہ فرمایا تو فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھئے یہ لوگ "وصیت نامہ" پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ خیال اس لئے آیا کہ آج کل کے شاگردوں اور مریدوں کی حالت مجھے معلوم ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ان لوگوں کے امتحان کا طریقہ بھی ذہن میں آگیا کہ دیکھوں یہ مرید کہاں تک اپنے شیخ کے حکم کی تعییل کرتے ہیں۔ ان دونوں یہ چھپا ہوا "وصیت نامہ" یہاں دارالافتاء سے ملتا تھا جنہیں ضرورت ہوتی یہاں سے حاصل کرتے۔ بغرض امتحان میں نے یہاں دارالافتاء کے عملہ سے کہہ دیا کہ ذرا خیال رکھیں اور مجھے بھی بتاتے رہیں کہ کتنے کتابچے نکلے۔ ہفتہ دو ہفتہ تحقیق کرو اتارہا تو معلوم ہوا کہ ان مریدوں میں سے کوئی ایک بھی لینے نہیں آیا۔ ادھر ان کے عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ شیخ۔۔۔ ہاتھ چوم رہے تھے، ان کے فراق میں رورہے تھے، رو نے کی کیفیت کیا تھی؟ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ناک سے پانی بہرہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ منہ سے رال بھی بہرہ رہی ہے، پھر رو نے کی آوازیں بھی عجیب عجیب نکال رہے تھے، رو تے رو تے ان کا عجیب حال ہو رہا تھا، شیخ کے ہاتھ اور کپڑے بھی خراب کر دیئے۔ ہاتھ ملاتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ معافقة بھی کرتے جا رہے تھے۔ شیخ کو اپنی طرف کھینچ کھینچ کر سینے سے سینہ ملا کر نور حاصل کر رہے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی کہ یہ ملنے کا کون سا طریقہ ہے کہ اپنا عاب بھی، آنکھوں اور ناک کا پانی بھی سب اپنے شیخ کے ہاتھوں اور کپڑوں پر مل دیا، بس ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ صدمہ فراق میں مرے جا رہے ہیں،

مگر شیخ کی وصیت پر کسی ایک نے بھی عمل نہیں کیا۔ اس چھوٹے سے رسالے کو پڑھنا اور عمل کرنا تو درکثار کسی نے لینے کی بھی زحمت گوارانہ کی۔ ان کے حال پر ایک شعر یاد آ جاتا ہے۔

سے ہم فراق یار میں کھل کھل کے ہاتھی ہو گئے
انتے کھلے اتنے کھلے رسم کے ساتھی ہو گئے
مریدوں کے اس قصے کے مطابق اس شعر میں یوں ترجمہ کرتا ہوں۔
سے ہم فراق شیخ میں کھل کھل کر ہاتھی ہو گئے
انتے کھلے اتنے کھلے رسم کے ساتھی ہو گئے

بدوی کا قصہ:

جیسے یہ مرید شیخ کے عشق میں مرے جا رہے تھے ایک ایسے ہی بدوی کا قصہ بھی سن لیجئے۔ عرب میں دیہاتی، گتوار کو ”بدوی“ کہتے ہیں۔ ایک بدوی بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا ایک شخص نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بطور ہمدردی پوچھا:
”کیوں رورہے ہو؟“

سامنے ہی ایک کتاب مرہتا تھا بدوی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا:
”یہ میرا کتا ہے بیچارہ مر رہا ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے۔“
گویا میری جان اس کی جان میں ہے، یہ مر ا تو میں بھی مر ابس کتے کے غم میں رورہا ہوں۔

اس شخص نے پوچھا:
”یہ کتا کیوں مر رہا ہے؟“
بدوی نے کہا:
”بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے؟“

پاس ہی ایک بورا بھرا رکھا تھا اس شخص نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا:
”اس میں کیا ہے؟“

بدوی نے جواب یا:

”اس میں روشنیاں بھری ہوئی ہیں۔“

یہ سن کر اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہنے لگا:

”اللہ کے بندے اکتے سے تجھے اس قدر عشق ہے کہ اس کے مرنے سے تو مرا جا رہا ہے، آنسوؤں کے دریا بھاڑا رہا ہے، ہچکیاں تیری حصتی نہیں، روشنیوں کا بورا بھرا رکھا ہے تو پھر اسے روٹی کیوں نہیں کھلاتے؟“

بدوی نے جواب میں بڑا عجیب جملہ کہا:

”میرے آنسو ہیں مفت کے اور روشنیوں پر پیسے خرچ ہوئے ہیں، اس لئے آنسوؤں کے تو دریا کے دریا بھاڑا دوں گا لیکن روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ دوں گا۔ مرتا ہے تو مر جائے کوئی بات نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں دوں گا۔“

آج کل کے مریدوں کا بھی یہی حال ہے، رور دکر ہچکیاں لے لے کر، چوم چاٹ کر کسی طرح شیخ کو راضی کرو، ”مر گئے“ حضرت جی تو ہم تو مر گئے آپ کے فراق میں، اب تو معلوم نہیں آپ کب تشریف لا میں گے، ہمیں تو خواب میں بھی آپ ہی کی زیارت ہوتی رہتی ہے، جائیں گے میں بھی آپ ہی ہماری آنکھوں کے سامنے گھونٹ رہتے ہیں، آپ کے بغیر تو زندگی بے کار ہے۔

سبحان اللہ! کیا کہنے عشق و محبت کے اگر وہی شیخ کہے کہ وصیت نامہ پڑھ لو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے۔ چھوٹی چھوٹی کئے تو صفات کے رسائل کا پڑھنا تو اتنا مشکل کام نہیں بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جب عمل کریں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے ساری دنیا ناراض ہو جائے گی۔ پھر اس دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے؟

میں نے یہ قصہ اس قدر تفصیل سے اس لئے سنایا ہے کہ بیان کے شروع میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ”منکرات محرم“ پڑھیں اور ان دنوں یہ رسالہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، دو تین دن بلکہ آئندہ جمعہ تک مہلت دیتا ہوں پھر ناشر سے پوچھوں گا کہ کتنے رسائلے اب تک گئے ہیں؟ کہیں وہی قصہ نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ اب تک تو ایک بھی نہیں گیا، غنیمت ہے کہ آپ لوگ میرے عشق میں روشنیں رہے یہیں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کتنا عمل کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ کر یونہی چھوڑ نہیں دیا کرتا بلکہ تحقیق اور جستجو بھی کرتا رہتا ہوں کہ کہی ہوئی بات پر کوئی عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

قری سال کی اہمیت:

دوسری بات یہ کہ قمری سال کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اور آج کے مسلمان نے اس کی کیا قدر کی ہے۔ ستر سال کے مقابلہ میں قمری سال کو اہمیت دے کر شریعت نے ایک مستقل نظام کی داشتیں ڈالی۔ حالانکہ پہلے بھی بہت سے نظام چل رہے تھے مگر ان سب سے الگ تھلگ شریعت نے قمری سال کا ایک مستقل نظام جاری کیا۔ جاری کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے یہ حساب ہوتا ہی نہیں تھا، یہ حساب تو اس وقت سے چل رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ شریعت نے ادکام کی بنیاد قمری سال پر رکھی تو سوال پیدا ہوا کہ نظام اسلامی کا حساب رکھنے کے لئے اس کی تقویم کی ابتداء کہاں سے کی جائے۔ اس اہم مسئلہ کو طے کرنے کے لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غور فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو معیار قرار دیتے ہیں تو اس میں یہ خرابی ہو گی کہ مسلمان اس تاریخ کو دوسری قوموں کی نقلی میں خوشی کا تہوار بنالیں گے، طرح طرح کی بدعاوات اور منکرات ایجاد کر لیں گے اور ان خوشیوں کی بھول بھلیوں

میں پڑ کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ خوشی کے موقع پر تو اچھے بھلے عقل منداں بھی عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اندیشہ ہوا کہ مسلمان بھی خوشی میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت سے اٹھا کر منصب الوہیت تک پہنچادیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جائیں گے، چونکہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا اس لئے ولادت باسعادت سے سال کی ابتداء نہیں کی۔

ان حضرات کا اندیشہ بھی صدقی صدرست ثابت ہوا۔ دیکھ لجھے مسلمانوں میں سے ایک ہی قوم اس زمانہ میں ”عید میلاد النبی“ کے نام سے کیا کیا خرافات کرتی ہے۔ کیسی کیسی بدعتات ان لوگوں نے ایجاد کر لیں۔ ”عشق رسول“ کے عنوان سے انہوں نے کیسے کیسے شرکیہ عقائد گھر گھر کر اسلام میں داخل کر دیے۔

دوسری تجویز یہ تھی کہ اسلامی سال کی ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کی جائے۔ لیکن اس میں خدا شیخ تھا کہ مسلمان پہلی حالت کے بر عکس اس تاریخ کے آتے ہی ماتم شروع کر دیں گے، سینہ کوبی کریں گے، رونا پیشنا شروع کر دیں گے کہ ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے، رونا پیشنا تو بزرگی پیدا کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں میں بزرگی پیدا ہو گی اور ان کا مول میں پڑ کر وہ حقیقت سے دور ہو جائیں گے۔ اس اندیشے کی صداقت بھی دیکھ لجھے، آج کل ایک قوم نے وہی رونے پیش کا دھندا شروع کیا ہوا ہے۔ اسی کو وہ اپنا دین سمجھتے ہیں۔

ان اندیشوں کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دور رس نگاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی سال کی ابتداء کسی ایسے واقعہ سے کریں جس سے مسلمان ہمت واولوالعزی کا سبق حاصل کریں۔ ایسا غیر معمولی واقعہ ہو جس کی یاد اس ان کی غیرت و محیت کو مہیز لگے اور وہ اللہ کی تافرمانی چھوڑ کر اس کے بندے بن جائیں، اس

خطبات الرشید

کی رضا کے لئے پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائیں۔ وہ واقعہ "ہجرت" کا ہے۔ یہ جو آپ سن ہجری سنتے رہتے ہیں یہ اسی ہجرت کی یادگار ہے۔ یاد رکھئے کہ سال کی ابتداء ہجرت سے کرنا کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیش نظر بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔

پہلی حکمت:

ایک حکمت یہ تھی کہ ہر نئے سال کے شروع میں جب ہجرت کی یادگار سامنے آئے گی، روز مرہ کی عام گفتگو میں جب سن ہجری کا تذکرہ آئے گا، یا آخر یہ میں درج کریں گے تو واقعہ ہجرت کی یاد تازہ ہو جائے گی اور فوراً خیال آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت کے لئے سب کچھ چھوڑا حتیٰ کہ وطن سے ہجرت کی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا، وطن سے بے وطن ہوئے، بیوی بچوں کی قربانی دی، اس کے علاوہ قیمتی جائیدادیں چھوڑیں، مال و دولت کو لات ماری، وسیع تجارتوں کو بھی خیر با دکھا غرض سب کچھ قربان کیا کس لئے؟ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لئے، ہجرت کا تصور کرتے ہی ان سب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اسلامی تقویم کی ابتداء ہجرت سے کرنے کی یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ لفظ زبان یا قلم پر آئے، کان میں پڑے، نظر سے گزرے اس سے وابستہ یادیں تازہ ہو جائیں اور گناہ چھوڑنے پر، دین کی خاطر قربان ہونے پر ہمت بلند ہو۔

ہجرت کی بات چل رہی ہے اس ضمن میں ایک اہم بات سمجھو لجئے وہ یہ کہ رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"المهاجر من هجر ما نهى الله عنه" (صحیح بخاری)

تَرْجِمَةً: "حقیقی مہاجر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے۔"

یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے ہجرت کی صورت اور دوسری اس کی حقیقت،

صورت تو ہے دین کی خاطر اعزہ واقارب اور وطن کو چھوڑنا اور هجرت کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسلمان اس کی نافرمانی سے باز آجائے، ہر قسم کے گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو منعہاً و مقصود بنا لے، اس کی خاطر تمام خواہشات کو قربان کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ان حضرات نے دین کی خاطر دونوں قسم کی هجرتیں کیں، مکہ مکرمہ جیسا مقدس شہر بھی چھوڑا اور ساتھ ساتھ اپنی تمام خواہشات بھی قربان کیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ ذرا سی غلطی صادر ہونے پر کانپ اٹھتے اور اس کی علیافی کے بغیر چین سے نہ بیٹھتے۔ یاد رکھئے! وطن چھوڑنا صرف هجرت کی صورت ہے، هجرت کی روح تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان دین کی خاطر اپنا وطن نہیں چھوڑتا مگر اپنے وطن میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہے تو اگر پاٹتے ہیجرات کی صورت حاصل نہیں ہوئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشد مطابق اسے هجرت کی حقیقت اور روح حاصل ہو گئی۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ہے:

”من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبيها او الى امرأة
ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه.“

فرمایا کہ جس نے مکہ سے هجرت کی، اس وقت اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ اور وطن بنا میں۔ اس وقت ان حالات میں مسلمانوں کے لئے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین کی حفاظت ممکن نہ تھی تو فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم پوچھا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، هجرت کی فهجرتہ الى الله ورسولہ اس کی هجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول ہے اور مہاجرین کی فہرست میں اس کا نام اللہ دیا گیا اور جس نے اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں بلکہ کسی

خطبۃ الرشید

دنیوی غرض سے ہجرت کی ایسی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیوی مال و متاع اسے کچھ نہ کچھ مل جائے، کسی حد تک مادی نفع اٹھا لے لیکن یہ ناممکن ہے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قابل قبول ہو۔

اسلام نے اپنے قبیعین کے لئے ایک مستقل نظام قائم کیا۔ ذرا سوچئے کہ جب نیا سن ہجری شروع ہوتا ہے تو آپ جب اس کا نام لیتے ہیں یا یا سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کی حقیقت کی طرف کچھ توجہ ہوتی ہے کہ ہجرت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا مقاصد تھے؟ اس ضمن میں ان حضرات نے کیا کیا مشقتیں برداشت کیں؟ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

دوسری حکمت:

دوسری حکمت ہے ”اسلامی شخص“، شخص کے معنی ہیں کسی جماعت کا اپنی مستقل حیثیت جانے کے لئے کوئی امتیاز شان مقرر کرنا۔ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب رائج ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی شعار، کوئی نہ کوئی مخصوص پہچان مقرر ہے۔ کسی کا کوئی مخصوص جھنڈا ہے، کسی کا مخصوص لباس ہے۔ بعض لوگ اپنا شخص جانے کے لئے ہری گزی باندھتے ہیں، بعض کی پہچان کالی گزی ہے، غرض دنیا میں ہر قوم اور ہر فرقہ نے اپنا کوئی نہ کوئی نشان مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسری قوموں سے ممتاز رکھنے کے لئے شعار مقرر فرمائے ہیں۔ سن ہجری بھی مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے شعار پر سختی سے کار بند ہے۔ ہندو قوم کا شعار ہے سر کی چوٹی اور دھوتی، وہ لوگ سر پر چوٹی رکھتے ہیں اور یونچے

دھوئی باندھتے ہیں، حضرت مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

سے ہمارا میل کیا اس قوم سے یہ قوم کھوٹی ہے
کہ مذہب ان کا چوٹی اور تمدن اک لنگوٹی ہے

ہندو قوم کے شخص میں زنا رجھی داخل ہے یہ ایک تاگا ہوتا ہے جسے گلے میں
لٹکاتے ہیں۔ اسی طرح سکھ قوم کا شخص ہے ذاڑھی گپڑی اور کرپان۔ کرپان چھوٹی
سی تکوار ہوتی ہے۔ بلکہ مشہور ہے کہ سکھ قوم کا شخص چار کاف ہیں کرپان، کڑا، کس
(سر کے بال) اور کچھا۔ اپنا شخص قائم رکھنے کے لئے یہ لوگ سر پر بڑے بڑے بال
رکھتے ہیں پھر خاص طریقے سے ان کا جوزا باندھ لیتے ہیں پھر بالوں کے اوپر گپڑی،
ہاتھ میں کڑا اور ساتھ کرپان۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لئے دعوت فکر ہے کہ یہ سکھ
قوم جہاں کہیں جائے ہر حکومت سے اس نے کرپان رکھنے کی اجازت لے رکھی ہے۔
انگریزوں سے لے کر آج تک کوئی حکومت انہیں کرپان رکھنے سے منع نہ کر سکی لیکن
دوسری کو تھیار رکھنے کی اجازت نہیں بلکہ بعض حالات میں حکومت کی طرف سے
خصوصی حکم جاری ہو جاتا ہے کہ کسی کو چاقور رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس کے باوجود
سکھ اپنی کرپان ساتھ رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں میں چاقور رکھنے کی بھی ہمت نہیں وہ نہتے
پھرتے ہیں۔

بچپن میں ایک بار ساتھا کہ مسلمانوں نے چنگاب میں تحریک چلانی تھی کہ جیسے
کرپان سکھوں کا شعار ہے ویسے ہی تکوار مسلمانوں کا شعار ہے اس لئے مسلمانوں کو
تکوار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ان کی تحریک کامیاب ہوئی اور حکومت چنگاب نے
مسلمانوں کو تکوار رکھنے کی اجازت دے دی۔ حکومت بھی انگریز کی تھی لیکن مسلمانوں
کی تحریک کو دبانہ سکی مجبوراً اسے تکوار رکھنے کی اجازت دینا پڑی مگر افسوس ہے مسلمان
قوم پر کہ مطالبہ منوانے کے باوجود اس نے تکوار نہیں رکھی۔ آج کا مسلمان ایسا بزدل
اور ڈرپوک ہے کہ تکوار کے نام سے بھی اسے ڈر لگتا ہے، تکوار تو بڑی چیز ہے اگر کوئی

خطبات الرشید

اس پر غلیل کا غلہ چھوڑ دے یا کہیں پٹانے کی آوازن لے تو گویا اس کی جان نکلی جا رہی ہے۔ اس شاہین کو انگریز ملعون نے ایسا بزدل بنادیا کہ جہاد اور قبال کے نام سے اسے دہشت ہونے لگی ہے، تکوار اور اسلحہ کا نام سن کر بد کرنے لگتا ہے، اس کی بزدلی عمل سے ترقی کر کے عقیدہ تک سراست کر گئی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اسلحہ اٹھانا اور کافروں کو نہ کانے لگانا دین و ایمان کے خلاف ہے۔ کیا عجیب بات ہے جس حکم سے قرآن کے تمیں پارے اور حدیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں جس مہم میں بسر ہوئیں وہ آج کے مسلمان کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کام سے اس کے دین و ایمان پر حرف آتا ہے۔ اسلحہ کو اس نے دہشت گردی کی علامت سمجھ لیا ہے، بس آج کے مسلمان کا کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ کافروں کے سامنے بکری بنارہے ان کے ہاتھوں ذبح بوتا رہے۔ کوئی اس کی گردن پر چھری رکھ دے تو یہ چپکا پڑا رہے گا ملنے کا نام نہ لے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے ہوئے کافر کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔

اپنے بچپن کا قصہ یاد آگیا ہم کوئی مرغی پکڑ کر اسے اٹا کر اس کی گردن پر تنکار کھ دیتے وہ سمجھتی کہ چاقو یا چھری رکھی ہوئی ہے آرام سے لیٹی رہتی اس حال میں ہم اسے چھوڑ کر چلے جاتے، اوہرا ادھر کھیلتے رہتے۔ وہ دینی جگہ پڑی رہتی کہ اگر ذرا حرکت کی تو چھری چل جائے گی اور گردن کٹ جائے گی۔ ہم کچھ دیر بعد اسے اٹھاتے کہ اری مرغی! اٹھ جاتو نجع گئی۔ ملعون انگریز نے بھی آج کے مسلمان کا ذہن ایسا مسخ کر دیا کہ یہ اسلحہ کے نام سے ڈرتا ہے۔ اس سے دور بھاگتا ہے۔ کہتا ہے کہ اسلحہ اٹھانا شریفوں کا کام نہیں یہ تو دہشت گروں اور بے دینوں کا کام ہے۔ افسوس کہ جو کام دین کی ترقی کا ذریعہ تھا جس کی برکت سے دین پوری دنیا پر غالب آیا آج کل کے مسلمانوں کی نظر میں وہ بے دینی کی علامت بن گیا۔

بات ہو رہی تھی شخص کی، ہندو، سکھ، پارسی، غرض کہ ساری قومیں اپنے مذہبی

شخص کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کا امتیازی شخص برقرار رکھنے کے لئے انہیں بہت سے احکام کا پابند کیا ان میں سے ایک حکم ذاہی کا ہے جو مسلمانوں کا خاص شعار اور شخص ہے۔ دوسری چیز تکوار ہے جو اسلام کی عزت اور سر بلندی کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو تکوار رکھنی چاہئے۔ یہ جہاد کی یادگار اور مسلمانوں کا شخص ہے۔ تیسرا چیز ہے قمری سال کا اہتمام، روز مرہ کے حساب کتاب میں یہ بھی اسلام کا شخص ہے۔

تیسرا حکم:

شریعت کے بہت سے احکام قمری سال سے وابستہ ہیں۔ قمری سال کا حساب لگائے بغیر ان احکام کی تجھیل ممکن نہیں۔ وہ کون کون سے احکام ہی؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دو چیزوں کا تعلق قمری سال سے ہے یعنی روزہ اور حجّ مگر حقیقت یہ ہے کہ روزہ اور حجّ کے علاوہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق قمری سال سے ہے روزہ اور حجّ کا مسئلہ تو سب کو معلوم ہی ہے، نماز، زکوٰۃ، قربانی اور دوسری بہت سی عبادات کا تعلق بھی قمری حساب سے ہے، اس کی کچھ تفصیل سنئے:

نماز:

نماز کی فرضیت کا مدار عمر اور ایام حیض پر ہے اور ان دونوں کا تعلق قمری حساب سے ہے شی کے نہیں اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر بتاؤں گا۔

زکوٰۃ:

چاند کے جس مہینے کی جس تاریخ میں بقدر نصاب مال ملا اس تاریخ سے قمری سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس میں بھی قمری سال شمار کیا جائے گا، شی سال کا اعتبار نہیں۔

عید الفطر، عید الاضحی، صدقۃ الفطر، قربانی اور تکبیرات تحریق کا تعلق قمری حساب

سے سب جانتے ہیں۔

عمر:

احکام شرعیہ میں جہاں کہیں بھی عمر کا ذکر ہے وہاں قمری حساب ہی لگانا فرض ہے ششی حساب جائز نہیں، شریعت کے کئی احکام عمر سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً: اعتبار حمل، جواز اسقاط، مدت حمل، ثبوت نسب، مدت رضاع، حرمت رضاع، حق حضانت، جب بچہ چار سال کا ہو جائے تو آگے پیچھے سے اس کا ستر بلا ضرورت دیکھنا جائز نہیں، ران وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، سات سال کی عمر ہونے پر ران وغیرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، سات سال کے بچے کو نماز کا حکم دینا فرض ہے اور دس سال کا ہونے پر مارکر نماز پڑھانا فرض ہے۔ دس سال کی عمر میں بستر الگ کر دینا فرض ہے، لڑکی کو نو سال کی عمر میں پرده لڑکے سے دس سال کی عمر میں پرده۔

لڑکی کے مراد (قریب البلوغ) ہونے کی عمر نو سال ہے اور لڑکے کے مراد ہونے کی بارہ سال، اس پر شریعت کے کئی احکام مرتب ہوتے ہیں۔

سن بلوغ:

بلوغ احکام کا مکلف ہونے کی بنیاد ہے، اس میں بھی بسا اوقات عمر کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر لڑکی اور لڑکے میں بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو دونوں کے لئے انتہائی مدت پندرہ سال ہے۔

حیض، نفاس اور استحاضہ:

ان میں بھی قمری حساب کا اعتبار ہے۔

نکاح:

نکاح اور فتح نکاح کا اختیار اور اس پر متفرع احکام۔

طلاق:

طلاق کے وقوع اور اس سے رجوع کے احکام۔

عدت:

نابالغہ اور آئس کی طلاق کی عدت تین مہینے، بالغ کی تین حیض، حاملہ کی وضع حمل۔ موت کی عدت چار ماہ دس دن اور حاملہ ہوتا وضع حمل۔

مفقود:

کسی لاپتہ شخص کو مفقود قرار دینا اور پھر اس پر مرتب ہونے والے کئی احکام۔ غرضیکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں تقریباً سارے کے سارے قری تاریخوں سے وابستہ ہیں کوئی بلا واسطہ کوئی بالواسطہ۔

چوتھی حکمت:

چوتھی حکمت ہے محبت کا تعلق۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو بہر کیف اس کا تذکرہ کرتا ہے، موقع بے موقع اس کا نام لیتا ہے اور جس چیز سے محبت نہ ہواں میں خواہ کتنے ہی منافع ہوں اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اس کا نام زبان پر لانا گوار نہیں کرتا۔ غرض محبت میں بڑی کشش ہے۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے حال کا جائزہ لیں۔ بھری تقویم کے ساتھ ان کا روایہ دشمنوں کا سا ہے۔ عوام تو رہے ایک طرف بڑے بڑے علماء و مشائخ بھی اپنی تحریر و تقریر اور روزمرہ کی گفتگو میں بے دھڑک عیسوی تقویم استعمال کرتے ہیں۔ کسی معمر بزرگ فاضل دیوبند سے ملاقات ہوئی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے اور وہاں سے فراغت کا عیسوی سن بتایا، بھری سن انہیں یاد نہیں تھا، مجھے ان کی اس حالت پر اتنا افسوس ہوا کہ بتا نہیں سکتا۔ ان مولانا صاحب سے کوئی یہ پوچھھے کہ اللہ کے بندے! تم جو مسلسل چار

خطبیات الرشید

سال دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم رہے وہاں اپنے اساتذہ سے کبھی مشی سال کا نام سننا تھا؟ آپ نے جب داخلہ کا فارم بھرا تھا تو فارم پر مشی تاریخ درج تھی یا قمری؟ وہاں جب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وظیفہ ملتا تھا اور آپ کو پہلی تاریخ کا شدت سے انتظار رہتا تھا تو وہ پہلی چاند کی ہوتی تھی یا جنوری فروری کی؟ اسی طرح اس باق کی جو تاریخ متعین تھی کہ فلاں تاریخ کو اس باق شروع ہوں گے تو وہ تاریخ کون سی ہوتی تھی اسلامی یا انگریزی اسی طرح سال کے اختتام پر جو تعطیلات ہوتی تھیں وہ کن تاریخوں میں ہوتی تھیں؟ غرض وہاں ساہماں سال تک ہر چیز قمری تاریخوں کے حساب سے دیکھتے، سختے اور پڑھتے رہے پورا نظام قمری تاریخوں سے وابستہ تھا۔ مگر مولانا صاحب اس ماحول سے باہر آتے ہی سب کچھ بھول گئے، کتنی محبت ہے انگریزی سے، آپ لوگوں نے شاید کبھی اس طرف توجہ کی ہوا بتو میں نے زیادہ کہنا چھوڑ دیا ہے پہلے بہت کہتا تھا کہ آج کل کا مسلمان انگریزی کا دلدادہ ہے، انگریزی الفاظ بڑے فخر سے بولتا ہے بلکہ بہت زیادہ بولتا ہے۔

انگریز کا پٹھا:

ایک دادا پوتے کا قصہ کبھی کبھی سناتا رہتا تھا۔ دادا بیچارہ پرانے ذہن کا تھا۔ دادا نے پوتا سے کہا کہ ”وہ پھانک بند کر دو۔“ پوتا پوچھتا ہے ”کہاں رکھی ہے؟“ دادا نے کہا ”ارے پھانک بند کر دو۔“ لیکن پوتا کہتا ہے ”دادا وہ رکھی کہا ہے؟“ دادا سمجھا کہ شاید اس کی بات اسے سنائی نہیں دے رہی تو اس نے زور سے کہا ”میں کہہ رہا ہوں پھانک بند کر دو پھانک۔“ لیکن پوتے کا پھر وہی سوال ”رکھی کہاں ہے؟“ آخر کافی تکرار کے بعد بیچارہ دادا سمجھا کہ یہ انگریز کا پٹھا سمجھو ہی نہیں رہا کہ پھانک کے کہتے ہیں۔

وہ فریب خور وہ شاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہیازی

ٹھہرا تو انگریز کا پھنا، انگریز کا انڈا، وہ بھلا کیا سمجھے کہ چھانک کیا ہے۔ آخر دادا نے کہا ”گیٹ بند کر دو“ پوتا بولا ”ہاں تو یوں کہیں ناگیٹ بند کر دو۔“

انگریزی بولنے کی حیثیت:

یہاں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں جو انگریزی بولنے پر روتا رہتا ہوں اور بلا ضرورت بولنے سے روکتا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ کوئی ناجائز اور حرام کام ہے۔ جیسے دنیا کی دوسری زبانیں ہیں ویسے ہی انگریزی بھی ایک زبان ہے اس کا بولنا کوئی گناہ نہیں، لیکن میں جو اس پر بار بار تنبیہ کرتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان انگریز کی محبت میں گرفتار ہے، دل میں اس کی محبت اور عظمت بھری ہوئی ہے۔ انگریز سے محبت کا یہ عالم ہے کہ چھوٹا سا بچہ جب تو تلی زبان میں بولنا شروع کرتا ہے تو والدین اور بھائی بھن اسے انگریزی الفاظ سکھاتے ہیں۔ جب وہ غلط سلط انگریزی الفاظ بولتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارے واہ بیٹھے شاباش۔ لیکن عربی سے لگاؤ کی یہ حالت ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے مگر قرآن کے دو چار لفظ بھی صحیح نہیں کر پاتا۔ مر جاتا ہے مگر قرآن کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، عربی زبان تو الگ روی قرآن صحیح نہیں ہوتا۔ انگریزی کے الفاظ پیدا ہوتے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے بلکہ گویا پیدا ہونے سے بھی پہلے ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر آتا ہے، یہ ہے آج کے مسلمان کی انگریز پرستی کا عالم۔

انگریزی سے نفرت کا سبب:

بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں انگریزی بولنے سے کیوں منع کرتا ہوں؟ انگریزی سیکھنا حرام نہیں، اس کے الفاظ استعمال کرنا بھی ناجائز نہیں، میں تنبیہ صرف اس لئے کرتا ہوں کہ زبان کے الفاظ دراصل دل کی غمازی کرتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ دل کے راز کھوتا ہے۔ افسوس کہ آج کے مسلمانوں کو قرآن

خطبات الشید

سے محبت نہیں دل میں اس کی عظمت نہیں مگر انگریز مردوں کی محبت اور عظمت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، بتائیے یہ چیز خطرناک ہے یا نہیں؟ اگر قرآن سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو کم از کم اس کے الفاظ ہی صحیح کر لیتے مگر اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ وعظ ”حقوق القرآن“ پڑھا کریں۔

میں بتارہا تھا کہ کسی مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ سن چالیس میں دیوبند پڑھنے گئے تھے، عیسوی سن بتایا، میں نے کہا مجھے تو عیسوی سن یاد نہیں بھری یاد ہے میں سن اکٹھے میں گیا تھا آپ اس سے پہلے تھے یا بعد؟ لیکن انہیں بھری سال یاد نہیں، مولانا صاحبان کو سن بھری یاد نہیں رہتا یہ تو بات تھی دارالعلوم دیوبند کی، یہاں پاکستان میں جتنے مدارس ویسیہ ہیں، جتنے بھی جامعات اسلامیہ ہیں ان کا پورا نظام و نسق قری تاریخوں سے وابستہ ہے۔ ملک بھر میں مدرسے کھلتے ہیں شوال میں اور بند ہوتے ہیں شعبان میں تعطیلات کے مہینے شعبان اور رمضان ہیں پھر تعطیلات ختم ہونے کے بعد اس باقی شروع ہونے کی تاریخیں قری ہیں۔ ان مدارس میں تھواہیں اور وظیفے بھی قری تاریخوں میں دیئے جاتے ہیں۔ غرض ان کا پورا ذہانچہ قری تاریخوں سے تیار ہوتا ہے، لیکن باشہمہ مدارس کے اساتذہ اور طلبہ اپنی تحریروں میں جب تاریخ ڈالیں گے تو انگریزی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ! پتا چلا کہ ان علماء و طلبہ کے ذہن میں انگریزی کی محبت اسلام کی محبت سے زیادہ ہے۔ ان کے دلوں میں انگریزی کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے۔ کسی کو انگریزی تاریخ لکھنے کی مجبوری درپیش ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے اس سے متعلق بعد میں بتاؤں گا لیکن اہل مدارس کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بسا اوقات بڑے بڑے جامعات سے اساتذہ کے خطوط آتے ہیں ان پر تاریخ انگریزی درج ہوتی ہے تو میں ان لوگوں کو یہ جواب لکھتا ہوں کہ آپ کے جامعہ کا سارا نظام اسلامی تاریخوں کے مطابق چل رہا ہے وہی لکھنا بھول جاتے ہیں؟ اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی انگریزی یاد رہتی ہے، اپنی رور مزہ گفتگو

اور تحریروں میں وہی استعمال کرتے ہیں۔

ایک بار ایک بہت بڑے جامعہ کا اجلاس ہو رہا تھا میں بھی اس میں شریک تھا۔ کسی نے پوچھا کہ ”فلان مولانا صاحب کہاں ہیں؟“ دوسرے مولوی صاحب جواب دیتے ہیں ”لیئرین میں گئے ہیں“ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، میں نے ان سے کہا کہ یہاں پاٹھانے میں بھی آپ کو وہی انگریزی کا لفظ یاد آیا اور کسی زبان کا نہ آیا؟ وہ جامعہ بھی کوئی معمولی نہیں ملک کے بڑے جامعات میں سے ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کا اجتماع ہو رہا ہے اس موقع پر بھی انگریزی ہی سو جھی۔

اسی طرح ایک بار ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ ”فلان مولانا صاحب کہاں ہیں؟“ تو کہنے لگے ”کلاس میں پڑھانے گئے ہیں“ ارے وہ مولانا! کیا کہنے اس ”کلاس“ کے جیسی آپ کی کلاس ہے ویسے ہی آپ کے کلاسی ہوں گے۔ ایک بار پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ انگریزی سیکھنا، بولنا فی نفسه ناجائز اور حرام نہیں۔ جیسے دنیا بھر کی زبانیں ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک زبان ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انگریزی بولنے والوں کے دل میں کیا ہے؟ وہ کون ہی چیز ہے جو انگریزی بولنے پر مجبور کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیز دل میں گھسی ہوئی انگریزی کی عظمت و محبت ہے۔ اس محبت نے ایسا اندازا، بہرا بنا دیا ہے کہ اسلامی تاریخ لکھنا بھول جاتے ہیں۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر اس کی انگریزی ہی غالب ہے۔ میں ہر سال اس پر تنبیہ کرتا ہوں مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی وہی قصہ ہے کہ آنسو بہانا آسان، روٹی کا لکڑا دینا مشکل۔ جہاں آپ لوگ اپنے حالات میں دوسری چیزیں لکھتے ہیں وہاں کبھی تو یہ بھی لکھ دیا کریں کہ میں پہلے انگریزی تاریخ لکھا کرتا تھا، انگریزی بولتا تھا لیکن جب سے یہ بیان نہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، انگریزی کی محبت دل سے نکال دی اور اپنی محبت سے اسے منور فرمادیا، کم از کم اصلاحی خطوط میں تو کوئی ایسی اطلاع آئے۔

ضرورت کے تحت انگریزی لکھنا:

ربی یہ بات کہ کبھی کسی مسلمان کو انگریزی تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت انگریزی تاریخ لکھنے میں حرج نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک کام ضرور کر لیا کریں وہ یہ کہ اگر آپ نے ضرورت سے انگریزی تاریخ لکھنی تو اس کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی لکھ دیں بلکہ اسلامی تاریخ پہلے لکھیں۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہیں بھی کسی ضرورت سے کسی دفتر یا سرکاری محلہ سے خط و کتابت کرنا پڑے تو پہلے اسلامی تاریخ لکھنے ہیں اس کے نیچے انگریزی تاکہ پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ دونوں تاریخیں ان کی خاطر لکھ دیتے ہیں اگر صرف اسلامی لکھیں تو شاید وہ لوگ قبول ہی نہ کریں۔

کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ شادی یا کسی اور تقریب کی اطلاع کے لئے اگر وہ اسلامی تاریخ استعمال کریں تو ایک دو دن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے اس لئے چاند کے اعتبار سے قبل از وقت تعین ممکن ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ تو اسلامی لکھیں لیکن تاریخ کے ساتھ دن بھی لکھ دیں، اب تو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اصل معیار دن کو رکھیں کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن میں تقریب ہے اور اگر اس طریقہ پر عمل کرنا کسی کے لئے مشکل ہو تو چلنے اسلامی تاریخ کے ساتھ انگریزی تاریخ نیچے لکھ دیں، اب تو کوئی اشتباہ نہیں رہے گا۔ لیکن کیا کیا جائے یہاں تو سارا نظام ہی انگریزی تاریخ پر چل رہا ہے۔ علماء طلبہ، صوفیہ، صلحاء سب ہی اس کی پیٹ میں ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر انگریزی، قلم پر انگریزی۔

شمسمی تقویم کا بے ڈھنگا پن:

جو ایک اشکال ذکر کیا گیا تھا کہ اسلامی تاریخ میں تو ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس، لئے وقت کی صحیح تعین نہیں ہو یاتی اس بارے میں ایک بڑی عجیب بات بتاتا

ہوں۔ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ وہ یہ کہ مشی تقویم کا نہ کوئی قاعدہ ہے نہ قانون۔ پوری دنیا بس اندر چال چل رہی ہے۔ ایک دو کانے راجہ ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ پوری دنیا بس آنکھیں بند کئے ہمارے پیچھے چل رہی ہے ورنہ دلیل کچھ نہیں، بس جیسے ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کئے ہمارے پیچھے چلے آؤ۔ مثلاً آج جوں کی دوسری تاریخ ہے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ وہ کانے راجہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ورنہ پوری دنیا کو آپ تحدی (چیلنج) کریں، کہیں کہ آج جوں کی دوسری نہیں بلکہ جنوری کی پہلی ہے اس دعوے کو دلیل سے رد کر کے دکھاؤ مگر دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں۔ تردید کریں گے تو یہی کہہ کر کہ سب کہہ رہے ہیں آج جوں کی دوسری ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے لیکن جو دنیا کی بات نہ مانے کہے کہ ساری دنیا مل کر جھوٹ بول رہی ہے تو اس کی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس طرح انہوں نے ساری دنیا کو پاگل بنارکھا ہے۔ مزید سنئے کہ لوگوں کو کس طرح الوبنایا۔ فروی یوں تو ہمیشہ اٹھائیں دن کا ہوتا ہے لیکن ہر چار سال بعد فروری انتیس دن کا منوجھے ”لیپ کا سال“ کہتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ بس ہم نے کہہ دیا۔ یوں ان کانے راجاوں نے ساری دنیا پر اپنی بات مسلط کر رکھی ہے۔

مشی تاریخوں کا معلوم کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں اور اس کا پورا پورا حساب تو ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ایسا معہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین اس سے عاجز آپکے ہیں۔ پہلے ہر چار سال کے بعد ایک دن کا اضافہ کیا گیا پھر سولہ سال کے بعد جا کر پتا چلا کہ دل دن زیادہ ہو گئے ہیں۔ سال کو دس دن پیچھے ہٹاو۔ پھر ہر سو سال کے بعد ایک دن گھٹا دیا جائے، پھر ہر چار سو سال کے بعد ایک دن بڑھا دیا جائے۔ اسی ادھیز بن میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی بڑھاؤ کبھی گھٹاؤ اور کوئی ان سے پوچھئے کہ کیوں گھٹایا کیوں بڑھایا تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں۔

خطبات الرشید

اس بارے میں پوری دنیا چند بوجہ بھکردوں کی انہی تقلید کر رہی ہے بس کانا راجہ جو کہہ دے ماننا پڑے گا، صدیوں تک جو لیس اکش اور سیزروغیرہ کیے بعد دیگرے دنیا کے ذہنوں پر مسلط رہے پھر پوپ گریگوری نے ان کے تسلط پر اپنا قبضہ جمالیا اور ۱۱۹۱ اکتوبر کر دیا، علاوہ ازیں ہر وہ صدی جو چار پر برابر تقسیم نہ ہواں کے آخری سال کے فروردی کو اٹھائیں میں دن کا قرار دینے کا حکم دیا، کئی ملکوں نے پوپ کی بغاوت کی لیکن بالآخر یہ بھی سب کو اپنی ذہنی غلامی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

؇ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا

مسلمان کے قلب پر انگریز کا رعب:

آج کا مسلمان عیسائیوں سے بہت مرعوب ہے ایک شخص نے اپنے حالات میں لکھا کہ وہ نیویارک ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان عیسائیوں سے اس قدر مرعوب ہیں کہ امریکیوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ شرماتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا ہو گئے کسی امریکی گھر میں کیوں نہ پیدا ہوئے۔

مسلمانوں کی مرعوبیت پر ایک قصہ یاد آگیا۔ مجھے جب اوقات نماز کی طرف توجہ ہوئی تو شروع شروع میں کچھ نقشے مرتب کئے اور صحیح صادق کا مسئلہ اٹھایا۔ علماء کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر جگہ صحیح کاذب کو صحیح صادق سمجھا جا رہا ہے۔ ان دنوں خیال آیا کہ یہ جو لوگ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں فلکیات پڑھتے پڑھاتے ہیں ذرا معلوم کیا جائے کہ انہیں کچھ آتا بھی ہے؟ میں ناظم آباد نمبر چار میں دارالاکفاء سے مشرق کی طرف چند مکان چھوڑ کر محلہ موسمیات کا دفتر تھا۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اوقات کیسے مرتب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا مجھ سے ایک بڑے افریزیں میں انہیں لے

کر آؤں گا وہی بتائیں گے۔ انہیں لائے تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ طلوع و غروب کے اوقات آپ کیسے مرتب کرتے ہیں کہ فلاں شہر میں طلوع اتنے بجے ہے اور غروب اتنے بجے، باقی نمازوں سے تو ان کا سروکار ہی نہیں صرف طلوع اور غروب سے واسطہ ہے اور یہ کہ صبح کے وقت پہلی روشنی اتنے بجے نمودار ہوتی ہے۔ صبح کاذب یا صادق سے بھی کوئی واسطہ نہیں، ہیں ہی سارے کاذب مصادق سے ان کو کیا مطلب۔ ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تو یہ بولے میں تو نہیں جانتا البتہ ایک تیرے غص مجھ سے بھی بڑے ہیں انہیں لا دیں گا وہ جواب دیں گے۔ تین چار بار تو یہی ہوا کہ ایک دوسرے پر مالتے رہے، آخر کئی چکروں کے بعد ان کا سب سے بڑا افسر آیا اس نے کہا کہ مرکزی دفتر میں سب سے بڑے ماہر ہیں میں انہیں لا دیں گا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس بڑے کو لائیں وہ بھی کہہ دے کہ مجھ سے ایک اور بڑا ہے میں اسے لا دیں گا۔ خواہ مخواہ میرا اور اپنا وقت ضائع کریں گے اس لئے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں: اربابا من دون اللہ۔ سب کو مرکزی دفتر میں جمع کر لیجئے، اجتماع کی تاریخ اور وقت کی اطلاع مجھے دے دیجئے میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا سب بڑے چھوٹوں کو انشاء اللہ ایک ہی بار میں نمائداں گا۔ اس تجویز کے مطابق سب ماہرین جمع ہو گئے میں بھی حسب و عدہ پہنچ گیا۔ دیکھا کہ سب جمع ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ اوقات کس طرح نکالتے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو آسان سا کام ہے۔ انہوں نے ایک کتاب ”نوشکل المینک“ نکالی اور کہنے لگے کہ دیکھ لیجئے کراچی کا طول اور عرض البلد کیا ہے، اس میں اشعارہ درجات زیر افق، درجات تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ڈگری کہہ رہے تھے، زیر افق کو بھی اور کچھ کہتے ہوں گے۔ کہنے لگے ”اعمارہ ڈگری کے اوقات اس میں دیکھ لیجئے یہ لکھے ہوئے ہیں۔“ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ دکھار ہے ہیں یہ تو کتاب میں لکھا ہے اور کتاب گرینچ لندن سے شائع ہوئی ہے، کتاب تو میں دیکھ چکا لیکن آپ لوگ کس مرض کی دوا ہیں؟

سوچیں آپ ماہر فن ہیں اور الحمد للہ! مسلمان ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی انٹھ کر اس کا امتحان لے کر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے صحیح ہے یا غلط۔ آپ خود ماہر فن ہو کر دوسروں کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ نظریہ ہونا چاہئے کہ کسی بڑے سے بڑے ماہر نے بھی جو کچھ لکھا ہوا سے پر کچھ بغیر قبول نہ کریں۔ یہ عیسائی کافر کی لکھی ہوئی کتاب آپ نے مجھے تھامادی، خود بھی اس پر اعتماد کئے بیٹھے ہیں۔ آخر اس کی کیا دلیل ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے اور اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں؟ یہ سن کر وہ بولے کہ یہ کتاب تو بالکل صحیح ہے بالکل صحیح اس لئے کہ ساری دنیا اس پر چل رہی ہے۔ بتائیے کسی کے پاس اس انڈھی بہری تقلید کا کوئی علاج ہے؟ عیسائیوں سے اس قدر مرعوب ہیں کہ ان کی بات گویا آسمانی صحیفہ ہے۔ اس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مہینہ جون کا ہے جنوری کانٹیں، دلیل پوچھئے کہ کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ ”ساری دنیا کہہ رہی ہے“ اگر ساری دنیا ہی کی بات پر چلنا ہے تو یہ انگریزوں کی ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک نہیں تین ہیں۔ دنیا میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے، بڑی بڑی حکومتیں امریکا، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ سب انہی کی ہیں۔ جب ان کی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک نہیں تین ہیں تو پھر آپ بھی کہنا شروع کر دیجئے کہ اللہ تین ہیں۔ یہ ہے آج کا مسلمان۔

میں سمشی تقویم سے متعلق بتارہا تھا کہ ششی مہینہ ہو یا مشی تاریخ کسی کی کوئی واضح دلیل نہیں، بلکہ اس کے بنانے والے خود بھی تذبذب کا شکار ہیں ہر وقت کاٹ چھانٹ میں لگے رہتے ہیں، سن ۱۵۲۷ء عیسوی سے قبل سال کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا پھر بدلت کر جنوری سے کر دیا، علاوہ ازیں کبھی کہتے ہیں ایک دن بڑھا دو، کبھی کہتے ہیں دوں دن کم کر دو پھر کبھی کہتے ہیں ایک دن بڑھا دو پھر گھٹا دو۔

یورپ والے جو چاہیں دل میں بھر دیں
جس کے سر پر جو چاہیں ثابت دھر دیں

بچتے رہو ان کی تیزیوں سے اکبر
تم کیا ہو خدا کے تین مکروے کر دیں
ششی مہینوں کے دنوں کی تعداد اور ان میں کمی بیشی کا معیار جانے والے بھی
پوری دنیا میں صرف چند افراد ہیں باقی ساری دنیا ان کی انہی تقلید کر رہی ہے، جب
کہ قمری مہینوں کا گھٹنا بڑھنا ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ششی نظام میں اپنے
علم و بصیرت کا کوئی دخل نہیں، جیسے وہ کہہ دیں آپ کو مانا پڑے گا۔

عیسیٰ تقویم کی ابتداء:

عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سن عیسیٰ کی ابتداء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت سے لی جاتی ہے، یہ خیال صحیح نہیں حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کے باطل اور من
گھڑت عقیدہ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھایا
اس وقت سے یہ لوگ سن عیسیٰ کی ابتداء مانتے ہیں۔ پہلے تو یہی سوچیں کہ ان کا
عقیدہ کتنا مضحكہ خیز اور جھوٹ پر بنی ہے۔ ان کے اللہ کو یہودیوں نے سولی چڑھادیا۔
یہودیوں نے عیسائیوں کا اللہ، اللہ کی بیوی کا بیٹا اور اللہ کا بیٹا مار دیا۔ پھر خود عیسائیوں کا
کہنا ہے کہ جب ان کے اللہ کو سولی چڑھایا تو وہ چیخ رہا تھا، ”ایلی، ایلی، ایلی“ ایل عبرانی
زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ جب یہودی عیسائیوں کے اللہ کو سولی چڑھا رہے تھے تو وہ
چیخ رہا تھا کہ ”میرے اللہ مجھے بچا لے، میرے اللہ مجھے بچا لے۔“ خود بھی اللہ ہے پھر
اللہ کو پکار بھی رہا ہے کہ مجھے بچا لجھے، لیکن اللہ نے اللہ کو نہیں بچایا۔ باپ بھی اللہ، ماں
بھی اللہ، بیٹا بھی اللہ، بیٹا سولی چڑھ گیا ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے، ایسے جھوٹ اور
ایسی کھلی حماقت سے ابتداء ہوتی ہے ششی تقویم کی۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی پادری نے سوال کیا کہ ”حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا تو آپ کے نبی کو تو اس کا علم ہو گیا ہو گا کہ

میرے نواسے کو اس بیداری سے شہید کیا جائے گا تو آپ کے نبی نے اللہ سے دعا کیوں نہ کی کہ یا اللہ! میرے نواسے کو ان ظالموں کے قلم سے بچا لے؟" یہ تو پادری نے بطور اعتراض یونہی بات بنا لی کہ تمہارے نبی کو علم ہو گیا ہو گا۔ معرض تو انہا ہوتا ہے اسے اپنے اعتراض سے کام ہوتا ہے خواہ بات بنے یا نہ بنے۔ اس کا اصل جواب تو یہ تھا کہ نبی کوئی عالم الغیب تھوڑا ہی ہے کہ اسے پہلے سے معلوم ہو کر دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ مگر حضرت نانو توی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب اس پادری کے مطابق دیا فرمایا "ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی تھی، کیا آپ کو معلوم نہیں؟" پادری نے کہا "نہیں میرے علم میں تو نہیں" مولانا نے فرمایا کہ "ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ! میرے نواسے کو قتل ہونے سے بچا لے لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا" میرے بیٹے کو ظالم یہودیوں نے سوی چڑھادیا اور وہ مجھے پکارتا ہوا ایلی، ایلی، کہتا ہوا مر گیا حالانکہ وہ میرا بیٹا تھا میں نے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچایا، تیرے نواسے کو کیوں بچاؤں؟ پادری سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا حضرت نانو توی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حاضر جوابی ضرب المثل ہے۔

ایک بار خرگوش ذبح کیا ہوا حضرت کے سامنے رکھا ہوا تھا، ایک کتا آیا اور دور سے خرگوش کو دیکھ کر چلا گیا قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کوئی شیعہ موقع پر موجود تھا اس کی شامت آگئی اس نے حضرت کو چھیڑا، کہنے لگا "مولانا آپ کے شکار کو تو کتنے بھی نہیں کھاتے" شیعہ مذہب میں خرگوش حرام ہے، مولانا نے فوراً جواب دیا کہ "ہاں اسے کتے نہیں کھاتے۔" یعنی اسے مسلمان کھاتے ہیں شیعہ نہیں کھاتے، شیعہ کوہی کتا بخادیا۔ یہ ہے فراست مومن۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی بصیرت عطا فرمائی تھی کیسی بصیرت:

"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله"

تَرْجِمَة: "موسیٰ کی فراست سے بخودہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔"

ایک بزرگ کے پاس ایک ہندو صوفیوں کا سال بس پہن کر مصلی، تسبیح، صوفیوں جیسی بسی قبا پہن کر چلا گیا۔ خود کو صوفی ظاہر کر کے پوچھنے لگا کہ یہ جو حدیث ہے ”اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللہ“ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کرتے کے نیچے جوز نار چھپا ہے اسے نکال پہنچو، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔

دارالعلوم دیوبند کا مقصد تائنسیں :

یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھ لیں اور آگے زیادہ سے زیادہ درودوں تک پہنچائیں وہ یہ کہ سب لوگ دارالعلوم دیوبند سے متعلق عموماً بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک علمی ادارہ ہے۔ علوم نبوت کی حفاظت و بقاء کے لئے اس ادارہ کی بنیاد رکھی گئی یا اس سے بڑھ کر کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیوبند ظاہری علوم کے علاوہ باطنی فوض اور احسان و سلوک کا بھی گھوارہ تھا۔ اس ادارہ کو چلانے والے تمام علماء صرف جیید علماء ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے صاحب نسبت بزرگ بھی تھے۔ بس دارالعلوم دیوبند کا مقصد تائنسیں لوگ بھی سمجھتے ہیں حالانکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا سب سے بڑا مقصد انگریزوں کے خلاف جہاد تھا۔ یہ بات آج کے اکثر علماء کی نظرؤں سے بھی او جھل ہے۔ دیوبند کو صرف علم و تحقیق اور درس و تدریس کا مرکز سمجھتے ہیں۔ احسن الفتاویٰ کی ساتویں جلد جب شائع ہونے لگی تو سمجھے خیال آیا کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ پہلو بھی لوگوں پر ظاہر کرنا چاہئے۔ اس لئے کتاب کے شروع میں جہاں فہرستِ ثتم ہوتی ہے اس سے اگلے ورق پر ایک جانب دارالعلوم دیوبند کے دارالغیر اور دارالحدیث کی پر ٹکوہ عمارت کا نقشہ دیا ہے اور اسی ورق کی دوسری جانب جہاد کا جتنڈا بنا یا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو یقین آجائے کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا اصل مقصد دنیا میں علم جہاد بلند کرنا ہے۔ اسی طرح خانقاہ تھانہ بھون کو اس زمانے کے علماء بھی خانقاہ ہی سمجھتے ہیں

خطبات الرشید

حالانکہ وہ تو جہاد کا مرکز تھا اور جہاد کا آغاز ہی وہیں سے ہوا تھا، امیر المؤمنین حضرت حاجی امداد اللہ اور آپ کے خلفاء حضرت گنگوہی اور حضرت نانو توی رحمہم اللہ تعالیٰ کے علم و عرفان اور بزرگی کے واقعات تو لوگوں میں بہت مشہور ہیں مگر یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جہاد کے لئے امیر المؤمنین منتخب کیا گیا تھا اور آپ کی امارت کے تحت آپ جلیل القدر خلفاء حضرت گنگوہی، حضرت نانو توی اور حضرت حافظ محمد ضامن شہید وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ تصوف اور بزرگی کے واقعات لوگ دچکی سے سنتے اور پڑھتے ہیں۔ ان واقعات کو ذہنوں میں محفوظ بھی رکھتے ہیں مگر جہاد کے موضوع سے چونکہ دچکی نہیں اس لئے جہاد کے واقعات کو نہ کوئی اہمیت دیتے ہیں نہ ہی یاد رکھتے ہیں۔ جذبہ جہاد تو ہر مسلمان کے خیر میں تھا لیکن انگریز مردوں نے یہ جذبہ مسلمانوں کے ذہنوں سے کھرج کرایسا صاف کر دیا کہ وہ جہاد کی تیاری یا جہاد کی گفتگو تو در کنار جہاد سے متعلق کچھ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دل میں جہاد کا خیال آنا بھی گویا ایک گناہ کا وہ سر ہے۔ حضرت نانو توی رحمہ اللہ تعالیٰ صرف مولوی یا صوفی ہی نہیں تھے، بہادر مجاہد بھی تھے۔ شاملی کے جہاد میں حضرت گھسان کی جنگ لڑتے تھوڑی دیر کے لئے میدان جنگ سے ایک طرف کو زرا دم لینے کے لئے کھڑے تھے، انگریزی فوج کا ایک دیوبیکر عفریت قابل سکھ سپاہی جو جسامت میں حضرت نانو توی سے چار گناہ زیادہ تھا اس نے دور سے حضرت نانو توی کو میدان کے کنارے دیکھا تو غصہ میں لپک کر اس طرف آیا اور حضرت نانو توی کو ڈانت کر کہا کہ ”تم نے بہت سرا بھارا ہے اب آ! میری ضرب کا جواب دے“ پھر تکوار بلند کرتے ہوئے چلا یا کہ ”یہ تیغہ تیرے لئے موت کا پیغام ہے۔“ وہ دو دھارا تیغہ پوری قوت سے اٹھا کر حضرت نانو توی پر چلانا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا ”باتیں کیا بنارہا ہے اپنے پیچھے کی تو خبر لے“ اس نے مذکور پیچھے کی

طرف دیکھا، اس کا مرزا تھا کہ آپ بجلی کی طرح تڑپے اور اس کے دامیں کندھے پر تکوار کی ضرب اس قوت سے لگائی کہ تکوار دامیں کندھے کو کاٹ کر گزرتی ہوئی بائیں پاؤں پر آ کر رکی، اس پاہی کا عفرتی جسم اس طرح خاک پر پڑا ہوا تھا کہ سر سے پاؤں تک دلکش رے ہو کر آدھا ادھر اور آدھا ادھر گرا ہوا تھا۔ آپ تھک کر ذرا دم لینے کے لئے کھڑے تھے اس واقعہ سے تازہ دم ہو گئے۔ آپ اس مردار پر پاؤں رکھتے ہوئے پھر صرف قال میں آگئے۔ یہ ہیں مولانا قاسم نانو توی رحمہ اللہ تعالیٰ و شمنوں کی گرد نیں اڑانے والے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چپ چاپ سے صوفی تھے۔ یاد رکھئے! دارالعلوم دیوبند کی بنیاد صرف درس و تدریس کے لئے نہیں رکھی گئی تھی بلکہ اصل مقصد احیاء جہاد تھا۔ دارالعلوم کے تھانوں اسلجہ کے چھپے ہوئے ذخادر تھے۔

میں مشتملی تقویم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کی ابتداء عیسائیوں کے اس من گھڑت عقیدہ سے ہوئی کہ یہودیوں نے ان کے اللہ کو سولی چڑھا دیا۔ مسلمان اس حقیقت کو جانے بغیر ان کی تقلید میں انگریزی تاریخیں استعمال کر رہے ہیں۔ مشتملی تقویم کی بنیاد تو اس کفریہ عقیدہ کی یادگار ہے، پھر ششی سال کے مہینوں اور دنوں کے نام بھی شرکیہ عقاائد پر مبنی ہیں، پوری دنیا میں مسلم اور مشہور جواناں یکلوپیڈیا ہیں ان میں یہ حقیقت تحریر ہے کہ مہینوں اور دنوں کے نام مشرکین کے دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں کہ اس معینے میں اور اس دن میں اس مخصوص دیوی یا دیوتا کی عبادت کی جائے گی۔

مہینوں کی تفصیل:

- ① جنوری، روی دیوتا "جانس" کے نام پر۔
- ② فروری، قدمیم اطالیہ کے دیوتا "فیرنس" کے نام پر۔
- ③ مارچ، روم کے دیوتا "مارس" کے نام پر۔

- اپریل، لاطینی لفظ "اپری رائز" سے لیا گیا ہے، بمعنی کھلانا۔
- مئی، "ماہ" دیوی کے نام پر۔
- جون، لاطینی لفظ "جونیس" سے لیا گیا ہے، بمعنی جوانی، ایک قول یہ بھی ہے کہ روم کی دیوی "جونو" کے نام پر ہے۔
- جولائی، روم کے بادشاہ "جولیس سیزر" کے نام پر۔
- اگست، روم کے پہلے بادشاہ "آگسٹس" کے نام پر۔
- ستمبر، لاطینی لفظ "سپتیم" سے لیا گیا ہے، بمعنی سات۔
- اکتوبر، لاطینی لفظ، "آکتوو" سے لیا گیا ہے۔ بمعنی آٹھ۔
- نومبر، لاطینی لفظ "نووم" سے لیا گیا ہے۔ بمعنی نو۔
- دسمبر، لاطینی لفظ "دیسیم" سے لیا گیا ہے۔ بمعنی دس۔

رومی سال مارچ سے شروع ہوتا تھا اس لئے ستمبر سا توں، اکتوبر آٹھواں، نومبر نواں اور دسمبر دسوال۔

دنوں کی تفصیل:

- سندے، سورج کا دن۔
- منڈے، چاند کا دن۔
- شوڑے، رومن دیوتا مرخ کا دن۔
- ویزڑے، اوڑن دیوتا عطارد کا دن۔
- تھرسڈے، مشتری کا دن، یہ اوڑن کا بیٹا ہے اور سب دیوتاؤں کا بادشاہ ہے۔
- فرائیڈے، دیوی فرگ کے نام پر، یہ اوڑن کی بیوی ہے، زہرہ کا دن۔
- سیئرڈے، دیوتا کرونوس، زحل کا دن۔

ہندی نام، اتوار، سوموار، منگل، بده، بہپت، شکر، سپتہ بھی سندے منڈے

وغیرہ لاطینی الفاظ کے تراجم ہیں، اس تحقیق کے مطابق سنڈے منڈے وغیرہ کی طرح اتوار سموار وغیرہ کا استعمال بھی قبیح ہونا چاہئے مگر چونکہ سنڈے منڈے کے اصل معنی (سورج کا دن، چاند کا دن) سب جانتے ہیں اور اتوار سموار وغیرہ کے اصل معنی معروف نہیں اس لئے ان ہندی ناموں کے الفاظ میں قباحت نہیں کم ہے۔

ہفتہ کی ابتداء و انتہاء:

اسلام، یہودیت اور نصرانیت تنہوں مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے ابتدائی چھ دن دنیوی کاموں کے لئے پیدا فرمائے ہیں اور ساتواں دن دنیوی کاموں سے تعطیل، راحت و آرام اور عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے، آگے ان دنوں کی تعمیں میں اختلاف ہے، اسلام میں دنیوی مشاغل کے چھ دنوں کی ابتداء ہفتہ کے دن سے ہوتی ہے اور ساتواں دن تعطیل اور عبادت کے لئے جمعہ ہے، یہودی مذہب میں چھ دنوں کی ابتداء اتوار سے اور ساتواں دن تعطیل اور عبادت کے لئے ہفتہ کا دن ہے، عیسیٰ مذہب میں چھ دنوں کی ابتداء پیغمبر کے دن سے اور تعطیل اور عبادت کے لئے اتوار کا دن ہے، مذہب عیسیٰ میں اتوار کا دن شروع ہی سے مبارک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر ہی فوت ہو گئے مگر تیرے دن جب کہ اتوار کا دن تھا آسمان پر چڑھ گئے۔

حاصل یہ ہوا کہ اتوار کے دن چھٹی کرنا عیسائیوں کا مذہب ہے اور ہفتے کے دنوں کی ابتداء اتوار سے کرنا یہودیوں کا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تحقیقت سمجھنے کی عقل عطا فرمائیں۔

غرض یہ کہ سال کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے کون سا مہینہ کب شروع ہوتا ہے اس کے دن کتنے ہیں کوئی بات بھی کسی دلیل پر جنی نہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ شمشی تقویم بالکل بے سود ہے اور اس کی قطع و برید بالکل بے معنی ہے، بلاشبہ اس میں کئی فائدے

ہیں اور اسے دائی بنا نے کے لئے قطع و برید بھی ناگزیر ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اس پر کئی وجہ سے قمری تقویم کو ترجیح اور فویت ہے، اس کے باوجود آج کا مسلمان مخفی انگریز کی محبت میں ششی تقویم کو ترجیح دے رہا ہے۔

میں نے یہ بحث شروع تو کردی مگر معلوم نہیں کس قوم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اگر بلکہ مجھے میں نہیں آرہی تو اتنی دعا تو کرہی مجھے کہ یا اللہ! اپنی محبت عطا فرمادے مجھے، بس یہ ایک دعا قبول ہو گئی تو اس سے سارا کام بن جائے گا۔

قری نظام:

اللہ تعالیٰ نے ششی و قمری دونوں نظام پیدا فرمائے ہیں اور دونوں میں فائدے رکھے ہیں، ارشاد ہے:

(الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسِنَانِ ﴿٥٢﴾) (ب ۵۲)

تَرْجِيمَهُ: ”سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں۔“

مگر قمری حساب بہت آسان ہے اور اس میں فائدے زیادہ، اس کے برعکس ششی تقویم بہت مشکل ہے اور اس میں فائدے نسبتاً کم، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمانے کے حساب کا منازل قرے تعلق بیان فرمایا، ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيَوْمَيْنِ وَالْحِسَابَ﴾ (ب ۱۱ - ۵)

تَرْجِيمَهُ: ”اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔“

اسی لئے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمودہ صرف قمری حساب ہی چلتا رہا، ہزاروں سال بعد ششی تقویم کسی ایک انسان نے بنائی

جو مسلسل قطع و برید کا شکار ہے اور قری حساب جیسے دنیا کی ابتداء سے شروع ہوا قیامت تک ویسے ہی صحیح و سالم قائم و دائم رہے گا، ہر کس و ناکس اپنے مشاہدہ سے اس کا انتابع کرتا چلا آیا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا، اس لئے اسلام اور عقل سلیم دونوں کا فیصلہ تو یہ ہے کہ عام معاملات میں قری حساب استعمال کیا جائے اور شمشی تقویم سے صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کام نکالا جائے، مگر انگریز کے عاشق مسلمانوں کا حال اس کے برعکس ہے کہ عام معاملات میں صرف شمشی تقویم استعمال کرتے ہیں اور قری حساب صرف رمضان اور عید کے لئے۔

شمشی تقویم کے مقابلہ میں قری حساب کے مہینوں اور تاریخوں کی تعین کا مسئلہ ایسا آسان ہے کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں اس لئے اس کا مدار چاند دیکھنے پر ہے۔ چاند کو نکلتے، ذوبتے ساری دنیا دیکھتی ہے اگر کسی جگہ چاند نظر نہ آیا تو دوسرے علاقے سے معلوم کیا جاسکتا ہے، اس طرح پتا چل جائے گا کہ پہلی تاریخ ہے یا نہیں۔ پاگل سے پاگل احمق سے احمق، خواہ وہ ساری عمر ثماڑھی کھاتا رہا ہوا سے بھی پتا چل جائے گا کہ اگر چاند ہو گیا تو پہلی تاریخ ہے۔

اگر کسی کو اشکال ہو کہ کبھی باول یا غبار کی وجہ سے چاند میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا حل بھی شریعت میں موجود ہے۔ اس بارہ میں حکومت جو فیصلہ کر دے ہم اس کے پابند ہیں بشرطیکہ وہ حکومت ایسا اپور کے راجہ کی نہ ہو۔ اس کا فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ اگر اسلامی حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ چاند ہو گیا تو ہم یہی کہیں گے کہ ہو گیا خواہ چاند نہیں نظر نہ آیا ہو۔ اگر حکومت کا فیصلہ ہے کہ چاند نہیں ہوا تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں ہوا، ہم فیصلے کے پابند ہیں۔ اگر یہاں کوئی اشکال کرے کہ آپ نے تو ایسے موقع پر آنکھیں بند کر کے حکومت کا فیصلہ تسلیم کر لیا لیکن اگر حکومت کا فیصلہ خلاف واقع ہو تو کیا ہو گا؟ مثلاً حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ چاند ہو گیا مگر درحقیقت نہ ہوا ہو یا اس کے برعکس

حکومت نے چاند نہ ہونے کا فیصلہ کیا مگر چاند ہو چکا ہو تو روزوں، عید اور دوسرے احکام کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب آسان ہے کہ ہمیں ہمارے اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ حکومت کا فیصلہ قبول کرو۔ حکومت کا فیصلہ بالفرض حقیقت کے خلاف ہو تو بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم نے حکومت کا فیصلہ مان کر اللہ کے حکم کی تعینی کی اور سبکدوش ہو گئے۔ چاند کے اشتباہ کی صورت میں ہمارے اللہ نے ہمارے لئے یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ تمہارے فیصلے تمہارا پوپ کرتا ہے، تم اپنے پوپ کے مکوم ہم اپنے اللہ کے مکوم۔ یہ اشتباہ والی بات تو شاذ و نادر ہے ورنہ چاند جب ہوتا ہے نظر آہی جاتا ہے۔ اسلامی تاریخوں کا معاملہ آسان ہے۔ جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلی تاریخ سے ہی ساری دنیا کو پتا چل جاتا ہے۔ اگر کسی نے پہلی کا چاند نہیں دیکھا تو بھی درمیانی تاریخوں کا چاند دیکھ کر یہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ یہ چونھی کا چاند ہے یا پانچویں تاریخ کا یا یہ کہ نویں یا دسویں کا اور چودھویں کا چاند دیکھ کر تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چودھویں کا چاند ہے۔ غرض قمری تاریخ معلوم کرنے کے لئے کسی گھرے علم و بصیرت کی ضرورت نہیں ہر شخص اندازہ لگاسکتا ہے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، شہری ہو یا دیہاتی بلکہ مسلمان ہو یا کافر، کسے باشد۔

یہ تو تھا قمری مہینے کی تاریخ متعین کرنے کا طریقہ لیکن خود مہینہ کی تعین کیسے ہو کہ یہ محرم ہے یا صفر؟ مشی مہینوں کا تو بتا چکا ہوں کہ کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ یہ جون نہیں جنوری ہے تو کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ہاں یہی سائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ پوپ کے فیصلہ کے خلاف ہے۔ اب سنئے اسلامی مہینوں کی تعین سے متعلق، یہ تعین دنیا کے کسی پوپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ارشاد ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الْكَوَافِرَ وَالْأَرْضَ﴾ (ب-۱-۳۶)

ترجمہ: "مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس بارہ مہینے ہیں، اللہ کے حکم میں

جس دن پیدا کئے آسمان اور زمین۔“

اسلام سے پہلے کفار اور مشرکین مہینوں کو اپنی مصلحت کی خاطر آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے اس سال محرم ابھی نہیں آیا وہ مہینوں کے بعد آئے گا، کبھی پیچھے کر دیتے مشرکین نے سارا نظام گڑ بڑ کر رکھا تھا۔ بالآخر قرآن نے اس مشرکانہ رسم کی بخ کنی کی، فرمایا:

﴿إِنَّمَا الظَّيْنَةُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفَّارِ﴾ (ب-۱۰-۳۷)

ترجمہ: ”یہ ہشادینا کفر میں اور ترقی ہے۔“

مہینوں کو اپنی جگہ سے ہشادینا، انہیں آگے پیچھے کر دینا، ان کے کفر و انکار میں مزید ترقی کا سبب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتہ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس دن سے ان مہینوں کا نظام اور ترتیب قائم فرمادی کفار اس نظام کو بدلتے رہے مگر آج اللہ تعالیٰ نے اس اصل اور صحیح نظام کو قائم فرمادیا ہے۔ اب یہ نظام ہمیشہ کے لئے یونہی قائم رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ اس بحث کا خلاصہ تین باتیں ہیں:

❶ اول یہ کہ سن عیسوی کی ابتداء کہاں سے ہوئی؟ عیسائی کہتے ہیں اس دن سے جس دن یہودی ظالموں نے اللہ بن اللہ کو سولی چڑھا دیا۔ کوئی ہم سے پوچھا کہ تمہارے سن بھری کی پنیاد کہاں سے ہوئی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرت فرمائی۔

❷ دوسرا بات یہ کہ ہرسال کی ابتداء کس مہینہ سے ہوتی ہے؟ وہ نہیں گے کہ جنوری سے مگر اس کا شوت؟ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پوپ کا فیصلہ ہے۔ سن بھری کے مہینوں کی کیا ترتیب ہے: تو ہمارا جواب ہے محرم، صفر ان۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمہارا ایمان پوپ کے فیصلہ پر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر۔

تمیری بات یہ کہ تاریخ کی تعمین کی کیا دلیل ہے؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ آج جوں کی دو تاریخ ہے مگر ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جوں کی دونہیں جنوری کی پہلی ہے۔ تمہارے پاس اس دعویٰ کو رد کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ یہ بھی پوپ کا فیصلہ ہے۔ وہ جو کچھ کہہ دے اسی پر ایمان ہے۔ جب چاہے دس دن گھنادے جب چاہے بڑھادے۔ جب چاہے ہمیشہ اٹھائیں کا بنا دے جب چاہے انتیس کا۔ بس اپنادین، ایمان بلکہ عقل و فہم سب پوپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ قمری تاریخ کا مدار ایسی اندھی تقلید پر نہیں اس کا تعلق تو مشاہدہ سے ہے اگر کوئی پوچھے کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے تو اس سے کہیں کہ چاند کی طرف دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون سی تاریخ ہے۔ اگر پہلی کا چاند نظر آگیا مگر کوئی معاند تسلیم نہیں کر رہا تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں کان سے پکڑ کر اسے دکھادیں اگر پھر بھی نظر نہ آئے تو علاج کے لئے آنکھوں کے کسی ڈاکٹر کے پاس بھجوں دیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ آئندہ کے لئے انگریزی تاریخ لکھنا چھوڑ دیجئے اسلامی تاریخ لکھنے کی عادت ڈالئے۔ البتہ بوقت ضرورت اسلامی تاریخ کے ساتھ انگریزی تاریخ لکھنے میں کچھ حرج نہیں۔

انگریزی سال شروع ہونے پر خوشی منانا:

انگریزی سال شروع ہونے پر مسلمانوں کا خوشیاں منانا اور ایک دوسرے کو مبارک باد دینا جائز نہیں۔ ایک تو اس لئے کہ یہ کفار کا اپنا مخصوص عمل ہے کسی مسلمان کے لئے کفار کی تقلید جائز نہیں، حدیث میں ہے:

”من تشبه بقوم فهو منهم“ (احمد، ابو داود)

ترجمہ: ”جو شخص کسی قوم سے تباہ کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔“

... رہ بہ ہے کہ عقتل کی رو سے بھی اس خوشی کا کوئی جواز نہیں۔ یہودی تو

شاید اس لئے خوشی مناتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں کے اللہ کو سولی چڑھا دیا۔ عیسائیوں کی خوشی کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا، شاید وہ اس پر خوش ہوتے ہوں کہ ان کا اللہ بن اللہ سولی چڑھ گیا اور سب کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، لیکن مسلمان کس بات کی خوشی منائیں؟ خود سوچئے ان کے خوشی منانے اور مبارک باد دینے کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ یہ بھی یہودی و نصاری کے اس عقیدہ سے متفق ہیں اس لئے ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کی تائید کر رہے ہیں۔ سوچئے! یہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہی بات ہے کہ ساری دنیا جو کام کر رہی ہو آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔

یہ اللہ کے بیٹے کو سولی چڑھانے کا عقیدہ بھی کسی ایک آدھ فرد کا نہیں بلکہ آج کی متدن دنیا میں اکثریت کا یہی عقیدہ ہے آپ کہاں تک ساری دنیا کا ساتھ دیں گے۔ یہ تو وہی قصر ہو گیا کہ ایک خانقاہ میں کوئی درویش چلا گیا۔ وہ گدھے پر سوار تھا پہلے زمانے میں گدھے کی سواری عام تھی۔

اس ضمن میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لجئے، بہت سے لوگ گناہ تو چھوڑتے نہیں لیکن سنتوں کے بڑے عاشق ہیں۔ ایک طرف تو پوری زندگی نافرمانیوں سے الی ہوئی، شکل و صورت تک نافرمانوں کی لیکن دوسری جانب یہ جنون کہ کوئی مستحب کام چھوٹنے نہ پائے۔ سنتیں بھی وہ نہیں جن کا تعلق روزمرہ کی عبادت سے ہے بلکہ میمھی میمھی سنتیں جن سے دیکھنے والے پر بھی رعب طاری ہو کہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ دو تین روز پہلے فون پر کسی نے بتایا کہ ایک حدیث ہے کہ ”جب مدینہ منورہ جاؤ تو شاپنگ کرو“ میں پوچھا کہ ”شاپنگ کیا ہوتی ہے؟“ کہنے لگے ”کچھ خریدو“ یعنی حاجی یا عمری جب مدینہ منورہ جائے تو وہاں کچھ خریداری کرے۔ میں نے کہا یہ حدیث تو ہے یا نہیں، کسی نے گھر بیٹھے بنالی، اس پر تو بہت عمل ہو رہا ہے لیکن جہاں یہ ہے کہ ڈاڑھی منڈوانا، کٹوانا فتن ہے ایسا کرنے والا فاسق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ یہ باغیوں والی صورت لے کر مدینہ پہنچ جاتا ہے اسے شرم نہیں آتی، اسی طرح

پردہ سے متعلق کتنی آیات اور احادیث ہیں۔ دیور، جیٹھ اور زادوں سے پردہ نہ کرنے والی عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی ہے۔ اگر اسلامی حکومت آجائے تو ایسے باغیوں کا حکم یہ ہے کہ انہیں صرف تین کی مہلت دی جائے اگر بغاوت سے باز آ جائیں تو تحریک و رنہ ان کی گرد نیں اڑا دی جائیں۔ اللہ کرے کہ اسلامی حکومت جلد آ جائے، لیکن لوگ ایسی اسلامی حکومت چاہیں گے کہاں؟ اگر یہ باغی مسلمان چاہتے تو اسلامی حکومت کب کی آگئی ہوتی۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ایسی حکومت آگئی تو سب سے پہلے انہی کی گرد نیں اڑائی جائیں گی۔ آج کے مسلمان کو عمل کرنے کے لئے یہی حدیث یاد آتی ہے کہ مدینہ منورہ جا کر شاپنگ کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر وہ شدید و عدید یہ یاد نہیں آتیں جو قرآن و صحیح احادیث میں آئی ہیں اسی لئے بغاوت اور نافرمانی سے باز نہیں آتے۔

آج کے مسلمان کا ذوق:

آج کے مسلمان کو میشی میشی سنتیں اور وہ جن سے بزرگی کا رعب پیدا ہو، بہت پسند ہیں اور وہ ہر موقع پر یاد رہتی ہیں۔ مثلاً کرتال مباہواں کے نیچے شلوار کی بجائے ٹنگی ہو۔ ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرا میں لمبی تسبیح ہو، بالوں میں تیل سکنکھا، آنکھوں میں تین تین سلالی سرمہ ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی ساری سنتیں اسے از بر ہیں۔ اس سے پوچھا جائے کہ گدھے کی سواری سنت نہیں؟ اس پر کیوں سوار نہیں ہوتے؟ بات اس پر چلی کہ ایک درویش گدھے پر سوار کسی خانقاہ میں پہنچ گیا، رات و ہیں گزاری۔ ذاکرین جہری ذکر میں مشغول تھے۔ ذکر کرتے کرتے سب پر حال طاری ہو گیا۔ یک زبان ہو کر پکارنے لگے:

خربرفت و خربرفت و خربرفت

خربرفت و خربرفت و خربرفت

اول گدھے والے صوفی صاحب نے یہ منظر دیکھا تو انہیں بھی جوش اٹھا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر یہ بھی شروع ہو گئے: ”خربرفت و خربرفت و خربرفت“ قصہ یہ ہوا کہ خانقاہ والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ یہ لوگ دل کے توبادشاہ ہوتے ہیں بھوک سے مر جائیں تو بھی کسی سے سوال نہ کریں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی خانقاہ میں کہیں سے گدھا آگیا ہے اور کوئی مالک بھی نظر نہیں آ رہا تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ اسے لے جا کر بیچا اور کچھ گوشت اور کھانے پکانے کا سامان لے آئے۔ کھانی کر ذکر کرنے بیٹھے تو ایک تو گوشت کی گرمی اور اوپر سے ذکر کی مستقیم شروع ہو گئے: ”خربرفت و خربرفت و خربرفت“..... ”گدھا آگیا گدھا آگیا گدھا آگیا“ یعنی ہمارے پیٹ میں پہنچ گیا۔ جن کا گدھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے: ”خربرفت و خربرفت.....“ صبح ہوئی تو خادم سے کہا کہ ”گدھے پر پالان کھو چلیں۔“ خادم نے کہا: ”کون سا گدھا؟“ آپ کا گدھا تورات ہی یہ لوگ کھانی گئے۔ صوفی صاحب نے پوچھا کہ ”تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟“ خادم بولا کہ ”آپ تو خود ہی رات ان کے ساتھ کہہ رہے تھے: ”خربرفت.....“ میں تو سمجھا کہ آپ نے خود ہی گدھا ان کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا: ”نہیں مجھے تو کچھ پتا ہی نہ تھا وہ سارے ایک بات کہہ رہے تھے ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی شروع کر دیا۔“

بات سمجھ میں آگئی؟ ان انگریزی مہینوں اور تاریخوں کا بھی یہی قصہ ہے کہ جو ساری دنیا کہہ رہی ہے اسی کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہیں۔ ایک بار پھر اس پر تعبیر کر دوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ علماء، جہلاء سب انگریزی تاریخوں کے دلدادہ ہیں اسلامی تاریخ کوئی نہیں لکھتا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ عیسائیوں کی محبت ہے۔ سب انگریز کی محبت میں گرفتار ہیں۔ کوئی شعوری طور پر کوئی لاشعوری طور پر۔ انگریزوں سے اور بالخصوص امریکیوں سے تو مسلمان اتنے متاثر اور اتنے مرجحوب ہیں کہ اس شخص کے بقول امریکا میں مسلمان خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے

ہیں بہت شرمندہ ہیں کہ مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا ہوئے کسی امریکی کے گھر کیوں پیدا نہیں ہوئے۔

امریکا کی حالت زار:

لاہور سے ایک اخبار لکھتا ہے ”خبریں“ اس میں امریکا کی عجیب عجیب خبریں جچتی ہیں، جو بڑی حیرت انگیز اور مضحکہ نیز ہوتی ہیں۔ دیسے تو میں اخبار پڑھنے کو منع کرتا ہوں لیکن اس اخبار کو پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس قسم کی خبریں پڑھ لیا کریں تاکہ امریکا کا رب دل سے نکل جائے۔ حقیقت سے آگاہی ہو کہ وہاں کس قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ امریکا کے عشق میں جو مسلمان مرے جا رہے ہیں ان تک بھی یہ خبریں پہنچائیں۔ امریکا کا نام لیتے ہی ان کی رالیں نکلنے لگتی ہیں۔ انہیں ایسا مزا آتا ہے کہ کچھ نہ پوچھتے۔

سے سروز سروز سروز سروز

برا لطف دیتا ہے نام سرور

میں خود اخبار نہیں پڑھتا لیکن ان لوگوں سے پوچھ لیا کرتا ہوں خاص طور پر امریکا کی خبر ضرور پوچھ لیتا ہوں کہ وہاں کتنے لوگ مرے؟ کوئی طوفان، کوئی زلزلہ آیا یا نہیں؟ یہ لوگ وہاں جانے کے لئے ترس رہے ہیں اور وہاں تباہی پھی ہوئی ہے، نہ دین ہے نہ دنیا۔ ان کی مکمل تباہی مجاہدین کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ابھی ان کی تباہی آئی۔ آپ بھی جہاد کے لئے تیار ہیں۔ مگر آج کل کے مسلمانوں کا حال وہی ہے جو قرآن مجید میں ہوئی علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا گیا ہے۔ انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی تو بولے:

”اے موی تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو بھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔“

جب میں امریکا کی تباہی و بر بادی کی بات کرتا ہوں تو لوگ بہت خوش ہوتے

ہیں اور کہتے ہیں انشاء اللہ! اگر چاہتے یہ ہیں کہ یہ کام جہاد کے بغیر ہی ہو جائے، جہاد کے بغیر کیسے ہو گا؟ کوئی دھماکا ہو یا زلزلہ آجائے یا اور کوئی آسمانی آفت آجائے اور انہیں تباہ کر دے، یا آخری علاج یہ کہ میں علیہ السلام آکر ان کا صفائیا کر دیں، بس انہیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ ایک بات پوچھتا ہوں ذرا سوچ کر بتائیے کہ جب حضرت میں علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ کا کیا حال ہو گا؟ ان کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کریں گے یا کہیں کسی جگہ چھپنے کی کوشش کریں گے؟

بات انگریزی کی چل رہی تھی کہ اپنی تحریر اور گفتگو میں انگریزی تاریخ یا انگریزی الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیجئے خاص طور پر علماء کے لئے انگریزی الفاظ کا استعمال بڑے عیب کی بات ہے۔ یہاں ایک مولوی صاحب نے صفحات پر انگریزی میں نمبر لگائے دیکھ کر سخت تعجب ہوا۔ دفتر سے معلوم کیا کہ یہاں کون انگریز آگیا جو علمی تحریروں میں بھی انگریزی استعمال کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں مولوی صاحب انگریزی پڑھے ہوئے ہیں یہ ان کی حرکت ہے۔ ان پر مقدمہ چلا، پوچھ گھٹہ شروع ہوئی کہ ایک تو آپ عالم ہیں دوسرے عربی اردو ہندسے لکھنا بھی آپ جانتے ہیں پھر بھی آپ نے انگریزی میں کیوں لکھا؟

ثماڑکھانے کا نقصان:

ماشاء اللہ! یہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں خاص طور پر جب سے ثماڑکھانے سے توبہ کی ہے بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ آج ایک شخص نے فون پر پوچھا کہ "کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ثماڑکھانا حرام ہے؟" میں نے سمجھایا کہ میں نے اس قسم کا فتویٰ تو نہیں دیا مگر اس کے نقصان تفصیل سے بتائے ہیں۔ سائنھ فیصل کینسر ثماڑ سے پیدا ہو رہا ہے۔ گردے ثماڑ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ عقل کا دیوال ثماڑ سے نکل رہا ہے۔ لوگ تو پہلے ہی پاگل ہو رہے تھے ثماڑ نے رہی ہی عقل بھی سخ کر کے پاگلوں کی شرح میں

اضافہ کر دیا۔ نفیاتی ہسپتال ان سے بھرے پڑے ہیں۔ پہلے پورے صوبہ سندھ میں صرف ایک ہسپتال تھا ”گدو بندر“ حیدر آباد میں، اب تو نہ معلوم کتنے پاگل خانے بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان بتارہے ہیں کہ ٹماٹر کھانے کے یہ یہ نقصان ہیں۔ ابھی دو سال پہلے امریکی سائنسدانوں کا اخباروں میں بیان آیا کہ سائٹھ فیصلہ کنسرٹماٹر کھانے سے ہورہا ہے۔ یورپ کے سائنسدان بھی جیخ رہے ہیں کہ اس سے بچو۔

بات اس پر چلی کہ ہمارے دارالافتاء کے لوگ ماشاء اللہ! بہت عقل مند ہیں۔ خاص طور پر جب سے ٹماٹر کھانے سے توبہ کی ہے عقل بہت بڑھ گئی ہے۔ جب کسی سے باز پرس ہوتی ہے تو عقل کی بات کر کے جلدی چھوٹ جاتا ہے۔ ان مولوی صاحب سے باز پرس ہوئی کہ اگر یہی ہند سے کیوں لکھے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی چلنے مقدمہ ختم ہو گیا، یہ ہے عقل مندی کا جواب تاویل کی بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ غلطی ہو گئی بھول گئے یہ کہتے ہی ایک لمحہ میں چھوٹ گئے۔

گھر کی شہادت:

دارالافتاء کے ابتدائی دور میں پی آئی اے کے چیف نیوی گیئر یہاں قریب ہی رہتے تھے۔ دارالافتاء میں اذان دیا کرتے تھے۔ موقع کی مناسبت سے ان کی دو تین باتیں سن لجھئے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ جہاں کہیں پرواز پر جاتا ہوں کسی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، کوئی فضائی میزبان میرے قریب آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھ سے دور رہو میرے قریب بھی نہ آنا کیونکہ میرے اندر کرنٹ ہے کرنٹ، دور رہو ورنہ کرنٹ لگ جائے گا۔

دوسری بات یہ کہ وہ یہاں اذان دیا کرتے تھے اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ اپنے تعارف کے لئے چیف نیوی گیئر نہیں بتاتے تھے بلکہ دارالافتاء کا

مودن بتاتے تھے، دیکھنے کس قدر کمال کی بات ہے کہ لوگ تو امام کو ذلیل سمجھتے ہیں، مودن تو پیچارہ امام سے بھی مکتر ہوتا ہے اسے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔

ان کی تیسری بات جس کی وجہ سے وہ یاد آہے انگریزی خواں لوگوں سے متعلق ہے۔ وہ خود اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے تو گویا یہ گھر کی شہادت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انگریزی پڑھنے والا، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں وقت گزارنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ بن جائے گمراں کا داغ نہیں جاتا، بے دینی کا جو داغ پڑ گیا وہ آخر وقت تک نہیں مٹا خواہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ بن جائے۔ انہوں نے اس کی مثال دی کہ کسی کے جسم پر کوئی گھرا زخم ہو جائے تو علاج کروانے سے زخم تو تھیک ہو جائے گا مگر زخم کا داغ بھی نہیں جائے گا۔ زخم مندل ہو جائے گا، تکلیف جاتی رہے گی، صحت ہو جائے گی لیکن داغ نہیں مٹے گا وہ آخر وقت تک رہے گا۔ ان کی یہ بات اس پر یاد آئی کہ مولانا صاحب کو یہاں دارالافتاء میں آئے ہوئے پانچ چھ سال ہو گئے، ماشاء اللہ! نیک اور صائغ ہیں ان کے حالات بہت چھے ہیں مگر وہی بات کہ انگریزی جو ایک بار پڑھ چکے انگریزی ماحول کی ہوا کھا چکے تو اس کا داغ مٹنے کا نام نہیں لیتا۔ کہنے کی حد تک تو مسلمان کو عربی زبان سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑی محبت ہے مگر لکھتے وقت یہ ساری محبت دل سے نکل جاتی ہے اور انگریزی یاد آ جاتی ہے۔ چلنے اگر عربی بھول گئے تو اپنی زبان تو یاد رہ جاتی، اپنی زبان بھی بھول جاتا ہے، نہ عربی میں لکھتا ہے نہ اردو میں بس اس کا ہاتھ انگریزی ہی کی طرف بڑی روائی سے چلتا ہے، نہ قرآن کی زبان یاد آتی ہے، نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، نہ اہل جنت کی زبان، نہ ہی اپنے گھر کی زبان، وہی بات ہے کہ انگریزی خواں کتنا ہی بڑا ولی اللہ بن جائے تو بھی انگریزی کا داغ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ داغ بھی مٹا دے، اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ یا اللہ! جن مسلمانوں پر گناہوں کے داغ پڑ گئے ہیں تو اپنی رحمت سے سب کے داغ اتاردے۔ سب کو پاک و صاف فرمادے۔

میں بار بار انگریزی کے استعمال سے اس لئے منع کرتا ہوں کہ انگریزی وہی شخص لکھتا بولتا ہے جس کے دل میں انگریزی کی محبت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی محبت ہو گی وہ اللہ تعالیٰ کا دوست تو نہیں بن سکتا۔ آپ مسلمان ہیں اپنے اعمال، احوال اور اقوال سے یہ ظاہر کریں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دستی اور دشمنی کوئی دھکی چھپی چیز نہیں ہوتی، اگر اللہ کے دوستوں سے آپ کی دوستی اور اس کے دشمنوں سے آپ کی دشمنی ہے تو اپنے طرز زندگی سے اس کا انہصار کجھے۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ آپ اپنی تحریر و تقریر میں عربی الفاظ کثرت سے استعمال کریں، چلئے اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان کے الفاظ استعمال کریں۔ آخر آپ کی اپنی بھی تو کوئی زبان ہے۔ مگر وہ رے مسلمان! کیا کہنے تیری مسلمانی کے، نہ قرآن کی زبان بولتا ہے، نہ اپنی زبان، بولے گا تو صرف دشمن کی زبان "انگریزی۔"

قرآن سے بے رخی:

قرآن کے ساتھ آج کل کے مسلمان کا یہ معاملہ ہے کہ قرآن کے معانی و مطالب تو الگ رہے اس کے الفاظ بھی اس کی زبان پر نہیں چڑھتے۔ بعض لوگ اپنی کوئی پریشانی بتا کر کچھ پڑھنے کے لئے پوچھتے ہیں تو میں **(حَسْبَنَا اللَّهُ وَلَا يَنْعَمُ الْوَحْيُ كِيلُ ﴿٢٣﴾)** بتا دیتا ہوں مگر وہ یہ بہت بلکے پھلے دو تین لفظ بھی نہیں کہہ پاتے، بار بار کہلوانے سے بھی زبان پر نہیں چڑھتے تو مجبور ہو کر وظیفہ اور مختصر کر دیتا ہوں صرف "حَسْبَنَا اللَّهُ" ہی پڑھ لیا کریں، مگر وہ کوشش کے باوجود یہ بھی نہیں کہہ پاتے، یہ ہے آج کے مسلمان کا قرآن کے ساتھ سلوک۔

ہر پریشانی کا اعلان:

میں ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لئے دونخے بتایا کرتا ہوں:

- ❶ میرا وعظ "ہر پریشانی کا علاج" پڑھا کریں۔
- ❷ ہر نماز کے بعد تین بار ﴿حَسْبَنَا اللَّهُ وَلَا يُغْنِمُ الْوَحْيَلُ﴾ (ب، ۴) (۱۷۲) پڑھیں۔

یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے غزوہ احمد میں انتہائی سخت ابتلاء کی حالت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ الفاظ کہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی۔ میں یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنے کو اس لئے بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد دعا، قبول ہوتی ہے، دوسرا مصلحت یہ بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص نماز کا پابند نہیں تو شاید اپنی اس ضرورت سے پابند ہو جائے۔ یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اصل نعمت تو وہی ہے جو وعظ "ہر پریشانی کا علاج" میں بتایا ہے اس کے بغیر کوئی دعا، کوئی وظیفہ اور کوئی تدبیر کا گرفتار نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے جس کا اعلان قرآن اور حدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔

(وعظ "ہر پریشانی کا علاج" میں حضرت اقدس دامت برکاتہم نے قرآن، حدیث، عقل اور واقعات و تجارب سے یہ ثابت کیا ہے کہ پریشانیوں سے نجات کے لئے خواہ ہزاروں وظیفے پڑھ لیں اور دنیا بھر کی تدبیریں کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کے بغیر سکون ہرگز نہیں مل سکتا۔ یہ وعظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اقدس دامت برکاتہم کی کھلی ہوئی کرامت ہے کہ اس سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بن گئی ہیں اور وہ مکمل سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جامع)

بعض لوگ خوانی کے موقع پر قرآن مجید کھول کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن تو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے بس کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر سطر پر بسم اللہ، بسم اللہ کہتے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم بھی شاید پوری نہیں آتی صرف بسم اللہ کہتے ہوئے قرآن کا ورق پر ورق النا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ ایک نیا نہاد سوجھا ہے۔ اس کے مقابلہ

خطبہ الرشید

میں انگریزی کا بھوت ایسا سوار ہے کہ جوان اور بوز ہے تو رہے الگ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی انگریزی الفاظ ہیں، گویا پیدا ہوتے ہی کھٹی کے ساتھ انہیں انگریزی پڑائی گئی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو انگریزی آتی بھی نہیں لیکن انگریزی بولنے سے، انگریزی کی نقل اتنا نے سے باز نہیں آتے۔ اپنی زبان بولتے بولتے درمیان میں ایک آدھ لفظ انگریزی کا ضرور ملادیں گے۔ بالخصوص گفتگی کے لئے انگریزی عدد بولیں گے اسی طرح دن کا نام بھی انگریزی میں بتائیں گے تیجارتے مجبور ہیں دل میں اللہ کے دمُن کی محبت اور دوستی اسکی پیوست ہے جو نکلنے کا نام نہیں لیتی اور انہیں مجبور کرتی ہے کہ دوران گفتگو موقع بے موقع ایک آدھ لفظ انگریزی کا ضرور کھسیدیں۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ مشرود مر انگریزی کے ماہر ہیں اسی لئے ان پر انگریزی بولنے کا بھوت سوار رہتا ہے مگر بعد میں انگریزی کے کئی ماہرین سے ملنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ اندر سے یہ اکثر کھوکھلے ہیں۔ ان مسروں میں سے اکثر کو صحیح انگریزی نہیں آتی۔ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے انگریزی کے چند غلط سلط الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ اگر انگریزی سیکھنے کا شوق ہے اور اس کی مشق کرنا چاہتے ہیں تو پوری گفتگو انگریزی میں سمجھئے، سارے الفاظ انگریزی کے استعمال سمجھئے۔ مگر انگریزی کی مشق کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ پوری گفتگو تو اپنی زبان میں ہو اور ایک آدھ لفظ انگریزی کا کھسید دیا جائے۔ پوچھیں تو کہتے ہیں کہ یہ انگریزی کی "پریکش" ہو رہی ہے۔ انگریزی سیکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کوئی ہمیں بھی سمجھائے۔ اصل بات وہی ہے کہ انگریز کی محبت یہ سب کچھ کروار ہی ہے۔ انگریزی آئے یا نہ آئے اپنی گفتگو میں ایک آدھ لفظ کی ضرور ملاوٹ کر دو۔ شاید یہ سوچتے ہوں کہ اگر پوری انگریزی نہیں آتی تو ایک آدھ لفظ جو آتا ہے اس سے کیوں محروم رہیں۔

سے مرا از زلف تو مونے بند ست

ہوں راہ رہ مدد بوئے بند ست

میرے محبوب! میرے دربار! تیری زلف سے ایک بال بھی مجھے نصیب ہو جائے تو میری سعادت کے لئے کافی ہے بلکہ تیری ذرا سی خوشبو ہی کافی ہے۔ خیر پور میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھنگی کو ملازم رکھا کہ سرکاری کھاد اٹھا اٹھا کر زمین میں ڈال دیا کرے۔ سرکاری کھاد سمجھتے ہیں؟ انسان کے پیٹ سے نکلنے والی کھاد۔ حکومت اسے ایک جگہ جمع کرتی ہے پھر وہاں سے منتقل ہو کر زمیندار زمینوں پر ڈالتے ہیں۔ بھنگی کو قتيل گاڑی لے کر دی اور سمجھا دیا کہ کھاد کہاں کہاں سے جمع کر کے کس کس جگہ ڈالنی ہے وہ بھنگی کہتا ہے ”اچھا ٹرانی کر کے دیکھ لیں گے“ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سن کر حیران رہ گئے اور گھر آ کر سب کو بتایا کہ بھنگی ہے سارا دن نجاست اٹھاتا ہے مگر اس پر بھی انگریزی کا جادو ہے۔

درود:

مسلمان انگریزی کی محبت میں مراجارہا ہے۔ میں اس پر بار بار روکتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، دل چاہتا ہے کہتا جاؤں اور کہتا ہی چلا جاؤں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، بحمد اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کا منشاء صرف مسلمانوں سے ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اگر کسی کا بیٹا گمراہی کا شکار ہو، کسی غلط کام میں پھنس جائے تو ابا اگر واقعہ ابا ہے تو ایک آدھ بار کہہ کر بیٹھ نہیں جائے گا بلکہ مسلسل کہتا جائے گا اور مختلف انداز سے بیٹے کو اس غلط روٹ سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی محبت اور پیار سے، کبھی غصہ اور عتاب سے، اس کے علاوہ بیٹے کے لئے دعائیں بھی کرے گا وظیفے اور تعویذ بھی کرے گا۔ اس کی اصلاح اور خیر خواہی میں کوئی سر اٹھانہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں ان کے دلوں میں امت کا درد پیدا فرمادیتے ہیں۔ باپ کو جس قدر بیٹے سے محبت ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے دین کا درد رکھنے والوں کو اللہ کی حقوق سے محبت ہے۔ وہ دلسوzi سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں ان کے حق میں گڑگڑا

کر دعا میں کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے نجیگی میں۔

سے یہ درد اے بدگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی

میں رکھ دیتا ترے آگے کلیجا چیر کر اپنا

آپ کے سامنے چلا تا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں کرتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حالات کو سوچا کریں اور غور کریں بعض اوقات کوئی چیز انسان کی نظر سے او جھل رہتی ہے اس کی طرف خیال نہیں جاتا لیکن جب غور کرتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اہل جہنم بھی جہنم میں جا کر کہیں گے:

﴿لَوْكَانَ شَمَّ أَوْ نَعْقِلُ مَا كَانَ فِي أَحْصَنِ الْسَّعِيرِ ﴾ (۱۰ - ۲۹)﴾

اگر ہم دنیا میں اپنے کسی خیر خواہ اور در دل والے کی بات سن لیتے یا خود غور و تدبر سے کام لیتے، سوچ بچار کرتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔

میں نے جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی بغاوت سے بچانے کی کوشش کے سلسلہ میں بیرون ملک کا دورہ کیا تو انگلینڈ، امریکا، کینیڈا، ویسٹ انڈیز وغیرہ میں بڑے بڑے گناہوں سے متعلق بیان ہوئے۔ ڈاڑھی سے متعلق انہیں بتایا کہ ڈاڑھی منڈوانا کتنی بڑی بغاوت ہے تو کئی لوگوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیں اور آ آ کر مجھے دکھانے لگے کہ ہم نے ڈاڑھی رکھ لی ہے اور یہ کہ ہمیں اب تک پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رکھ لی تو ثواب نہ رکھی تو کوئی گناہ نہیں۔ سنت ہی تو ہے فرض یا واجب تو نہیں، لیکن اب بیان سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اب معلوم ہوا کہ کتنے بڑے گناہ میں بتلار ہے۔

بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں اور غفلت کی وجہ سے کسی سے پوچھتے بھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا اور بتانے والوں نے بتانا چھوڑ

دیا۔ میں جو بار بار بتا رہا ہوں کہ انگریزی کی محبت دل سے نکال دیجئے، عربی سے محبت سمجھئے یا کم از کم اپنی زبان ہی اختیار سمجھئے، اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں۔

۶۔ شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

انگریزی لفظ بولنا، انگریزی تاریخیں استعمال کرنا بظاہر ایک عام اور معمولی سی بات ہے بلکہ آج کل تو ایک فشن ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اس کی حقیقت نہیں سمجھی کہ موقع بے موقع انگریزی الفاظ بولنا، انگریزی تاریخیں استعمال کرنا درحقیقت خبث باطن کا مظاہرہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا دل انگریزی کی محبت سے عیسائیوں کی محبت سے لبریز ہے۔

دوستی کا معیار:

شاید یہ بات کسی کی سمجھی میں نہ آئے، اسے مثال سے یوں سمجھاتا ہوں۔ کسی کا دو شخصوں سے تعلق ہو، دونوں سے دوستی ہو لیکن کچھی دوستی کس سے ہے اس کا پتا اس وقت چلے گا جب دونوں دوست بیک وقت کسی چیز کی فرمائش کریں اور دونوں کو راضی کرنا ممکن نہ ہو تو وہ جس کی فرمائش کو ترجیح دے گا کچھی دوستی اسی سے ہے۔ ایک کا حکم مان کر دوسرے کا حکم مٹکرا دیا تو حقیقی دوست وہی ہے جس کا حکم مانا اور جس کا حکم نہیں مانا اس سے محبت کے کتنے ہی دعوے کرے سب جھوٹ اور فریب ہے۔ دوستی اور محبت پر کھنکا یا ایک سیدھا اور صاف معیار ہے۔ اس کا ایک اور دوسرा معیار یہ بھی ہے کہ دوستی دو شخصوں سے ہے مگر شکل و صورت، چال ڈھال اور زندگی کے طور طریقے ان میں سے ایک دوست کے اختیار کر لے ہیں اور دوسرے دوست کی نقل نہیں اتنا تا صرف زبانی محبت جاتا ہے تو وہ لا حمالہ سہی سمجھے گا کہ اس کی دوستی تو پہلے شخص سے ہے مجھے دھوکا دینا چاہتا ہے۔ اب اس معیار کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے جئے۔ ایک طرف تو آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق و محبت کے بلند و بالگ دعوے کرتے ہیں، نفرے لگاتے ہیں، ہر

طریقے سے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن انگریز سے بھی آپ کی دوستی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اسلام کو اپنا اوڑھنا پچھونا بنائیے۔ شکل و صورت، چال ڈھال مسلمانوں کی اختیار کریں، لباس اسلامی پہنیں، اپنی تقریر و تحریر میں اسلامی تاریخیں استعمال کریں لیکن انگریز چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب اختیار کریں۔ شکل و صورت انگریز کی، لباس انگریز کا، اور تاریخیں انگریز ہی کی ہوئی چاہئیں۔ دونوں حکم آپ کے سامنے ہیں۔ اپنا جائزہ لے کر خود دونوں فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس کے احکام کی تفہیل کر رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں اور کس کو ناراض۔ اگر صورت و سیرت اسلامی ہے، دل میں اسلامی شعائر کا پورا احترام ہے، اس لئے اپنی تحریروں اور روزمرہ کی گفتگو میں اسلامی تاریخیں استعمال کرتے ہیں، انگریزی تاریخوں سے انگریزی الفاظ سے پرہیز کرتے ہیں تو بالاشہد آپ چے مسلمان ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ آپ کو محبت ہے آپ صرف نام کے نہیں کام کے مسلمان ہیں اور اگر خانوادہ معاملہ برکس ہے کہ نام مسلمانوں والا لیکن کام انگریز کے ہیں۔ صورت انگریز کی، سیرت اور عادات انگریز کی، حتیٰ کہ زبان بھی انگریز کی، گو پوری زبان نہیں آتی مگر چند الفاظ اور رکھے ہیں انہی کو بار بار دہراتے ہیں۔ غرض اپنے طرز زندگی سے انگریز دوستی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں تو سوچ کر فیصلہ کیجئے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ زندگی کی ہر ادا سے انگریز کی محبت پلک رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ کر فیصلہ کریں کہ آپ جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دعویٰ کی کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی دلیل نہیں تو بے دلیل دعوے کا کیا اعتبار۔

آخری بات:

آخر میں یہ بات پھر دہرا دوں کہ بھری تقویم بھرت کی یادگار اور اسلام کا ایک

مخصوص شعار ہے اس کے بال مقابل عیسوی تقویم عیسائیوں کا مخصوص شعار ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے کفریہ عقیدہ کی یادگار ہے۔ ان مردوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا کر شہید کر دیا۔ یہ سن عیسوی کی ابتداء وہیں سے مانتے ہیں۔ سن ۱۹۹۶ء عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائے اُنہیں سو پچانوے سال گزر چکے ہیں۔ چھانواں سال چل رہا ہے جو مسلمان ششی تاریخیں استعمال کرتے ہیں وہ در پردہ اس کفریہ عقیدہ کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ جب کہ قرآن ان کے اس کفر کی صاف صاف تردید کر رہا ہے:

﴿وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ (ب- ۶ - ۱۵۷)

ترجمہ: ”نہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔“

پھر عقل کی رو سے بھی یہ عقیدہ کس قدر غلط اور لاائق نفرت ہے کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اللہ اور کل اختیارات کے مالک ہیں، خود وہ اللہ ہیں اور اللہ کے بیٹے اور اللہ کی بیوی مریم کے بیٹے ہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہودیوں کے ہاتھوں سولی چڑھ گئے۔ یہودیوں کی گرفت سے نہ خود چھوٹ سکے، نہ باپ چھڑا سکا، نہ ماں چھڑا سکی، ہیں تینوں اللہ۔ ان سے بڑھ کر دنیا میں احتق کون ہو گا؟ کہتے ہیں کہ ”تین ایک ہیں اور ایک تین۔“ ایسی حماقت کسی کم من بچے سے بھی صادر ہونا محال ہے مگر پوری دنیا نے عیسائیت اسے اپنا ایمان و عقیدہ سمجھتی ہے۔ ”تین ایک اور ایک تین۔“ اگر کسی معصوم بچے کے سامنے آپ تین الہیاں کھڑی کر کے پوچھیں کہ کتنی ہیں؟ تو فوراً کہے گا تین، ایک انگلی نیچے کر کے پوچھیں کہ اب؟ فوراً کہے گا دو، دوسرا بھی نیچے کر لیں تو باقی ایک۔ ایک اور تین میں چھوٹا سا بچہ بھی فرق کرتا ہے کہ ایک ہے تو تین نہیں اور تین ہے تو ایک نہیں، مگر عیسائیوں کے عقیدے میں یہ دونوں ضدین جمع ہیں۔

خطبائُ الشَّيْد

ایک پادری سے میری بات ہوئی کہ یہ ایک اور تین کا معہ کیا ہے ذرا ہمیں بھی سمجھائیے، وہ کہنے لگا اس کا سمجھانا مشکل ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں تشابہات کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان تشابہات کا سمجھنا مشکل ہے، میں نے کہا کہ اس کو تشابہات پر قیاس کرنا سارا غلط ہے، اس لئے کہ تشابہات تک عقل کی رسائی ممکن نہیں، دائرہ عقل سے خارج ہیں اور ایک اور تین میں تضاد عقل کی رسائی سے بالاتر نہیں بلکہ عقل یہاں تک بطریق بدراہت بہت سہولت سے پہنچ کر ان میں تضاد اور ان کے اجتماع کے مجال ہونے کا قطعی فیصلہ کرتی ہے۔ وہ جواب سے عاجز آکر کہنے لگا میں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں وہ آپ کو پہنچ دوں گا دیکھ کر سمجھ لیجئے۔ میں نے کہا جب خود منصف موجود ہے تو کتابیں دیکھنے کی کیا ضرورت؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا پادری کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، یہ ہے عیسائیوں کا مضمون خیز عقیدہ شیعیت اور اسی منت گھڑت عقیدہ پر بنیاد رکھی گئی سن عیسوی کی۔ جو مسلمان چہالت کی وجہ سے انگریزی تاریخیں لکھتے اور بولتے ہیں وہ خود سوچ لیں کتنی بڑی خطرناک غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایک تو بھری تاریخ سے اعراض اور روگردانی کا گناہ کہ یہ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بحربت کی یادگار اور دوسری بہت سی دینی حکمتوں کی حامل ہے جن کی تفصیل بتاچکا ہوں۔ دوسرے یہ کہ کفار کے ساتھ مسلم کر ان کے مخصوص شعائر کی تائید کا گناہ۔ اسے سوچئے اور بار بار سوچئے۔ خود بھی ہمیشہ کے لئے اس گناہ سے توبہ کجئے اور دوسرے تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنادیں، دلوں میں کفر سے نفرت اور اسلام سے محبت پیدا فرمادیں۔

وَصَلَ اللَّهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهَ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

عبدالحق عشري

— وَعْظ —

فِي الْعُصُمَانِيِّ اِعْظَمُ حِجَّتِ اَقْدَمِي لِرَشِيدِ اَحْمَادِ صَاحِبِ الْمُغَالِبِ

— نَاسِئِ —

کتاب کہدا

ناظم آباد ۱۹۴۷ کراچی

واعظ: س

ناز: س

بمقام: س

بتأریخ: س

برقت: س بعد نماز عصر

تاریخ طبع مجلد: س ذی تعداده ۲۲۳۷

طبع: س

حسان پرنگ پریس فون: ۰۲۱-۶۶۳۱۰۱۹

ناشر: س

کتابخانہ علمی ناشر آمادگیری کراچی

فون: ۰۲۱-۶۶۲۳۸۱۳ فلکس: ۰۲۱-۶۶۰۴۳۶۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وعظ

عید کی سچی خوشی

(بروز عید الفطر ۱۴۳۵ھ)

﴿أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ لَا حُوقُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
بِخَرْفُونَ ﴾٦٣﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْقُونَ
لَهُمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ
لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾٦٤﴾

(پ ۱۱ - ۶۲ تا ۶۴)

ترجمہ: ”یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندریشہ (ناک واقعہ پڑنے والا) ہے اور نہ وہ (کسی مطلوب کے فوت ہونے پر) مفہوم ہوتے ہیں۔ وہ (اللہ کے دوست) وہ ہیں جو ایمان لائے اور (معاصی سے) پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی (من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی) خوش خبری ہے (اور) اللہ کی باتوں میں (یعنی وعدوں میں) کچھ فرق نہیں ہوا کرتا یہ (بشارت جو مذکور ہوئی) بڑی کامیابی ہے۔“

عید کی بچی خوشی:

آج صبح نماز عید کے بعد سے لوگ ملنے آرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عید ملنے آئے ہیں، میں نے کہا کہ عید تو کھانے کی ہوتی ہے یا پہنچنے کی یہ ملنا و لانا کیا ہے؟ عید میں خوشی کی تو دو ہی باتیں ہیں اچھا کھاؤ اور اچھا پہنچو اور عید کی نماز پڑھو، یہ عید ملنا تو کوئی چیز نہیں۔ ان سے تو یہ بات کہہ دی مگر اسی وقت ایک پرانا شعر یاد آگیا جس سے بہت فائدہ ہوا، صبح سے وہ شعر مسلسل ذہن پر چھایا ہوا ہے دل میں تو ہے ہی زبان پر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دشکنیری ہے کہ بچپن کی بہت پرانی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جب ان سے کہہ دیا کہ عید کھانے پینے اور پہنچنے کی ہوتی ہے ملنے والے کی نہیں تو فوراً یاد آیا کہ بچپن میں کسی عید کا رذ پر ایک شعر دیکھا تھا۔

عید کی بچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے

جو دن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے

کہنے والے نے کسی بھی مقصد سے کہا ہو، میں تو اپنی بات سے مطلب ہے جیسے کسی بزرگ نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے ”اچھے سکترے، اچھے سکترے“ وہ اپنے سکترے پنج رہا تھا یہ بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا سنتے نہیں وہ آواز لگا رہا ہے ”اچھے سنگ ترے“ سنگ کہتے ہیں ساتھی کو اور ”ترے“ کے معنی ہیں ”تیر گئے“ تو مطلب یہ لکھا کہ جو اچھے ساتھی کے ساتھ لگ گئے وہ تیر گئے۔ وہ اپنے سکترے پنج رہا تھا اور انہیں اپنی پڑی تھی اسی طرح عید کا یہ شعر شاعر نے کسی بھی نیت سے کہا ہو، میں اپنی بات سے مطلب ہے۔

عید کی بچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے

جو دن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے

اس شعر سے کئی لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ کئی سال پہلے کسی عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ شعر کہلوادیا تھا تو بیرون ملک امارات یا سعودیہ سے خط آیا کہ کئی سال پہلے ایک عید پر آپ نے یہ شعر پڑھا تھا میں اب یہ شعر پڑھ پڑھ کر عبرت حاصل کر رہا ہوں۔ دوسرا قصہ یوں چیز آیا کہ افغانستان کے سفر میں میران شاہ میں کچھ حضرات کے اصرار پر قریب ہی موجود ایک عید گاہ دیکھنے کے لئے جانے کا اتفاق ہوا، جو نبی مسیح میں لے کر عید گاہ کے پاس پہنچی اور ان حضرات نے مجھے بتایا کہ یہ عید گاہ ہے جس بے ساختہ میری زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا۔

ہے عید کی بچی خوشی تو دوستوں کی دیدے ہے

جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے

میں نے یہ شعر پڑھ دیا اور سمجھا کہ بات آلمی گئی ہو گئی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میران شاہ سے بہت دور خوست جانے والے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ جس موقع پر آپ نے یہ شعر پڑھ دیا تھا وہاں خوست کے ایک مدرسہ ”ضلع الجہاؤ“ جس کے ہمتم مولانا کمانڈر عبدالحیم صاحب ہیں، اس مدرسہ کے ایک بڑے استاد بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے وہاں جا کر یہ شعر بہت جلی خط میں لکھ کر اپنی درس گاہ میں لگا دیا۔ ساتھ ہی میرانام بھی لکھا ہے کہ اس نے یہ شعر پڑھا تھا۔ دعا کیجئے کہ جو لوگ بھی اسے دیکھیں یا یہ قصہ سنیں، اللہ تعالیٰ اس شعر کا اثر ان سب کے دلوں میں عطا فرمادیں۔

ہے عید کی بچی خوشی تو دوستوں کی دیدے ہے

جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے

شعر کا مطلب:

ہو سکتا ہے کوئی اس شرکہ سلطب نہ سمجھا ہو اس لئے اس کی وضاحت بھی کر

دوں۔ مسلمان کا سب سے بڑا دوست کون ہے؟ ظاہر ہے مسلمان کا سب سے بڑا دوست ہے اللہ تعالیٰ، وہ محبوب حقیقی سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو وہی ہے پھر محبت کرنے والا بھی کیسا؟ "یحیهم ویحبوونه" بندوں کی محبت سے پہلے اپنی محبت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بندے پیدا کریں گے کہ ہم ان سے محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کریں گے، اپنی محبت کا ذکر پہلے فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ حقیقت یہی انہی کی محبت کا اثر ہے، وہ محبت فرماتے ہیں تو اس کے اثر سے بندے کے دل میں بھی ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اصل سرچشمہ محبت تو وہی ہیں۔ پھر ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی دنیوی رشتے کی وجہ سے نہیں، دنیوی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے، اس محبت کا نشان ایمان ہے۔ ورنہ رشتہ داری کی وجہ سے تو ابو طالب کئی کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی مگر وہ محبت عند اللہ مقبول نہیں اس لئے کہ رسول ہونے کی بنا پر نہیں تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ہر مسلمان کا جزء ایمان ہے صرف اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر مقبول بندے سے محبت کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، الغرض حقیقی دوست کون ہوئے؟ اللہ اور اللہ والے لوگ، یہ ہیں پچے دوست۔ حقیقی دوست۔

دنیا کی دوستی کی حقیقت:

دنیا کی دوستی کی کیا حالت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی کہیں ملتی ہی نہیں نہ یہوی میں نہ شوہر میں نہ بھائی میں نہ بہن میں نہ باپ میں نہ بیٹے میں۔ آج محبت اور

دوستی کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ سب لوگ مطلب کے یار ہیں، مطلب پرست ہیں کوئی کسی کا دوست نہیں۔

اس عمر میں بچپن کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ بچپن میں فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتا تھا اگرچہ اس وقت تک فارسی نہیں پڑھی تھی مگر فارسی کا یہ شعر بہت پڑھتا تھا۔

سے یارانِ این زمانہ پھون گل انارند

پر رنگ آشنا لی بوئے وفا ندارند

اس زمانے کے دوست انار کے پھولوں کی طرح ہیں جو خوش رنگ تو ہوتے ہیں
مگر ان میں خوبصورتیں ہو گی۔ ظاہراً محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر اندر سے
بالکل کھو کھلے ہیں۔ محبت کا نام و نشان تک نہیں کوئی کسی کا غم گسار نہیں۔

سے نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری

محبت از گئی ساری زمانہ کیا آیا ہے

کسی نے خوب کہا ہے:

سے وقالوا قد صفت منا قلوب

لقد صدقوا ولكن من ودادی

یعنی میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہیں آپ مطمئن رہیں۔ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ واقعتاً صاف ہیں لیکن میری محبت سے صاف ہیں۔ غرض یہ کہ آج دیکھ لجئے دوستی ہے کہاں؟ صرف نفسانیت باقی رہ گئی ہے۔ خواہش نفس کے خلاف ذرا سی بات ہوئی اور ساری دوستی کافور۔ دوستی نفرت سے بدل گئی۔

دوسری بات یہ کہ اگر واقعتاً دوستی ہو بھی تو دنیا کی دوستی کا کیا فائدہ؟ دوستی تو وہی ہے جو اللہ کی خاطر ہو آخرت میں کام آئے۔

تمیری بات یہ کہ دنیوی دوستی چلے گی کب تک؟ کسی نہ کسی روز لازماً جدائی

ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گزرنا تو یہ شعر پڑھے۔

سے کنا کندمانی جزبمة حقبة

من الدهر حتى قيل لن يتصل دعا

فلما تفرقنا كأى ومالكا

لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

فرماتی ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے رہتے تھے اور ہماری رفاقت ایسی تھی جیسے جزیرہ بادشاہ کے دو وزیروں کی، جزیرہ ایک بادشاہ گزر رہے اس کے دو وزیروں کا اتفاق اور ان کی رفاقت و یکجا تی ضرب المثل تھی، فرمایا ہم بھی اسی طریقے سے رہتے تھے، ہم بھائی بہن یوں اکٹھے رہتے تھے کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ ان میں کبھی جداگانہ ہوگی ہی نہیں اور آج جب بھائی مجھ سے جدا ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم کبھی ایک رات بھی اکٹھے نہیں رہے۔ انداز لگائیے کہ دنیا کی محبت کا انجام کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”احبب من شئت فانك مفارقه“ (طبرانی اوسط)

جس کے ساتھ چاہو دل لگا لو تب چہ با آخر ایک دن جداگانہ ہوگی آپ بھی مرنے والے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (ب ۲۳ - ۳۰)

اس کی مثال تو اسی ہے، جیسے ریلوے پلیٹ فارم پر کوئی کسی سے دوستی کر لے یا چلتی گاڑی میں دوران سفر کسی سے تعلق جوڑ لے پھر جیسے ہی جداگانہ ہونے لگے تو دونوں چیخ و پکار شروع کر دیں ایک کارخ ادھر کو دوسرے کا ادھر کو، ارے حمق! ایسی دوستی کی ہی کیوں تھی؟ یہ ہے دنیا کی دوستی اور محبت کا انجام، یہاں کسی سے محبت ہو تو

صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہئے۔

سے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم میں ترے دل شاد رہے
اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
کیا عجیب اشعار ہیں یا اللہ! تیری محبت میں دنیا بھر کی خوشیوں کو آگ لگا دوں،
دل میں صرف تیری محبت اور تیرا درد باقی رہے، پھر ایسا شخص کبھی تھا نہیں رہتا، جنہیں
اللہ تعالیٰ کا انس حاصل ہو جائے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی نہ آئے
اکیلے ہی پڑے رہیں۔

سے پھیر لوں رخ پھیر لوں ہر ما سوا سے پھیر لوں
میں رہوں اور سامنے بس روئے جانانہ رہے

سے چہ خوش ست باتو بزے بہفتہ ساز کردن
درخانہ بند کردن سر شیشه باز کردن
میرے محبوب! تھائی میں تیرے ساتھ مجلس بازی کیا ہی خوب ہے، ”چہ خوش
ست“ کیسی ہی اچھی مجلس ہوگی؟ وہ کیا سعادت ہوگی اور پھر مجلس کس کیفیت سے ہو
کہ مکان کا دروازہ بند کر لجئے اور شراب محبت کی بوتل کھول لجئے، غذا غذت چڑھاتے
چلے جائیے۔ یا اللہ! ہم سب کو یہ دولت عطا فرمادے، اپنی ایسی محبت عطا فرمادے کہ دل
میں تیرے سوا کوئی نہ رہے۔

سے بے تجباہ نہ درا از درکاشانہ ما
کہ کے نیست بجز درد تو درخانہ ما
تَرْجَمَه: ”اے محبوب! ہمارے خانہ دل میں تیرے درد محبت کے سوا کوئی

نہیں، اس لئے میرے دل میں بے جگا نہ آ جا۔“

سے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آ جا اب خلوت ہو گئی

تیری شرط ہم نے پوری کر دی تمام اغیار سے دل کو پاک کر لیا اب تو آ جا۔ دعا
کر لیں کہ یا اللہ! ان اقوال کو ہم سب کے احوال بنادے، ان باتوں کو ہمارے دلوں
میں اتاردے، دلوں کی کیفیت بنادے، یا اللہ! اپنی محبت عطا فرم، شوق وطن عطا فرم،
اپنے دیدار کا شوق اور طلب بلکہ ترب عطا فرم۔

الغرض جب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ حقیقی دوست اللہ اور اللہ والے ہیں تو اب
ذرعاً سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے کہئے۔

۶۔ عید کی بچی خوشی تو دوستوں کی دیہ ہے

یہ ہے عید کی بچی خوشی صحیح خوشی جس سے دل مرتزوں سے معمور ہو جائیں، ایسا
سرور کہ اس کا نام لینے سے بھی لطف آنے لگے۔

سے سروڑ سروڑ سروڑ سروڑ

بڑا لطف دیتا ہے نام سروڑ

دوسرامصرع ہے۔

۷۔ جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے

یہاں وطن سے مراد وطن آخرت ہے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے جن لوگوں میں وطن
آخرت کی محبت نہیں، وطن آخرت میں جانے کا شوق نہیں، جنہوں نے دنیا میں دل رک
لیا اور اس مسافر خانے کو وطن سمجھنے لگے ان کی کیا خاک عید ہے، وہ سرور کے کتنے ہی
مظاہرے کریں سب عارضی اور مصنوعی ہوں گے ان کے دلوں میں سرور کبھی پیدا ہو ہی
نہیں سکتا، دلوں میں سرور تو ان کے پیدا ہو گا جنہوں نے وطن کو پہچان لیا۔

۸۔ جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے

دعاۓ لقاء محظوظ:

اس موقع پر ایک دعا کر لیجئے، میں یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ میں جب مجلس میں کوئی دعا نقل کرتا ہوں تو صرف اس کا بتانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ بتانے کے ساتھ ساتھ مانگنے کی نیت بھی کر لیتا ہوں تاکہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ سو جس طرح میں خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں تو اسی طریقے سے آپ حضرات جب مجھ سے وہ دعا سنائیں تو سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے، یاد کرنے، دلوں میں اتارنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی نیتیں کر لیا کریں۔ عجیب دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔

”اللهم انی أَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبِرُدِ الْعِيشِ بَعْدِ

الْمَوْتِ وَلِذَةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ“

ترجمہ: ”یا اللہ! میں تجوہ سے تیری تقدیر پر رضا مانگتا ہوں اور موت کے بعد خوش عیشی اور تیرے دیدار کا مزا اور تجوہ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔“

یہ دعا مناجات مقبول میں موجود ہے یاد کر لیجئے کچھ مشکل نہیں، مطلب تو یاد کر لیجئے یہ مغز بے مغز۔

دعاۓ کا پہلا جملہ:

”اللهم انی أَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ“ یعنی یا اللہ! تیری ذات پر ایسا توکل، ایسا اعتماد، تیرے ساتھ اتنی محبت اور اتنا گہرا تعلق پیدا ہو جائے کہ اپنے بارے میں تیری ہر تقدیر خواہ وہ کچھ بھی ہواں پر راضی رہوں۔ اس لئے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ محبت پر مبنی ہوتا ہے۔ محبوب اپنے محبت کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں کرتا کہ جس سے محبت کا نقصان ہو جائے۔ جو کچھ بھی کرے گا محبت

سے کرے گا۔ محبت میں تو جان بھی لے لیں تو کوئی بات نہیں۔ یا اللہ! یہ تو یقینی بات ہے کہ تو ہماری جانوں کو لے جائے گا چھوڑے گا نہیں یہ تو تیرا قانون ہے لیکن یہ سعادت بخش دے کہ جان جائے تو تیری محبت میں جائے، جو کچھ بھی مقدر کر دے، بظاہر دیکھنے میں کتنی ہی نقصان کی چیز ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت نظر آئے مگر وہ محبت عطا فرمادے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں خوش رہوں تیری ہر تقدیر پر راضی رہوں۔

سے ہدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم

دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا مرے دل میں

شعر شروع کیا ہے ہدم سے، کوئی ہدم ہو تو بات سمجھے غیر ہدم کے سامنے اپنا حال بیان کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے بھیس کے سامنے بین بجانا وہ کیا سمجھے؟ اس لئے دعا کر لیں کہ یا اللہ! اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سمجھنے کے لئے ہم سب کو ہدم بنالے۔

سے ہدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم

دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا مرے دل میں

روتے ہوئے اک بار ہی نہ دیتا ہوں مجذوب

آ جاتا ہے وہ شوخ جو ہستا مرے دل میں

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسا تعلق ایسی محبت، ایسا جوز اور ایسا توکل عطا فرمادیں۔

ہندو بچے کا باوشاہ پر اعتماد:

حضرت عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ایک ذیلی حکومت ایک راجا کے سپرد کر دی تھی، دستور یہ تھا کہ جب کوئی بڑا مر جاتا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا اس کی جگہ حاکم بناتا تھا، راجا مر گیا لیکن اس کے بیٹے کی عمر بہت کم تھی اس لئے یہ سوال پیدا ہوا

کہ اتنی کم عمر کا بچہ حکومت کیسے سنچالے گا، کیا کریں؟ جب حضرت عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بچے کو لا اد کیجہ کر فصلہ کروں گا۔ جب بچے کو لایا گیا تو اس وقت حضرت عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ محل کے صحن میں موجود تالاب کے کنارے کفرے ہوئے تھے۔ آپ نے بچے سے بچے کے دل گھنی کے طور پر اسے دنوں بازوؤں سے پکڑا اور تالاب کے اوپر کر کے فرمایا چھوڑ دوں؟ بچے نے کہا:

”جس کا ہاتھ تیرے جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہواں کو ڈوبنے کا کیا

خطرہ؟“

بظاہر یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن بادشاہ نے فرمایا: بس امتحان ہو گیا، حکومت اسی کو دے دو، سوچنے کی بات ہے کہ ہندو کافر کے کافر بچے کو ایک جلوق بادشاہ پر اتنا اعتماد کرو کہتا ہے:

”جس کا ہاتھ تیرے جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہواں کو ڈوبنے کا کیا

خطرہ؟“

تو جس کو بادشاہوں کے بادشاہ اپنے ملک پر ایسا اعتماد حاصل ہو جائے اس کا کیا حال ہو گا؟ یا اللہ! ہم سب کو اپنی ذات پر ایسا اعتماد عطا فرمادے۔ لیکن آج مسلمان ہونے کے دعوے کرنے والوں کو اپنے مولیٰ پر اپنے مالک پر حکم الحاکمین پر اتنا اعتماد نہیں جتنا ہندو بچے کو ایک جلوق بادشاہ پر تھا۔ یہ تو بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہ چھوڑ دیئے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اگر پردہ شریعت کے مطابق کر لیا تو چیاز، پھوپھی زاد، ماموں زاد خالہ زاد سارے زاد اور دیور، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی، پھوپھا، خالو وغیرہ سب ناراض ہو جائیں گے واویلا کریں گے کہ ہماری حق تلفی کر دی، جتنے فائدے حاصل کر رہے تھے سب سے محروم کر دیا، اور یہ سارے ناراض ہو گئے تو ہم دنیا میں کیسے رہیں گے؟ یا اگر صورت اللہ کے جبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لی تو یہوی ناراض ہو جائے گی اور لوگ کیا کہیں گے یہ جنگلی یہ بکرا کہاں سے آگیا؟ یہ حال ہے آج کے

مسلمان کے اللہ پر اعتماد کا کہ لوگ ناراض ہو گئے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے، اسی طرح سودی اداروں مثلاً بینک یا ان سورنس کی بہت بڑی ملازمت اور بہت بڑی تنخواہ مل رہی ہو تو آج کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ اگر میں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی، ان سورنس کی ملازمت نہیں کی تو بھوکا مر جاؤں گا؟ زندہ کیسے رہوں گے؟ ایک ہندو کے بچے کو حقوق بادشاہ پر اتنا اعتماد لیکن یہاں مسلمان کو اپنے مالک خالق پر کوئی اعتماد نہیں۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا کیا وہ پیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں نے اسے پیدا کیا تھا اور اب رزق بھی دینا ہے؟

سود کی لعنت:

سود کا ایک درہم (تقریباً ساز ہے تین گرام چاندی) چھتیس زنا سے بدتر ہے۔ ارے مسلمان! تو جن سے عشق و محبت کے دعوے کرتا ہے یہ اس اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ سود میں تہتر خرابیاں ہیں ان میں چھوٹی سی چھوٹی خرابی یہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔

رزق کے بارے میں آج کے مسلمان کا اپنے اللہ پر سے ایسا اعتماد اٹھا کر وہ بنک اور ان سورنس کی حرام کمائی کھانے تک تیار ہو گیا۔ اگر رزق پر بات چلی تو مضمون طویل ہو جائے گا یہاں تو ایک ایک بات ایسی ہے کہ جو بات بھی زبان پر آ جاتی ہے اس کی تفصیل میں پورا پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کیا کہوں اور کیا چھوڑوں؟ دعا کر لیں کہ یا اللہ! تو جو باتیں دل میں ڈالتا ہے وہ کہے بغیر اور تشریع کے بغیر ہی سننے والوں کے دلوں میں ڈال دے اور دلوں میں وہ کیفیت و صلاحیت ڈال دے کہ یہاں کی بتائی ہوئی باتیں وقت پر یاد آ جایا کریں۔

دل بن جانے کی ایک علامت:

اک مات بار میرے دل میں آتی ہے پھر کہہ ہی دوں کہ یہاں آنے سے

آپ لوگوں کو کچھ ملایا نہیں اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جو باتیں یہاں سنتے ہیں وہ وقت پر یاد آ جائیں اور آگے پہنچائیں۔ ہر بات کا موقع ہوتا ہے لہذا اپنے لئے عبرت حاصل کرنے کا موقع ہو یا کسی دوسرے سے کہنے کا موقع، وقت پر بات یاد آ جائے اور اسی موقع پر آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو یہ نعمت عطا فرمادیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ، رحمت والمع ہے یہ سعادت عطا فرمادیں۔

ویسے تو بھم اللہ دیکھی ہی رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں باتیں ڈال رہے ہیں کچھ نہ کچھ تول ہی رہا ہے۔ میرے اللہ کا کرم ہے میرا کوئی کمال نہیں۔ اکابر کی دعائیں ہیں ان کے قدموں کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں۔ خاص طور پر کتاب ”باب العبر“ سے تو بہت ہی تسلی ہوتی ہے اس میں آپ ہی لوگوں کو حالات ہیں لہذا جب ”باب العبر“ پڑھا کریں تو جب اس میں اپنا حال آئے تو اس کو زیادہ غور سے پڑھیں اور اندازہ کریں کہ کہیں ریوس گیر تو نہیں لگ گیا۔ جس زمانے میں آپ نے یہ حالات لکھے تھے ان میں کچھ آگے بڑھے یا نہیں؟ انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہو گا۔

اب ذرا یہ سوچیں کہ اس وقت جو حضرت عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ بتایا کیا یہ وقت پر آپ کو یاد آ جاتا ہے؟ اور اسے سوچ کر اللہ تعالیٰ پر توکل میں ترقی کی کوشش کرتے ہیں؟ (بعض اہل مجلس نے ہاتھ اٹھایا جس پر حضرت اقدس نے خوشی سے فرمایا) اچھا بہت خوب! سوچا کریں اور آگے پہنچایا کریں۔

پر لطف زندگی کی دعا:

مناجات مقبول کی جو دعاء بتائی ہے اس کا دوسرا جملہ ہے: ”وَبِرَدِ الْعِيشِ بَعْدَ الْمَوْتِ“ یعنی یا اللہ! جب تو اس سافرخانے سے ہمیں بے بیجا تو آگر کما زندگی کی مختذک اور جلوے عطا فرمادے۔ مرنے کے بعد اُلیٰ بنیخ کی زندگی شروع۔

ہوتی ہے۔ تو یا اللہ! اسی وقت سے جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جائے اور سخنڈی سخنڈی ہوائیں، باغ و بہار، تیرے مقرب بندوں کا قرب اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے۔

موت محبوب چیز ہے:

کبھی کبھی بعض لوگ فون پر پوچھتے ہیں کہ قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، قبر تو پھر درمیان کی بات ہے اس سے پہلے موت سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں فلاں کا انتقال ہو گیا تو چلنے نجع گیا لیکن پوچھیں سوچتے کہ موت کے بعد بھی تو کئی مراحل ہیں، سب سے پہلے بات کہ جان کیسے نکلے گی؟ تاریخ اٹھاؤ نے گا، پھر قبر اتنی زور سے بھینچے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، ایسے (حضرت القدس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر دکھائیں) پھر وہاں منکر نکیر آتے ہیں، اگر رمضان کے مہینے میں یا جمعہ کے دن یا چلنے خشیک حساب نہیں ہوا تو پھر آگے تو معاملہ ہوگا:

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (۷ - ۲۵) (ب)

آگے وہ دن آنے والا ہے کہ یا جنت یا جہنم، فیصل بہر حال ہونے والا ہے،
بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تابکے تابکے؟

ارے ناعاقبت انہیں! آخر تو اللہ کی گرفت سے کب تک بچا رہے گا؟ اللہ کا
نافرمان تو دنیا میں بھی اللہ کی گرفت سے نہیں نجع سکتا، کسی نہ کسی پریشانی میں جلا رہتا
ہے، تو کیا ہر وقت پریشان رہنے کا عذاب کم ہے؟

جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں؟
تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ قبر کا عذاب، قبر کی شکلی، قبر کا بھینپنا یہ سارے عذاب تو
نافرانوں کے لئے ہیں۔ قبر کے عذاب کو رحمت سے بدل لینا اللہ تعالیٰ نے بندے

کے اختیار میں دے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں
سے ایک گڑھا۔“ (ترمذی)

قبر کے گڑھے کو جنت کا باغ بنالینا بندے کے اختیار میں ہے۔ جو اللہ کی
نافرمانی چھوڑ دے اس کے لئے قبر میں عذاب نہیں اس کے لئے قبر بہت کشادہ ہو
جاتی ہے، طرح طرح کے باغ ہیں، بہت کشادہ عالی شان محلات ہیں، جنت کی
طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، خوبصوردار ہو اس آتی ہیں، حوریں بھی انتظار کر رہی ہوں گی
الغرض جنت میں جو کچھ ہے قبر اس کا نمونہ بن جاتی ہے۔

جال کرنی کے وقت:

قبر میں جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لئے وصیت کرتا ہوں کہ
سورہ نازعات کی ابتدائی دو آیتیں یعنی ”وَالشَّرِيعَتِ غَرْفَاً“ اور ”وَالشِّيَطَنِ نَشَطاً“
یہ دونوں آیتیں جن میں کل چار لفظ ہیں ان کا ترجمہ روزانہ دیکھ لیا کریں تو بہت ہی
اچھا ہے ورنہ کم از کم اتنا تو کریں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کم سے کم ایک بار تو ضرور
ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ میں تو بتاؤں گا ہی لیکن آپ لوگ اپنے طور پر بھی کسی بھی ترجمہ
والے قرآن میں ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ اثر ہو جائے۔
”وَالشَّرِيعَتِ غَرْفَاً“ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں جو نافرانوں
کی جان سمجھنے کرنے لاتے ہیں ”وَالشِّيَطَنِ نَشَطاً“ قسم ہے ان فرشتوں کی جو
فرمانبرداروں کی جان اتنی زی سے نکلتے ہیں گویا بھرے ہوئے مشکیزے کی ڈوری
ڈھیلی کر دی مشکیزہ تو شاید آپ کے پاس نہیں ہو گا، نائزے لے لیں کہ والوجہی ذرا دبایا
کیسے ہوا نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی کہ
فرشتے نافران کی جان ایسے نکلتے ہیں جیسے کانٹوں پر ممل کا باریک کپڑا اذال دیں

جب کانے گھس جائیں تو پھر ایک طرف سے اسے کھینچیں، تار تار نوٹے گا فرشتے نافرمان کی جان بھی اسی طرح کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ مقدس فرشتے ہیں جبھی تو ان کی قسم اخخار ہے ہیں اور فرمان بردار کی جان کیسے نکلتے ہیں اس کے لئے ایک مثال دے دی جیسے کوئی مشکلہ پانی یا ہوا سے بھرا ہوا ہوا اور اس کا منہ ڈوری سے بندھا ہو جیسے ہی ڈوری ڈرای سر کا نی تو ہوا کونکا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود ہی نکل جائے گی، یہی حال ان لوگوں کی جان کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت، محبوب کے دیدار، فراق وطن میں ترپ رہے ہیں، کہ کب صل کی گھری آئے گی۔

؅ کھینچی جو ایک آہ تو زندگی نہیں رہا

شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ کی یونانی دواؤں کی دکان تھی پہلے زمانے میں یونانی دوائیں بیچنے والے پنساری کو بھی عطار کہتے تھے شاید یہ اس لئے کہ وہ عطر بھی بیچتے ہوں گے آپ کی دکان پر ایک درویش پہنچ گیا اور ایک بوتل کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا کہ اس میں کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا (مثلاً) شربت بزوری، ایک اور مرتبان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس میں کیا ہے؟ شیخ نے کہا مرپہ آملہ، ایک اور مرتبان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کیا ہے؟ شیخ نے کہا خمیرہ گاؤزبان۔ ایسے ہی تین چار چیزوں پوچھنے کے بعد وہ درویش کہنے لگا کہ اللہ کے بندے! تو سارا دن چکنے والی چیزوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے تیری جان کیسی نکلے گی؟ فرید الدین عطار جو اس وقت تک شیخ فرید الدین نہ بنے تھے کہنے لگے:

”جاجا، جان ویسے ہی نکلے گی جیسے تیری نکلے گی۔“

اس نے کہا ہماری جان کا کیا ہے وہ تو پہلے سے ہی پروازوں کے لئے تیار ہے وہیں دکان کے سامنے لیٹ گئے اور اپنی چادر اوپر لے لی، انہوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے لیکن جب تھوڑی دری بعد جا کر دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فرید الدین عطار کے دل پر چوت لگی پہلے عطار تھے اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں شیخ عطار بنادیا۔ یا

اللہ! ہم سب کے دلوں پر وہ رحمت نازل فرمادے جس سے تو نے ایک لمحے میں عطار کو شخّ عطا بنا دیا۔

سے تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے
اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں

یا اللہ! آخرت کے لحاظ سے ہم سب گدا ہیں، فقیر ہیں، خالی ہاتھ ہیں، یا اللہ!
تیری وہ رحمت جو فرید الدین عطار کے دل پر ہوئی، یا اللہ! تیری وہ رحمت جو فضیل بن عیاض کے دل پر ہوئی، یا اللہ! تیری وہ رحمت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ہوئی، یا اللہ! تیری وہ رحمت جو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ہوئی، یا
اللہ! اس انقلاب کا کرشمہ ہمارے دلوں پر بھی نازل فرماد۔

۶۱ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں

دعاۓ دیدار محبوب:

مناجات مقبول کی دعاۓ کا تیرا جملہ ہے: "ولذة النظر الى وجهك" اس لئے کہ۔

۶۲ عید کی بھی خوشی تو دوستوں کی دید ہے
کا اسی سے تعلق ہے، چوتھا جملہ: "والشوق الى لقاءك"، بھی تقریباً اسی کے ہم معنی ہے۔ اصل میں تو میں یہی تیرا جملہ بتانا چاہتا تھا پہلے دو جملے اور ان کی تفصیل ضمناً آگئی، اگرچہ اہل نظر ان حالات میں بھی لذت دیدار سے سرشار رہتے ہیں مگر پہلے ان دو جملوں میں دیدار محبوب کی تصریح نہیں آخری دو جملوں میں اس کی تفسیر و تصریح ہے۔

"ولذة النظر الى وجهك" یا اللہ! مرنے کے بعد تیرے دیدار سے جو لذت حاصل ہوگی وہ لذت عطا فرمادے، تیرے دیدار کی لذت تو وہ لذت ہے جس

پر پوری جنت کی لذتیں قربان۔

ہے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے
میں تجھ سے ہوں یا رب طلب گار تیرا
ہے جنت کی نعمت تو سب میرے سر پر
میرا ہو اے کاش دیدار تیرا
امید ہے کہ ”عید کی بھی خوشی“ کا مطلب سمجھ میں آگیا ہوگا۔ دعا کر لیں کہ یا
اللہ! مرنے سے پہلے ہی اپنے دیدار کا ایسا شوق غالب فرمادے کہ ابھی سے یہ رُب
پیدا ہو جائے کہ کب تیرے پاس پہنچوں اور دیدار کی لذت حاصل کروں اور جب تو
مجھے اپنے پاس بلائے تو تیرے دیدار کی وہ لذت مل جائے جس کے سامنے جنت کی
کسی نعمت کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لئے جو جو عذاب
بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عذاب یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے رب کی
زیارت نہیں کر سکیں گے:

﴿كَلَّا إِلَيْهِمْ عَنِ زَيْمَنِ يَوْمِ الْحِجُّوْنَ﴾ (۱۵) (ب۔ ۲۰ - ۱۵)

یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے۔
دعا کر لیں کہ یا اللہ! اپنی رحمت، اپنی شانِ محبت اور قدرت کاملہ کے صدقہ سب
مسلمانوں کو اپنی محبت اور دیدار کی لذت عطا فرمادے۔ یا اللہ! ہم سب وطن سے دور
ہیں ہمیں وطن کے قریب کر دے۔

وطن کے قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جلدی سے مر جائیں بلکہ اس کا
مطلوب یہ ہے کہ یا اللہ! تیرے علم میں جب تک ہماری حیات وطن آخوت بنانے
کے لئے نافع ہے زندہ رکھ اور اگر اس زندگی سے وطن آخوت میں کسی تم کے نقصان کا
اندیشہ و خطرہ ہے تو یا اللہ! اس سے پہلے ہمیں اخٹا لے۔ جیسے دنیا میں لوگ وطن کے
لئے دوسرے طکوں میں کانے جاتے ہیں کہ واپس وطن جا کر شادی کریں گے، محلات

بنائیں گے، وطن میں بہت بڑی تجارت کریں گے، اگر ان مقاصد کی خاطر یہ رونی ملک میں پیسے جمع ہوتے رہیں تو وطن کا فراق، وطن کی جدائی، وطن میں رہنے والے رشتہ داروں اور دستوں کے فراق کی تکلیفیں، ملک سے باہر رہنے کی تکلیفیں یہ سب تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر اپنا وطن چھوڑ کر یہ دون ملک گئے، اقارب اور دوست احباب کی جدائی اور ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں مگر وہاں کچھ بن ہی نہیں رہا، کوئی کام ہی نہیں مل رہا، کچھ کام ملا بھی تو کسی ہوٹل میں برتن مانجھنے کا یا کہیں جہاڑا دینے کا جس کی آمدی اتنی تھوڑی ہو کہ ساتھ ہی ساتھ ختم ہو جاتی ہو یا اور قرض لینا پڑتا ہو جو پونچی لے کر گئے تھے وہ بھی ضائع ہو رہی ہو تو سوچنے کے ایسی حالت میں وطن سے دور، گھر سے دور، اقارب و احباب سے دور کوئی ایک لمحہ بھی رہنا گوار نہیں کرے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس سافر خانہ میں وطن آخرت بنانے کے لئے بھیجا ہے سو اگر وطن بننے کی بجائے بگڑ رہا ہے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟

”الدنيا مزرعة الآخرة“

یہ روایت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے مگر ناقدین حدیث نے ان الفاظ کو غیر ثابت کہا ہے البتہ یہ حقیقت بلاشبہ قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔ دنیا میں رہنا مقصود نہیں، دنیا آخرت کے لئے بونے کی جگہ ہے اس کا پھل آخرت میں کھایا جائے گا اسی لئے جب تک وطن آخرت میں ترقی ہوتی رہے ہم وطن سے دوری پر صبر کریں گے۔

اللہ کے بعض بندوں کو وطن کی یاد بہت ستائی ہے ایسے وقت میں وہ اپنے دلوں کو یوں تکین دیتے ہیں۔

سے اگرچہ دور افتادم بدین امید خرسدم
کہ شاید دست من بار دگر جاناں من گیرد

تخل فراق کے نسخہ:

وطن اور ہل وطن سے فراق کا صدمہ برداشت کرنے کے کئی نسخہ ہیں:

پہلا نسخہ:

پہلا نسخہ بھی ہے جو ابھی بتایا کہ اللہ والے ایسے سوچتے ہیں کہ اگرچہ ہم وطن بنانے کے لئے اس مسافر خانہ میں رہ رہے ہیں، لیکن غفریب محظوظ کے پاس پہنچنے والے ہیں ابھی وہ محظوظ میرا ہاتھ تھام لے گا، اسی امید پر وہ مست رہتے ہیں۔

”خدانخواستہ مر نہ جائے“:

آج کا مسلمان جب اپنے کسی محظوظ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے خدا نخواستہ مر نہ جائے فون پر بھی بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا کسی کے بارے میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ نہیں مرے گا، خدا نخواستہ تو وہاں کہنا چاہئے جہاں دو احتمال ہوں، کسی کے مر نے کے بارے میں تو یہ احتمال ہے ہی نہیں کہ وہ نہیں مرے گا۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةٌ لِّلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوْفَىُونَ أُجُورَهُنَّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْزَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَّعٌ الْغُرُورُ﴾ (ب ۴ - ۱۸۵)

دostوں کے مختلف جوڑے:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا نَّلَذَّتُمُّهُ﴾ (۷) (ب ۷ - ۲۷)

الله تعالیٰ نے تین قسم کے جوڑے بنائے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَانَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَانَةِ وَأَصْحَابُ

الشَّمَاء مَا أَصْحَبَ الْمُشَمَّأةٍ ﴿١٠﴾ وَالشَّنِيعُونَ الشَّنِيعُونَ

أُولَئِكَ الْمُفَرِّيُونَ ﴿١١﴾ (ب۔ ۲۸ - ۱۱ تا ۱۱)

وطن آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے جوڑے بنادیے ایک اصحاب میں، دوسرے اصحاب مشتمل، تیسرا مقریبون۔ عام جنتی ایک دوسرے کے لئے جوڑا ہیں جسے جنتا یا اگر وہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک جماعت عام جنتیوں کی ہوگی، دوسری جماعت جہنمیوں کی ہوگی اور تیسرا جماعت الٰل جنت میں سے خواص یعنی اونچے درجے کے لوگوں کی ہوگی جنہیں مقربین کہا جاتا ہے۔ اللہ والے اگرچہ وطن آخرت سے دور ہوں لیکن وطن کی یادستانی رہتی ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ کب وہاں اپنے جوڑ کے لوگوں میں پہنچیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق تزیپاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بہت یاد آتی ہے، دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی یاد عطا فرمادیں۔

سے پہلتا ہوں شب و روز پڑا بستر غم پر
ہوتی ہے بری ہائے لگی آگ جگر کی
کائے نہیں کتنا تری فرقت کا زمانہ
ہوتی نہیں اب شام جو مرمر کے سحر کی
اس موقع پر دو شعر نیرے بھی سن لیجئے۔

سے تصور میں تیرے میں سب کھو چکا ہوں
یونہی دن بھر گزرا یونہی شب گزاری
تری یاد نے مجھ کو ایسا ستایا
اسی میں تڑپتے کئی عمر ساری
پہلے شعر کا دوسرا مصرع ہے:

۶۔ یونہی دن بھی گزرا یونہی شب گزاری

اس میں دن کے ساتھ لفظ "گزرا" ہے اور رات کے ساتھ "گزاری" دونوں میں فرق یہ ہے کہ دن میں تو کئی مشاغل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کئی خبریں کان میں پڑتی رہتی ہیں یوں کچھ نہ کچھ سانی سے دن گزر جاتا ہے اگرچہ پھر بھی درد چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔

سے حسینوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں
مگر ہائے پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں
رات میں تو بس بندہ اور اللہ، ان دونوں کے سوا اور تو کوئی ہوتا ہی نہیں وہ تو پھر
گزارنا پڑتی ہے۔

سے پھیرلوں رخ پھیرلوں ہر ما سوا سے پھیرلوں
میں رہوں اور سامنے بس روئے جانا رہے
دن گزارے ساز میں رات گزاریں سوز میں
عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے

سے اے سونتہ جاں پھونک دیا کیا مرے دل میں
بے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، گھر والے اور دوست احباب کہہ رہے تھے "واکر باہ" ہائے ہم تو لٹ کئے یعنی بہت بڑا صدمہ ہو گیا یہ بہت بڑی نعمت ہم سے لٹی جا رہی ہے، ارے ہم تو لٹ کئے۔ حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے جبکہ لوگ روتے ہیں، فرمایا: "وااطرباہ!
القى غداً مهداً وصحبه" ارے واہ خوشی! ابھی ایک لمحے میں محمد صلی اللہ علیہ

وسلم اور آپ کے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملا۔ کچھ نہ پوچھئے کیسی شادی ہو رہی ہوگی۔

سے ولدتك امك يا ابن آدم باکيا
والناس حولك يضحكون سرورا
فاعمل لنفسك کي تكون اذا بكوا
حين موتك ضاحكا مسرورا

سے یاد داری کہ وقت زادن تو
مردان خندان و تو گریان
ایں چنین زی کہ وقت مردن تو
مردان گریان و تو خندان

شاعر کہتے ہیں کہ کیا تھے کچھ معلوم بھی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے رشتے
دار ہنس رہے تھے، خوشیاں منار ہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے مگر تیری چیخ نفل گئی
تو رورہا تھا اب تو اللہ کے قانون کے مطابق یوں زندگی گذار دے کہ جب دنیا سے
تیرے رخصت ہونے کا وقت آئے تو تیرے رشتہ دار روئیں اور تو اپنی مستی میں حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہے: ”وااطرباہ۔“

دوسرانسخہ:

وطن کی یادستائے تو یہ سوچا کریں کہ بس ابھی پہنچنے والے ہیں، دنیا میں جب
تک ہیں مزید کمالیں انشاء اللہ مزید نعمتیں مل جائیں گی۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے سے
کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں لہذا اس کی قدر سمجھے فضول اور لغو باتوں میں وقت ضائع
کرنے کی بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری رکھیں لیکن وہ بات یاد رہے کہ جب تک گناہ

خطبات الرشید

نہیں چھوڑیں گے کام نہیں بنے گا۔ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ نافرمانیاں بھی کریں، ڈاڑھیاں بھی منڈائیں، مخنوں سے نیچے شلوار بھی رکھیں، اُٹی وی بھی دیکھیں، نندوئی، بہنوئی، دیور، جیٹھ اور زادوں سے پردہ بھی نہ کریں اور لا الہ الا اللہ پڑھیں تو کام بن جائے گا، یہ خیال غلط ہے گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ جب ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ کا نام لینے سے اتنی ترقی ہو جاتی ہے تو گناہ کے تقاضے سے بچنے پر کتنی ترقی ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تقاضا پیدا ہو اور اس کو روک لیا جائے تو ذکر اللہ کی بنسوت ہزاروں درجہ زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی تنگی صورت یعنی پھر نے والی عورت کو دیکھنے کا دل چاہا کہ ایک نظر انھا کر دیکھ لویںکن مخفی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے کہ کہیں دنیا و آخرت دونوں بر باد نہ ہو جائیں، دل کا سکون نہ لٹ جائے، دل کی حفاظت کے لئے نظر کو ذرا سا جھکا لیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تو ایسے شخص کی پرواز اتنی بلند ہو جائے گی کہ ہزاروں سال فضل پڑھتا رہے تو بھی وہ ترقی نہیں ہوتی۔

تیسرا سخن:

اللہ والوں کے لئے جب وطن کی یادستائی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ محبوب اگرچہ نظر نہیں آتا مگر وہ محبوب بار بار یہ اعلان فرماتا ہے کہ جو میرا بن جاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگرچہ وہ محبوب نظر نہیں آ رہا مگر وہ میرے ساتھ ہے مجھے اس کی رضا حاصل ہے، اس کی رحمتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک سانس کے ساتھ اس کی بے شمار رحمتیں ہو رہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر دنیا ہی میں جنت کے مرے آنے لگتے ہیں۔

میں گو کہنے کو اے ہدم اسی دنیا میں ہوں لیکن
جهاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سر زمیں میری

سے میں دن رات جنت میں رہتا ہوں گویا
مرے باغ دل کی وہ گل کاریاں ہیں
الفرض فراق وطن کا غم ہلاکرنے کے تمن نسخے ہیں:

۱ یہ سوچا جائے کہ عنقریب وطن پہنچنے والے ہیں۔

۲ مسافر خانے میں رہ کر وطن بنا رہے ہیں۔

۳ حقیقی دوست اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

یہاں تک تو اس پر بیان ہوا کہ عید کی بھی خوشی کیا ہے؟ آگے یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ عید پر خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟

عید کی خوشی کس چیز کی ہے؟

چونکہ عید کے معنی ہیں "خوشی" لہذا یہ بات سوچنے کی ہے کہ عید کی خوشی کس چیز کی خوشی ہے؟ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض اداء کرنے کی توفیق عطا فرمادی، اپنی رحمت سے روزے پورے کروادیے لیکن عارفین فرماتے ہیں:

"عید کی خوشی اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ دن بھر بھوکار ہئے کا حکم دینے کے بعد عید کے دن کھانے پینے کی آزادی پر خوشی ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔"

عارف کا مطلب:

عارفین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان ڈال دیتے ہیں۔ معرفت جتنی کاملہ ہوتی ہے انسان اسی حد تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچتا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں اگر پہچان لے تو کبھی نافرمانی نہ کرے، عارف بہر حال اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی

رہتا ہے۔

ہمیشہ مالک کی رضا پیش نظر ہے:

رمضان اتنیس دن کا ہو یا تیس کا اس بارے میں بھی اپنی خواہش کو دخل دینا صحیح نہیں، بہر حال مالک کی رضا پیش نظر ہے، کمزور ایمان والے لوگ تو جلدی سے جان چھڑانے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے عید ہو جائے، نہ بھی ہو تو زبردستی کہیں سے کھینچ تاں کر چاند نکال لائیں، اور جن لوگوں کو دین بے تعلق ہے مگر خود ہی دیندار یا صوفی بن گئے کسی کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ایسے لوگ جو شہر میں آکر یوں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایک روزہ اور ہو جائے؟ اللہ کرے چاند نظر نہ آئے ایک روزہ اور مل جائے بلکہ ایک مہینہ کافی نہیں دو ہوں تو اچھا ہے۔ اور جن کو کسی دل والے کی صحبت مل جاتی ہے ان کی خواہش ان دونوں سے مختلف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس میں مالک راضی ہوا ہی میں ہم بھی راضی، وہ مالک اگر کھلانے میں راضی ہو تو ہم بھی کھانے میں راضی اور وہ بھوکار کھنے میں راضی تو ہم بھی بھوکے رہنے میں راضی جس پر وہ راضی اس پر ہم بھی راضی۔ ان لوگوں کی اپنی مرضی کچھ ہوا ہی نہیں کرتی، صرف مالک کی مرضی پر نظر رہتی ہے، جس پر وہ راضی اسی پر یہ راضی۔

دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے:

یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ من جانب اللہ انسان کے لئے دو حلقوں ہیں:

① تکونی ② تشریعی۔

تکونی سے مراد وہ امور ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کے حالات پر عموماً جو تقدیر گزرتی ہے مثلاً کبھی بیمار ہے تو کبھی تندروست، کبھی بیگدست ہے تو کبھی تو نگر، کبھی تکلیف کبھی راحت، ان امور کو تکونی امور کہا جاتا ہے۔ تکونی امور انسان پر جو کچھ بھی گزریں ان پر راضی رہے مگر دعاء ہمیشہ یہ رہے کہ یا اللہ! تو راحت،

سکون اور عافیت کی دولت عطا فرمائیں ان کی فکر میں نہ پڑے، کیونکہ دنیا صرف مسافر خانہ ہے جس کی نہ راحت کا اعتبار نہ تکلیف کا اعتبار، کوئی راحت ہے تو بھی گزر جائے گی اور کوئی تکلیف ہے تو بھی گذ جائے گی۔

ع گذرگئی گذران کیا جھونپڑی کیا میدان

اصل فکر وطن آخرت کی ہونا چاہئے کہ وہاں اللہ تعالیٰ دائی راحت عطا فرمائیں۔ یہاں تو ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب قیامت آئے گی تو جو شخص لقدر اٹھا کر منہ کے پاس لے گیا ہوگا اسے منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔“ (مسند

(احمد)

یہ جب ہے ہی مسافر خانہ تو انسان نہ اس کی راحت پر اترائے نہ تکلیف سے گھبرائے، عارضی چیز ہے گذر گاہ ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اصل اہمیت وطن کی ہے کہ خدا خواستہ وہاں کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ صبر کے ساتھ راحت کی دعا، بھی کرتے رہنا چاہئے۔

غرض یہ کہ دنیوی تکالیف میں گھبراانا تو نہیں چاہئے مگر دعا یہ رہے کہ یا اللہ! اس مسافر خانے کا سفر بھی راحت سے گزار دے، ہم بہت کمزور ہیں کسی امتحان اور ابتلاء کے لائق نہیں، امتحان اور ابتلاء تو بڑے لوگوں کا ہوا کرتا ہے، ہم کس قابل ہیں۔

سے والطف بعدك فی الدارین ان له

صبرا متى تدعه الاهول ينهزم

یا اللہ! اپنے اس بندہ کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لطف و کرم کا معاملہ فرماء، اس لئے کہ میرا صبرا یا کمزور ہے کہ جب کوئی مصیبت اسے مقابلہ کی دعوت دیتی ہے تو یہ صبر دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔

کبھی بھی یہ دعا ہرگز نہ کریں کہ ہم پر کوئی مصیبت آجائے تو ہم اس پر صبر کریں

تاکہ نہیں مقام صبر مل جائے۔

مقام صبر:

ہاں مصیبت آجائے تو صبر کریں اور یوں دعا کریں کہ یا اللہ! اسے زائل فرم اور جب تک زائل نہیں ہوتی صبر عطا فرما۔ ایک صبر تو یہ ہو گیا مصائب پر، دوسرا صبر ہے عبادت پر کہ یا اللہ، عبادت پر نہیں صبر عطا فرمائیں استقامت عطا فرما، مداومت کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا صبر ہے گناہوں سے کہ یا اللہ! نہیں گناہوں سے صبر عطا فرمائے کہ کسی گناہ کے قریب بھی نہ بھکیں، اس پر استقامت عطا فرما۔ ان آخری دونوں قسموں یعنی عبادت پر صبر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کی کوشش اور دعاء میں ہر وقت لگے رہنا چاہئے۔ مگر یہ تمنا یہ دعا ہرگز نہ کرے کہ کسی گناہ کا موقع پیش آئے تاکہ اس سے بچنے کا ثواب حاصل کروں، اس لئے کہ یہ صابرین میں سے ہونے کا دعویٰ ہے، بس یہ کوشش اور دعاء رہے کہ گناہوں کے موقع پیش ہی نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ صبر کی دعا کر رہے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ آفات کو دعوت دے رہے ہو، عافیت طلب کیا کرو۔ (ترمذی)

یعنی صبر کی دعاء کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں نہیں اور ہم ان پر صبر کریں ایسی دعاء
ہرگز نہ کی جائے

صابر نام رکھنا:

صابر نام بھی نہیں رکھنا چاہئے، ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے صابر نام رکھا وہ دنیا میں تنکالیف ہی میں بتا رہے، اتنا بڑا دعویٰ انسان کیوں کرے کہ میں صابر ہوں، شاکر نام رکھنا چاہئے یا عاجز۔

ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت

کمزور ہو رہے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تعبیر فرمائی کہ ایسا ہرگز مت کہو بلکہ یوں دعا کرو کہ یا اللہ، آخرت میں بھی معاف فرماؤ اور دنیا میں بھی معاف فرم۔ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کسی صورت میں بھی دعوت نہ دی جائے، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ سے راحت و عافیت طلب کی جائے۔

یہ حکم ہے تکوینی امور کا کہ تکلیف آئے تو صبر سے کام لے گھبرائے نہیں بلکہ دعا، ہر وقت یہی رہے کہ یا اللہ! تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دے، مرض کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، یوں تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مگر مرض و تکلیف کی نعمت کا ہم کمزوروں کو تحل نہیں۔

تشريعی امور میں شریعت کے ادکام و مسائل میں اپنی طرف سے کچھ اختیار نہ کرے کسی چیز کی تمنا یا دعا نہ کرے بلکہ مالک کے حکم پر راضی رہے، مالک نے جس وقت میں جو فرض کر دیا ہے اسی پر راضی رہے اور جس موقع پر چھٹی دے دی ہے اس پر خوش رہے، اپنی طرف سے کسی ایک جانب کی تمنا یا دعا کرنا مثلاً یہ کہ ایک روزہ اور ہو جائے غلط بات ہے بس جس پر اللہ تعالیٰ راضی اس پر ہم بھی راضی۔

دونوں کا فرق ذہن نشین کر لیجئے کہ تکوینی امور میں تو اپنی سہولت و راحت اور عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔ اور تشريعی امور میں نفس پر جو گرانی ہو جیسی حالت بھی گزرے چون و چہا کی کوئی محجاش نہیں۔ اپنے نفس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اپنی مرضی نہ چلائے، سفر دو کی بجائے چار رکعت پڑھیں تو گناہ کیا، شریعت کے خلاف کیا اس لئے کہ شریعت نے تو چار کی بجائے دو مقرر کی ہیں اور احکام شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں باوجود سفر کے

فرصت بھی ہے اور ہمت بھی کیوں آدھی پڑھیں؟ ہم تو پوری پڑھیں گے، تو پوری پڑھنے پر ثواب کچھ نہیں ہوگا سخت گناہ ہوگا اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم میں سہولت دیں، رعایت فرمائیں اور آپ اعراض کریں، کتنی بڑی گستاخی ہے؟

سے گر طمع خواہد زمن سلطان دین

خاک بر فرق قناعت بعد زین

تشریعی امور میں صحیح فہم کا فیصلہ ہی ہے کہ مالک کی طرف سے جو حکم آئے دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ وہ عید کرا دیں تو اس پر راضی، روزہ رکھوادیں تو اس پر راضی، کھلائیں تو خوش، بھوکار کھیں تو خوش، رضاۓ یار میں اپنی رضاگم ہو جائے، اپنی کچھ تمنا ہی نہ ہو۔ زمان خواہ انتیس کا ہو یا تیس کا بہر حال اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہتا چاہئے، وہ انتیس کے بعد عید کر کے کھلانا چاہیں تو ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے، عارفین کی نظر میں عید کی خوشی کا سبب یہی ہے کہ وہ کھانے میں خوش تو ہم کھانے میں خوش۔

بھی خوشی کی علامت:

اس زمانے میں اوگ عید میں خوشی ظاہر تو کرتے ہیں لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کے دلوں میں واقعہ خوشی ہے بھی یا نہیں؟ مصنوعی خوشی کو ظاہر کرنا اور بات ہے اور واقعہ دلوں میں خوشی کا ہونا ایک الگ بات ہے۔ نئے کپڑے، کام کا ج کی چھپی، بہت کمی، دوستیوں سے ملا تھا تیس اور عید مبارک عید مبارک کی رٹ لگا کر خوشی کا اظہار تو دوست ہے پئی خوشی ہرگز نہیں مل سکتی۔ دلوں میں خوشی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اللہ نعم کا فیصلہ ہے:

لَنْ أُمْرِضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَمَعْشَدَةً يَوْمَ الْآزِيْكَمَةِ أَغْمَى [١٢] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي

أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنْشَأَ مَا يَنْتَنَا فَنَسِينَاهَا

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنسَوْنَا ﴿١٦﴾ (ب۔ ۱۶ - ۱۲۶ تا ۱۲۷)

تَرَجُّحَة: ”اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے
تینگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا (کر کے قبر سے)
انھائیں گے۔ وہ (تعجب سے) کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھ کو
اندھا (کر کے) کیوں انھایا میں تو (دنیا میں) آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا
کہ ایسا ہی (تجھے سے عمل ہوا تھا اور یہ کہ) تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے
تجھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا
جائے گا۔“

جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی زندگی تینگ
تینگ رکھتے ہیں، کبھی اس کو سکون نہیں دیتے۔ خوشی کو ظاہر کرنا یعنی اچھے کپڑے
پہن لینا، اچھے کھانا کھانا، معاشرے کر لینا، دوست دوست کہہ کر ملاقاتیں کر لینا اور
مبارک باد مبارک باد کہہ دینا، یہ اللہ کی نافرمانی سے دلوں میں پیدا ہونے والے غم کو بکا
کرنے اور عارضی طور پر تھوڑا سا سن کرنے کا انجکشن ہے، نافرمان شخص ہنس ہنس کر،
خوشی کا اظہار کر کے دلوں میں لگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کانٹوں کی چھین کو ختم کرنا
چاہتا ہے لیکن ایسا کرنے سے ذرا سا عارضی سکون تو مل جاتا ہے مگر پھر پہلے سے بھی
زیادہ درد کی شیسیں اٹھتی ہیں۔

بیرونی اقوام کی بکثرت ہنسی کا راز:

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرونی اقوام ہنستے بھی بہت زیادہ ہیں اور ایک دوسرے
سے مزاح بھی بہت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے درد ان کے
دلوں میں ایسے اٹھتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ نہ نہیں اور ایک دوسرے سے مزاح نہ کریں تو

ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ چند دن زندہ رہنے کے لئے وہ ہنس کر مزار کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔

جده میں ایک کمپنی کے ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ اس کمپنی کے ذمہ داروں نے کمپنی کے افراد اور ملازمین کو صحت برقرار رکھنے کے اصول سکھانے کے لئے امریکا یا انگلینڈ سے کسی کو بلایا۔ اس نے صحت برقرار رکھنے کا ایک قاعدہ یہ بتایا:

”آئینے کے سامنے تھوڑی دریکھڑے ہو کر ہسا کریں۔“

میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ان کے سامنے ہر وقت ”رخ یاڑ“ رہتا ہے۔

سے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار
جب ذرا گردن جھکائی دیکھے لی
اللہ کے بندے تو ہر وقت ”رخ یاڑ“ دیکھتے رہتے ہیں انہیں آئینہ دیکھ دیکھ کر رہنے
کی کیا ضرورت؟

سے میں یوں دن رات جو گردن جھکائے جیسا رہتا ہوں
تری تصویر یہی دل میں کچھی معلوم ہوتی ہے

سے ما در پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذت شرب دوام ما
ارے اللہ کی محبت سے خالی! تجھے کیا معلوم کہ ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلووں
کی لذت و حلاوت پا رہے ہیں، تجھے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی لذت کیا
ہے؟

سے لطف مے تجھ سے کیا کہوں زاہد!
ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں

اللہ کے نافرمان آئینے دیکھو دیکھ کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اُن وی دیکھ کر، پس ہنس کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں یا ہنسا ہنسا کر بہر حال ایک دو لمحے کا سکون ملنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا چھرا اول میں لگتا ہے تو یہ نافرمان خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئینے دیکھو دیکھ کر تھوڑی دیر زندہ رہنے والے کتنی خود کشی کرتے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بیرونی ممالک میں اوپر کی منزلوں میں کھڑکیاں نہیں بناتے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کائنے دلوں میں چھتے ہیں تو پریشان ہو کر کھڑکیوں سے کوڈ کر مر جاتے ہیں۔

ان کی مثال تو وہی ہے جو میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ ایک گدھے کی دم کے نیچے کا نٹا لگ گیا، اس کو اتنی عقل تو تھی نہیں کہ سکون کیسے ملے گا؟ اتنی عقل ہوتی تو کسی انسان کے پاس چلا جاتا وہ کا نٹا صحیح دیتا تو سکون مل جاتا، لیکن گدھا جو نٹہرا اس میں اتنی عقل کہاں؟ اس نے اپنی دم زور زور سے رانوں پر لگانا شروع کی، وہ سمجھتا تھا کہ اس سے کا نٹا نکل جائے گا لیکن نکلنے کی بجائے وہ کا نٹا اندر گھستا گیا بس یہی حال نافرمانوں کا ہے کہ یہ نافرمانیاں کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اُن وی دیکھنے سے دل بہل جائے گا لیکن دل بہلنے کی بجائے پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جتنی کریں گے پریشانیاں اور بڑھیں گی، جتنی بار دم لگائیں گے کا نٹا اور اندر گھے گا۔

سے جتنا ترپو گے جال کے اندر

جال گھے گا کھال کے اندر

نافرمانیاں چھوڑے بغیر سکون حاصل کرنے کی تدبیریں لگاؤ گے تو جال کھال میں اور بھی زیادہ گھستا چلا جائے گا۔

کراچی کے پر آشوب حالات میں سویوں کی تقسیم:

ایک دو روز پہلے کسی نے فون پر پوچھا کہ ہم کراچی کے پریشان کن حالات جن میں ہزاروں لوگ مر گئے ہیں سویاں ایک دوسرے کے گھروں میں پہنچائیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ سویاں کھاؤ بھی اور پہنچاؤ بھی اس لئے کہ حالات آپ کے سویاں کھانے یا چھوڑنے سے نہیں سدھریں گے، حالات سدھریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنے سے سدھریں گے۔

تَقْرِيمِهِ: چونکہ محمد اللہ ہمارے ماحول میں اس قسم کی رسم کا کوئی وجود نہیں اس لئے مجھے یہ خیال نہ آیا کہ سوال ناجائز رسم کے بارے میں ہے ورنہ میں اسی وقت تنبیہ کرتا کہ عید کے دن سویاں پکانے کا التزام اور ایک دوسرے کے گھروں میں صحبت کی رسم ناجائز ہے، پھر ان ناجائز کاموں کو کارثوں سمجھا جاتا ہے جو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے بیان کے شروع میں یہ آیات پڑھیں

ہیں:

﴿أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ۱۶ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ۱۷
لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ۱۸﴾

(ب ۱۱ - ۶۲ تا ۶۴)

ان آیات کا مضمون چونکہ بہت اہم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں فرمایا "الا" "الا" کے معنی ہیں خبردار یعنی خبردار ہو جاؤ کر آگے ایک ایسا مضمون آرہا ہے جس پر دنیا و آخرت دونوں کی فلاح موقوف ہے۔ پھر الا سے متوجہ کرنے کے بعد فرمایا "ان" یہ حرف تاکید ہے جس کے معنی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

خبردار ہو کر سنو یہ یقینی بات ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک و شہہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی غم نہیں آتا:

(۱۰۸) إِنَّ أَنْوَارَهُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَفُونَ ﴿۶۶﴾ (۶۶-۱۰۸)

اللہ کے دوستوں کو نہ آئندہ آنے والی کسی پریشانی کا خوف ہوتا ہے کہ سوچتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے اور نہ ہی انہیں کسی گذشتہ نقصان کا غم ہوتا ہے۔ پچھے بھی ہو جائے خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے یہ بہر حال خوش رہتے ہیں اس لئے کہ جان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی اگر چلی گئی تو اس میں بندے کا کیا نقصان؟ مقصد حیات پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت کمانے کے لئے بھیجا ہے سو اگر واپس بلا لیں تو سفر ختم ہو گیا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سفر میں وطن کے لئے کمایا یا گنوایا؟ وطن کو بنانا یا بگاؤنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے، رہی یہ بات کہ وطن کیوں چلا گیا؟ تو اس پر تو خوش ہونا چاہئے کہ وطن وطن ہے وہاں تو جانا ہی تھا۔ جنہوں نے وطن کو پہچان لیا، جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ تو ہر وقت تذپتے رہتے ہیں کہ ہم وطن کب جائیں گے؟

شو ق وطن:

دارالافتاء کے متعلقین میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے بخیرے میں بند کئی طوطوں میں سے ایک طوطا اڑ گیا ہو اور دوسرے اس غم میں پھر پھزارہے ہوں کہ بائے ہمارا ساتھی اڑ گیا ہم کب جائیں گے؟ انہیں اس کا دکھ نہیں کہ وہ کیوں اڑ گیا؟ وہ تیجارتے اس لئے پھر پھزارہے ہیں کہ وہ وطن چلا گیا ہم کب جائیں گے؟ یہ شوق وطن کا تقاضا ہے کہ انسان کو ہر وقت وہاں

جانے کی فکر ہے۔ اگر وطن کی طرف پرواز کا موقع نہیں تو کم از کم پھر پھڑاتے ہی رہیں۔

سے ترس کچھ آچلا صیاد کو ہاں پھر پھڑائے جائے
کہ شاید صورت پرواز ہی پرواز بن جائے
ایسے موقع پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صورت مبارکہ سے نفرت ہے، محبت نہیں تو کم از کم ذرا ہمی ہی رکھ لے، انشاء اللہ
تعالیٰ اس کی برکت سے ظاہر کا اثر دل پر آجائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ پرواز نہیں
کر سکتے تو پھر پھڑانا ہی شروع کر دو۔

؍ کہ شاید صورت پرواز ہی پرواز بن جائے
یا اللہ! ہم سب کو اپنی رحمت سے آخرت کی پرواز میں عطا فرم۔

معیار ولایت:

اللہ تعالیٰ نے تاکیدوں پر تاکید میں لا کر یہ بتا دیا کہ بلاشبہ و شہہر اللہ کے
دوستوں پر نہ ہی آئندہ کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی گذشتہ تنکیف کا غم، لیکن یہ
بات رہ گئی کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ چنانچہ آگے بہت مختصری دو باقتوں میں اولیاء
اللہ کی تعریف کرتے ہیں:

﴿الَّذِينَ إِيمَنُوا وَكَانُوا يَسْقُطُونَ﴾ (۱۲ - ۱۱) (ب)

جو شخص بھی یہ دو کام کر لے یعنی ایمان درست کر لے اور ہر نافرمانی چھوڑ دے وہ
ولی اللہ بن جائے گا، لوگوں نے ولی اللہ یا اولیاء اللہ کو بہت بڑی چیز کچھ رکھا ہے، یہ
نفس و شیطان کا فریب ہے کہ ولی اللہ بننا بہت ہی مشکل ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو آسمان پر اڑے، بعض کے خیال میں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو
دریا پر کھڑا ہو جائے تو اس کا دامن ترنہ ہو، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی دعا سے بیڑا
پار ہو جائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، بعض کے خیال میں جس کے شومنتر سے سب لوٹ

پوٹ ہو جائیں وہ ولی اللہ ہے اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو رہے کر اچی میں اور ساری نمازیں پڑھے مکہ میں، اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے ان تمام مکاید کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سن لو ولی اللہ کون ہوتا ہے؟

﴿الَّذِينَ مَا مَنُوا وَكَانُوا يَسْقُونَ﴾ (ب ۱۱ - ۶۲) ۶۲

ایک لمحہ میں ولی اللہ بننے کا طریقہ بتادیا۔ بس دو کام کرو۔

❶ ایمان صحیح کرو۔

❷ ہر نافرمانی چھوڑ دو۔

ایمان درست کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک لمحہ کی بات ہے۔ رہا دوسرا کام یعنی ہر نافرمانی چھوڑنا تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں اس لئے کہ دیر تو اس وقت لگتی ہے جب کوئی کام کرنا پڑے، دس کاموں میں جتنی دیر لگتی ہے میں میں اس سے زیادہ دیر لگے گی، سو ہیں تو اور دیر لگے گی، ہزار ہیں تو اس سے بھی زیادہ دیر لگے گی لیکن چھوڑنے میں تو کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا۔ چھوڑنے میں تو آپ ایک کام کو چھوڑ دیں یا لاکھوں کو چھوڑیں وقت تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ حاصل یہ کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان صحیح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا یہ انعام ہے کہ وہ بے خوف و خطر رہتے ہیں، ہر حال میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی خوشیاں:

اولیاء اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خوشیاں، کیسی کیسی عیدیں اور کیسی کیسی مسرتیں پیدا فرماتے ہیں اس بارے میں فرمایا:

﴿لَهُمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (ب ۱۱ - ۶۲)

ترجمہ: ”ہم دنیا میں بھی ان کے دلوں میں بشارت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے دل خوش رہیں گے، ہماری طرف سے انہیں ہر

وقت بشارت ملتوی رہتی ہیں۔“

اس پر ذرا سوچیں اور روزانے سوچنے کی عادت ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں یا نہیں؟ سوچیں کہ زندگی میں کون کون سی نافرمانیاں ہیں؟

سوچنے کی عادت پیدا کرنے کا نسخہ:

سوچنے کی عادت ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء میں اپنی سہولت کے مطابق کوئی ایک وقت معین کر لیں، جو وقت بھی مناسب ۔ سمجھیں معین کر لیں جیسے رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کا وقت۔ اس معین وقت میں تھوڑی دری کے لئے سکون و اطمینان کے ساتھ اس بات کو سوچا کریں۔ شروع تو اس طرح کریں پھر جب اس کا اثر ہوتا جائے گا تو سوچنا نہیں پڑے گا بلکہ خود بخود وہ بات دل میں آتی ہی رہے گی۔

قوانين سکھنے کی اہمیت:

یہ جو بتایا کہ کسی معین وقت میں تھوڑی دری کے لئے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نافرمانیاں چھوڑ دیں اور کون کون سی باقی ہیں ان نافرمانیوں کا علم جب ہی ہو گا کہ اللہ کے قوانین کا علم ہو۔ اگر کسی حکومت کے قوانین کا علم ہی نہیں تو سینکڑوں خلاف ورزیاں کرنے کے باوجود یہی سمجھتا رہے گا کہ میں تو حکومت کے کسی قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ مسائل سکھنے جائیں۔ اردو میں اللہ کے قانون کی آسان تر، جامع، کامل، مکمل، مدلل، پختہ اور بکی کتاب ”بہشتی زیور“ ہے۔ اسے پڑھنے سننے کا معمول بنائیں۔

دیور سے پرده فرض ہے:

اللہ تعالیٰ عبرت کے بعض قصے سامنے لے آتے ہیں جنہیں میں بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ پچ پلاکا کران قصوں کو دلوں کے اندر گھسیر دوں، یا اللہ!

ہنا میرا کام ہے، دلوں میں اتارنا تیرا کام ہے۔ عبرت حاصل کرنے والے ان قصوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔

اس بارے میں کہ آج کے مسلمان کو اللہ کے قوانین کا علم نہیں میں اکثر یہ قصہ بتاتا رہتا ہوں کہ پشاور سے ایک شخص نے خط لکھا کہ میں نے تبلیغ میں بیرونی ملکوں میں پیدل کئی چلے لگائے ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں رہی ہر گناہ سے بچا ہوا ہوں۔ انہوں نے لکھا تو نہیں لیکن اپنے خیال میں وہ خود کو ولی اللہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس لئے کہ جب کوئی گناہ نہیں رہا تو ولی اللہ تو بن ہی گئے، لپٹنے سے جنت میں۔ لکھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں رہی ہر گناہ سے بچا ہوا ہوں مگر جب دارالافتاء سے تعلق رکھنے والے کسی صاحب نے بتایا کہ دیور سے پردہ فرض ہے تو میں بہت پریشان ہوا۔ یہ بھی ان کی صلاحیت کی علامت ہے کہ خود کو پارسا سمجھ رہے تھے مگر جب ایک گناہ ثابت ہو گیا تو پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ کو دین میں اور زیادہ ترقی و استقامت عطا فرمائیں، ورنہ آج کل کا مسلمان تو یہ کرتا ہے کہ جن گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ان کے بارے میں اگر کوئی اسے یہ بتائے کہ یہ گناہ ہیں تو کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ! یہ کوئی گناہ نہیں ویسے ہی ملاویں کی بنائی ہوتی باتیں ہیں۔ ان کے خط سے ثابت ہوا کہ ان کے دل میں فکر ہے۔ تصدیق کے لئے بھاگے بھاگے ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ کیا دیور سے پردہ فرض ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں دیور سے پردہ فرض ہے۔

علم سے عمل کی توفیق مل سکتی ہے:

جس کو اللہ کے قانون کا علم ہوا اگر وہ اس پر فی الحال عمل نہیں کرتا تو شاید کبھی کر لے اور نہیں بھی کرے تو کم سے کم خود کو اقراری مجرم تو سمجھے گا کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، دل میں ندامت تو ہوگی۔ لیکن جب اللہ کے

قوانين کا علم ہی نہیں تو ہزاروں گناہ کرتے ہوئے بھی خود کو ولی اللہ سمجھے گا۔ ایسے شخص کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔

بہشتی زیور کی تعلیم:

میں تبلیغی بھائیوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جس پیار و محبت اور جس لگن سے دوسری کتابوں کی تعلیم کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کے قانون کی کسی کتاب کی تعلیم کا سلسلہ ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ کچھ پتا تو چلے۔ اردو میں اللہ کے قانون کی آسان تر، جامع، کامل، مکمل، مدلل، پختہ اور کمی کتاب ”بہشتی زیور“ ہے۔ اس کا کچھ چرچا کریں پڑھانا کریں تاکہ اللہ کے قوانین کا علم ہو۔

سرسری محسوسہ:

یہ جو بتایا کہ کوئی وقت معین کر کے رزانہ تھوڑی دیر کے لئے سوچا کریں کہ اللہ کا قانون تو نہیں توڑ رہے؟ سو اگر سوچنے کے بعد پتا چلا کہ فلاں فلاں غلطی غلطی ہوتی ہے تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگیں یا اللہ! یہ غلطی ہو گئی معاف فرمادے اور آئندے کے لئے حفاظت فرم اور اگر اس کی تفصیل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قوانین کا علم حاصل کرتے رہیں پھر سرسری جائزہ لینے میں یہ ثابت ہو کہ کوئی غلطی نہیں ہو رہی یا یہ کہ فلاں گناہ کی عادت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھوٹ گئی ہے تو اس پر الحمد للہ کہیں بلکہ دور کعت نفل شکرانہ کے بھی پڑھ لیں تو اور بھی اچھا ہے۔ غلطی پر دور کعت نفل توبہ کے اور کسی گناہ کے چھوٹنے پر دور کعت نفل شکرانہ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔

دولوں میں خوشی ٹھوٹیں:

دوسری بات یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ اعلان فرمایا

ہے کہ جو لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، میری نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا میں پریشان نہیں ہوتے، فرمایا:

﴿لَهُمُ الْبَشَرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَنْدِيلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ (ب۔ ۱۱ - ۶۴)

جو لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں دنیا میں بھی خوش رکھتا ہوں اور یہ میرا ایسا فیصلہ ہے کہ اس میں کبھی قیامت تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی:

﴿لَا تَنْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ (ب۔ ۱۱ - ۶۴)

اللہ کے اس فیصلے کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔

﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (۱۱) (ب۔ ۱۱ - ۶۴)

یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا چھوٹ جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک تو یہ فرمادیا کہ بہت بڑی کامیابی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ بہت بڑی کامیابی صرف یہی ہے اس کے سوا دنیا بھر کی کوششیں کر لیں کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، سب سے بڑی کامیابی ہے تو صرف یہی۔ اس مضمون کی کتنی آئینیں ہیں مثلاً: فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبِّنَا اللَّهَ ثُمَّ أَسْتَقْدَمُوا تَسْتَأْزِلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ۲۰ ﴿ نَحْنُ أَوْلَيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا شَتَّهَى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا أَدَدْعُونَ ﴾ ۲۱ ﴿ نُزِّلَ لَمَّا مَنَ عَفْوُرَ رَجِيمٌ ﴾ (۲۱)

(ب۔ ۲۱ - ۳۰ فا ۳۲)

جن لوگوں نے ربنا اللہ کہ دیا یعنی یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ربویت، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو تسلیم کر لیں، اور کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے کسی قانون کے خلاف نہیں کریں گے،

کسی بات میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سو جو لوگ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو تسلیم کر کے: "ثُمَّ أَسْتَقْدِمُوا" پھر اس کو بخاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے:

﴿تَسْتَرِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (ب ۲۰ - ۳۲)

ان کے دلوں پر ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں: "أَلَا تَخَافُوا" ارے! آئندہ آنے والے حالات سے مت ذرو۔ "وَلَا تَحْرَزُوا" اور اگر دنیا میں کوئی نقصان ہو گیا تو غم مت کھاؤ اس لئے کہ اس میں تمہیں جو اجر ملا، جو رحمت ملی وہ تم سے لی ہوئی چیز سے ہزاروں ہزاروں درجہ زیادہ ہے سو اس صورت میں تمہارا نقصان کہاں ہوا؟

کوئی شخص گھر سے ہزاروں لاکھوں روپے نکلا کر کسی بہت بڑی تجارت میں لگا رہا ہو اور کوئی پاگل کہہ دے کہ ارے اس کا کتنا نقصان ہو گیا تو عقل مند اس پاگل کی حماقت پر نہیں گا کہ اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ روپے بہت بڑی تجارت میں لگ گئے نقصان کہاں ہوا؟

ای طرح اللہ کا وہ بندہ جس نے اپنے مالک و رزاق کو راضی کر لیا اس کا کوئی بھی نقصان ہو جائے خواہ وہ مال کا نقصان ہو یا جان کا، صحت کا نقصان ہو یا عزت کا، کچھ بھی ہو جائے وہ نقصان نہیں بہت بڑی تجارت ہے۔

سے نیم جان بتاند و صد جان دہد

آنچہ در و همت نہ آید آن دہد

وہ تو تھوڑی تکلیف پہنچا کر ہزاروں ہزاروں گنازیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے لیکن ان کے دل فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ دل سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے

لے جب بھی اس کو اتنا یقین نہیں ہو سکتا۔ آنکھ تو دھوکا کھا سکتی ہے لیکن مسلمان کا دل دھوکا نہیں کھا سکتا۔

نزول ملائکہ کا وقت:

ہو سکتا ہے کسی عالم کو یہ اشکال ہو کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے یہ باتیں مرتبہ وقت کہتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ جنت میں کہیں گے جب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے یہ بشارتیں دنیا میں بھی دیتے ہیں، اس اشکال کا جواب بھی سن لجھے کہ اللہ اللہ کے ساتھ دنیا میں معاملہ ایسے ہی ہے کہ فرشتے انہیں دنیا میں بھی یہ بشارتیں دیتے رہتے ہیں اور پہلی آیت:

﴿أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ اللَّهُ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُقُونَ ﴾ ۲۲ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

(پ ۱۱ - ۶۲ ن ۶۴)

اس آیت میں تو صاف صاف فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کو دنیا میں بھی بشارتیں ملتی ہیں گی۔

سے ہدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم
دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا مرے دل میں
اس شعر میں خطاب دیکھیں کیسے لفظ سے کیا۔ اللہ والے کی بات اللہ عن کی بات
ہوتی ہے۔ محبوب کی باتیں خواہ و محبوب کی زبان سے ہوں جیسے قرآن مجید کی آیات یا
کسی اللہ والے کی زبان سے ہوں، ساری ہی یاد رہیں تو اچھا ہے۔ کبھی کوئی مزا کبھی
کوئی مزا۔ کچھ آیتیں پڑھی لی ہیں اور کچھ آیتیں باقی ہیں درمیان میں اللہ والے کی
بات بھی سن لجھے، فرماتے ہیں:

سے ہدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم
دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا مرے دل میں
ہدم کو خطاب فرمائے ہے ہیں اس لئے کہ اس راز کو صرف "ہدم" ہی سمجھ سکتا ہے

ورثہ۔

سے تو ندیدی گئی سلیمان را
چہ شناشی زبان مرغان را
جس نے کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا وہ پرندوں کی زبان کیا
سمجھے۔

سے لطف سے تجھ سے کیا کہوں زاہد!
ہاتے کمخت تو نے پی ہی نہیں
فرماتے ہیں کہ "ہدم" ہی یہ حقیقت سمجھ سکتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں جب
بڑی بڑی مصیبتوں میں ہوں وہ میرے لئے مصیبتوں نہیں میں تو ان حالات میں خوش
و خرم ہوں۔

سے ہدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم
دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا مرے دل میں
روتے ہوئے اک بار ہی نہ دیتا ہوں مجدوب
آ جاتا ہے وہ شوخ جو ہستا مرے دل میں
جو اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت قائم کر لیتے ہیں، نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں ان کے دل
کی کیفیت یہ رہتی ہے۔

اعڑ ہے عیش دو عالم کا مہیا مرے دل میں
میں یہ بتا رہا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے
قوانين کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں وہ دوسری بات یہ سوچا کریں کہ نافرمانی چھوڑ

دینے والوں سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوش رہو، خوش رہو تو کیا میں خوش رہتا ہوں؟ اپنے نفس سے اپنے دل سے خطاب کر کے پوچھا کریں کہ تو خوش ہے یا نہیں؟ اگر کہے نہیں تو اس کو ڈانشیں کہ شریر، خبیث تو بڑا نالائق ہے۔ تو جو خوش نہیں رہتا اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اگر یہی بات ہے تو نافرمانی کیوں نہیں چھوڑتا اور اگر نافرمانی چھوڑنے کی کوشش کے باوجود تیرے دل میں خوشی نہیں آتی تو کیسا نالائق ہے کہ وہ محبووں کا محبوب، بادشاہوں کا بادشاہ، بار بار اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندو! خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش رہا کرو اور تو ایسا نالائق ہے کہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہ باتیں روزانہ سوچا کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(۱۷۸) ﴿تَأْتِيْهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۸﴾ قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرِحْمَتُهُ

فِيْذِلِكَ فَلَيَقْرَبُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۷۹﴾ (ب۔ ۱۱، ۵۲)

فرمایا کہ قرآن مجید اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی شفاء کی چیز ہے کہ دنیا بھر کے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

(۱۷۹) ﴿فِيْذِلِكَ فَلَيَقْرَبُوا هُوَ﴾

قرآن کی دولت مل گئی تو اس پر خوش ہوا کریں۔

قرآن سے بے اعتمانی:

جب آپ اس بات کا احصاب کریں گے کہ قرآن کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک قوم تو وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید خوانیاں کرانے اور لذ و کھلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہو، کہ ماشاء اللہ! بہت اححاق آ را، ملا کے کبھی، امک حگ خانا، کر اما، کبھی کہ ادا کھ...،

جگہ کرائی پھر کھالیا، بس کھانے پینے کا دھندا بنارکھا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن اتنا نے سے اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ کھاؤ پیو۔ مسلمانوں میں دوسری قوم وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے: ”وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الْصُّدُورِ“ لہذا آیات شفاء چینی کی پلیٹ میں زعفران سے لکھ کر دھونکو کر پینے پلاتے رہو۔

ایک شخص ایک بوتل میں زعفران گھول کر میرے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ تعلیم زعفران سے لکھا کریں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ بوتل یہاں ایک مولوی صحاب کو دے کر کہا کہ آپ لوگ دماغی کام کرتے ہیں جائیں اسے پی لیں۔

قرآن مرض حب دنیا کے لئے شفاء ہے:

اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید: ”وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الْصُّدُورِ“ یعنی دلوں کی بیماریوں کے لئے شفاء ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دل کے دورہ کا علاج ہے بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت کی بیماری کے لئے شفاء ہے۔ اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی قرآن سے خوش نہیں ہوگا ہمیشہ ناراضی رہے گا۔

آج کے مسلمان کو معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے:

میں کبھی بھی یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو پہاڑی جائے کہ قرآن میں کیا ہے تو یہ سارے قرآن اٹھا کر سیماڑی میں پھینک آئیں۔ چونکہ انہیں معلوم نہیں اسی لئے اس کو چوتھے بھی رہتے ہیں، خوبصورتی لگاتے ہیں، مسجدوں میں بھی رکھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کھانے پینے کا دھندا ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے تو ہرگز اسے گھر میں نہ رکھیں۔ چلنے اس پر ایک قصہ بھی بتا

دلوں۔

پرده کا حکم دیکھ کر چینیں نکل گئیں:

ایک شخص نے جدہ سے مجھے لکھا کہ اس کی بیوی نے جب ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو بہت خوش ہوئی کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ لیکن جب سورہ نور پر پہنچی اور اس میں آیا پرده کا حکم تو کہنے لگی لے جائیں اس قرآن کو میں یہ قرآن نہیں پڑھوں گی لے جائیں لے جائیں اس قرآن کو۔ خود اس کے شوہرنے مجھے لکھا کہ میں نے اسے بہت سمجھایا بہت سمجھایا کہ اتنے پارے پڑھ لئے تو آگے بھی پڑھ لو، اگر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو چلنے کوئی بات نہیں بعد میں ہمت ہو جائے گی ابھی پڑھ تو لو۔ مگر وہ چلانی کہ لے جائیں مجھے ایسا قرآن نہیں چاہئے۔ یہ قرآن نہیں پڑھوں گی۔ اب خود فصلہ سمجھئے کہ اگر آج کے مسلمان کو یہ پتا چل جائے کہ اس قرآن میں کیا ہے تو کیا وہ اسے سمندر میں نہ پھینک دے گا؟

قرآن کی دولت پر کون خوش ہوتے ہیں؟

قرآن کی دولت سے خوش وہی شخص ہو سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر ہم اس قانون پر عمل کریں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی۔ قرآن دل کی بیماریوں کے لئے شفاء ہے یعنی قرآن اللہ کی محبت پیدا کر کے دنیا و آخرت دونوں کو جنت بنادیتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ تو قرآن کی دولت پر خوش رہے گا اور اگر ایسا نہیں تو قرآن سے کبھی بھی خوش نہیں ہو گا ہمیشہ ناراض ہی رہے گا۔

بات یہ چل رہی تھی کہ عید کے موقع پر لوگ خوشی کے مظاہرے تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں خوشی نہیں، ہر وقت غمگین و متفکر رہتے ہیں۔ کبھی کوئی یہاں ہو گئی، کبھی بیک دستی، کبھی دشمنوں کا خطرہ، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہی رہتی ہے۔ خدا سے

یاد کر لیں کہ ہر پریشانی کا علاج اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنا ہے۔

خوشیاں منانے کے مختلف انداز:

عید کے دن لوگ خوشیاں کیسے کیسے مناتے ہیں؟ ان میں سے چند چیزوں کا بیان تو ہو چکا ہے کہ اچھا کھالیا، سویاں کھالیں، اچھا بابس پہن لیا، عید کی نماز کے لئے چلے گئے۔ خوشی منانے کا ایک اور طریقہ عید کے دن کا معاملہ ہے۔

مسئلہ معاملہ:

عید کی نماز کے بعد مصافحہ و معاملہ بدعت ہے، دوسرے اوقات میں بھی پاکستان اور ہندوستان میں معاملہ کے عام مرتبہ طریقہ میں کئی خرابیاں ہیں۔ سینے کو سینے سے اور پیٹ کو پیٹ سے ملا کر خوب بخختی ہیں، یہ صحیح نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن سے گردن ملائی جائے، معاملہ کے مرتبہ طریقہ میں فسادات کی تفصیل میرے رسالہ "مصطفیٰ و معاملہ" میں ہے یہ رسالہ احسن الفتاویٰ کی نویں جلد میں ہے۔

میں مسائل بناتا نہیں بتاتا ہوں:

لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ عجیب عجیب نئے نئے مسائل نکالتا رہتا ہے جو پہلے کبھی نہیں نے، حقیقت یہ ہے کہ میں مسائل اپنی جیب سے نہیں نکالتا، مسائل تو قرآن و حدیث کے ہیں، میں مسائل بناتا نہیں بتاتا ہوں، میرے بتائے ہوئے مسائل پر لوگوں کو تعجب اس لئے ہوتا ہے کہ عوام علماء سے تعلق نہیں رکھتے ان سے مسائل نہیں پوچھتے، علماء کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ ضرورت کے مسائل عوام کو ازاں خود نہیں بتاتے جب کہ میرا یہ معمول ہے کہ لائلی کی وجہ سے عوام اللہ تعالیٰ کی جن بغاوتوں میں بتتا ہیں اور امت بتاؤ ہو رہی ہے ایسے مسائل عوام تک پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں، مثلاً آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ میں پاکستان سے باہر

انگلینڈ، امریکا، کینیڈا، ویسٹ انڈیز وغیرہ صرف یہ مقصد لے کر گیا تھا کہ جہاں بھی جاؤں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں پر بیان کروں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا دوسرا کوئی بات کی ہی نہیں۔ تقریباً تین مہینے کا دورہ رہا جہاں بھی گیا یہی کہتا رہا کہ میرے اللہ کی بغاوت چھوڑ دو میں اللہ کی بغاوت چھڑوانے کے لئے گھر سے نکلا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں۔

بھرم اللہ تعالیٰ اس کا ایسا اثر ہوا کہ جب ہم امریکا پہنچنے تو وہاں ایک شخص نے بتایا کہ آپ کے یہاں آنے سے تین دن پہلے ہی میں نے ڈاڑھی منڈانے سے توبہ کر لی ہے۔ جو نبی سنا کہ آپ آرہے ہیں اسی وقت توبہ کر لی۔ ان کا ایک بڑا عجیب حال یہ کہ انہیں ہمارے امریکا پہنچنے کا بہت شدت سے انتظار تھا، آمد کے بارے میں بذریعہ فون بار بار پوچھتے تھے کہ کب آرہے ہیں؟ بلکہ اتنا استیاق کہ اس پر مصروف ہے کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ خود نہ پہنچ کر ساتھ لے جائیں۔ مگر ہم نیوجرسی ہوائی اڈے پر پہنچنے تو انہیں غیر موجود پا کر ہمیں بہت تعجب ہوا کہ وقت پر عاشق صاحب غائب؟ انہوں نے بعد میں تاخیر کی وجہ عجیب بتائی، بتایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب میں آپ کو لینے ہوائی اڈہ جا رہا ہوں تو مسجد میں حاضری دے کر پہلے صلوٰۃ توبہ پڑھنی چاہئے اور سب گناہوں سے توبہ کر کے چلنا چاہئے چنانچہ جب میں مسجد میں پہنچا اور دعا شروع کی تو اسی میں ایسا کھویا کہ وقت کا پتا ہی نہیں چلا اس لئے دری ہو گئی۔

چونیں گھنٹے بعد کہنے لگے:

”آپ کو یہاں آئے چونیں گھنٹے گذر گئے اتنے میں اللہ تعالیٰ نے میرے

دل سے دنیا کی محبت نکال دی گویا میں دنیا میں ہوں ہی نہیں۔“

میرے سارے بیانات کا محور یہی تھا کہ اللہ کے بندوں! اللہ کی بغاوت سے باز

لئے ① ڈاڑھی منڈانا یا کٹانا ② بے پردگی ③ تصویری لعنت ④ لئی وی ⑤ گاہ باجا ⑥ سودی لعنت ⑦ مردوں کا نخنے ڈھانکنا ⑧ غیبت کرنا سنا

آجائے چنانچہ لوگ آآ کر دکھاتے کہ دیکھنے ہم نے ڈاڑھی منڈابنے سے توبہ کر لی اور اب ہماری ڈاڑھی نکل رہی ہے صرف بتاتے ہی نہیں بلکہ ہر طرف سے آآ کر دکھاتے بھی تھے کہ دیکھنے ہم نے ڈاڑھی رکھ لی ہے، کئی خواتین نے شرعی پرداہ کر لیا۔

یہ لوگ ٹیلیفون پر کہتے تھے اور ویسے بھی دوسرے وسائل سے یہ خبر پہنچتی رہتی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک یہ بات سنی ہی نہیں کہ ڈاڑھی کٹانا یا منڈانا حرام، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور بہت ہاگناہ ہے۔ ایک مٹھی ڈاڑھی رکھنا فرض ہے۔ بذھے ہو گئے اتنی عمر میں گذر گئیں لیکن باپ دادا پر دادا کے وقت سے ہم نے یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا اگر سن لیتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل اتنے خالی نہیں کہ مسئلہ جان کر بھی اس پر عمل نہ کریں۔ ہمارے دلوں میں نفرت نہیں، ہم ایسے گئے گزرے جہنم کے ایندھن نہیں لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے آج تک یہ مسئلہ کہیں سنا ہی نہیں۔

اس سہہ ماہی دورہ میں اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں پر جو بیان ہوتے رہے ان کی تفصیل و ععظ ”اللہ کے باغی مسلمان“ میں ہے، بحمد اللہ اس سے امت کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس خدمت کو قبول فرمائیں اور قیامت تک صدقہ جاریہ بنائیں۔

عوام کے علماء کے ساتھ تعلق نہ رکھنے، مسائل نہ پوچھنے اور علماء کی خاموشی سے سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ڈاڑھی رکھنا سنت ہے اگر کسی نے رکھ لی تو ثواب اور اگر کٹا لی تو کوئی عذاب نہیں۔

دوسری قصہ:

ایک بار کسی کا فون آیا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاڑھی منڈانے کٹانے والے فاسق ہیں۔ گویا وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے تاکہ میں امام

صاحب کو ڈانٹوں کہ آپ نے اتنے بڑے ولی اللہ کو فاسق کیوں کہہ دیا؟ کہنے لگے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں ڈاڑھی منڈانے کنانے والے فاسق ہیں حالانکہ دینی اعتبار سے ہم تو بہت اوپرے درجے پر ہیں، کئی حج کئے ہیں، ہر سال عمرہ کے لئے جاتے ہیں، صدقات و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق، چاشت اور اوازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارا پورا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے دین میں بہت زیادہ آگے ہے پھر مولانا صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ڈاڑھی منڈانے کنانے والے فاسق ہیں؟

میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے۔ وہ تو یہ بھی رہے ہوں گے کہ میں مولانا صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ہذا نالائق ہے ایسا ہے ویسا ہے ابھی میں اس کی خبر لیتا ہوں، وہ تو اس جواب کا منتظر تھا اور میں نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ڈاڑھی منڈانے والے اور کنانے والے فاسق ہیں، اگر کسی نے ڈاڑھی ایک مٹھی سے ذرا بھی کم کی تو وہ بھی فاسق ہے اور دوسرے فاسقوں کی طرح نہیں بلکہ سب سے بڑا فاسق ہے اس لئے کہ وہ بااغی ہے، ایسا بے شرم، ایسا بے حیاء ایسا بے غیرت ہے کہ دنیا میں اعلان کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت ہے، بھلا ایسے شخص سے زیادہ بے غیرت اور اس سے بڑا فاسق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے تو ایمان ہی میں شہم ہے۔ میں نے اس شخص کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو جو مولانا صاحب کی بات پر تعجب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ پہلی بار سنائے اگر آپ دینی کتابیں دیکھتے رہتے یا علماء کرام عالم مجلس میں یہ مسئلہ بیان کرتے رہتے اور بات آپ کے کانوں میں پڑتی رہتی تو پھر اگرچہ آپ عمل نہ کرتے مگر آپ کو تعجب نہ ہوتا۔ دیکھنے نماز چھوڑنے والا فاسق ہے یا نہیں؟ اسی طرح جو بدکاری کرے وہ فاسق ہے یا نہیں؟ اسی طرح جو حرام کھائے، شراب پیئے، جھوٹ بولے، یہ سب فاسق ہیں سب کو معلوم ہے

سو اگر ان کو یہ کہہ دے کہ ایسے ایسے کام کرنے والے فاسق ہیں تو انہیں تعجب نہیں ہوتا اس لئے کہ اگرچہ یہ عمل نہیں کرتے مگر یہ بات ان کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، انہیں معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اگر علماء کرام اپنی مجالس میں اپنے عظموں میں ڈاڑھی کا مسئلہ بتاتے رہتے تو اگوں کے کانوں میں بات پڑتی رہتی پھر خواہ کوئی ڈاڑھی منڈا تاہی رہتا لیکن یہ جان کر اسے تعجب نہ ہوتا کہ وہ فاسق ہے۔ سو جیسے عوام کا قصور ہے کہ وہ دین سیکھتے نہیں اس سے زیادہ قصور علماء کا ہے کہ یہ بتاتے کیوں نہیں؟ یہی شکایت مغربی ملکوں کے لوگ کر رہے تھے کہ ہمیں آج تک کسی نے یہ مسئلہ بتایا ہی نہیں اگر بتاویت تو ہم کبھی ڈاڑھی منڈا نے یا کٹا نے کا حرام کام نہ کرتے۔

میں نے فون کرنے والے سے پوچھا کہ وہ مولانا صاحب کون ہیں جنہوں نے صحیح مسئلہ بتا دیا تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اس نے بتایا کہ وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ بس میرا سارا تعجب دور ہو گیا اس لئے کہ جو یہاں دارالافتاء آتا ہے جسے یہاں کا مصالحہ لگا ہوا ہے وہ تو ایسی ہی باتیں کرے گا۔

میں وعظ میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ عبرت کے قصے بھی بہت بتاتا ہوں۔ کتاب ”باب العبر“ بھی قصوں کا مجموعہ ہے۔ قصوں سے بڑی عبرت ملتی ہے، فرمایا:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولَى الْأَلَّاثِبِ﴾ (ب ۱۳ - ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قصے بیان کریں گے ان قصوں میں عقل والوں کے لئے بڑی عبرت ہے اور جن میں عقل نہیں تو کچھ بھی کرو کچھ اڑنہیں پڑتا:

”السعید من وعظ بغیره“ (مسلم)

نیک بخت وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کر لے۔ آپ لوگ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ یہاں کے وعظ کا محور یا تو قرآن مجید کی آیات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا پھر عبرت حاصل کرنے کے

قصے کر دیکھنے والے قصہ ہو گیا اور وہ قصہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے والے دل عطا فرمادیں۔

مضمون کے بار بار تکرار میں حکمت:

ابھی میں نے جو دو قصے بتائے ہیں میں ان کو اکثر دھرا تا رہتا ہوں، ایک ہی قصے کو میں اتنی بار دھرا تا چاہتا ہوں کہ یقین ہو جائے اور بات دل میں اتر جائے۔

ظرف شاید کہ اتر جائے کسی دل میں مری بات

میں یہ قصے دھرا تا ہی چلا جاؤں گا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دھرا نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑ دوں، یہ سے اللہ پر عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الٰم سے جو قرآن شروع فرمایا تو تمیں پاروں میں ایک ایک بات کو کتنی کتنی پار دھرا یا ہے، قرآن اگر فقد کی کتاب ہوتا کہ اس میں جائز و ناجائز اور نماز و روزہ کے احکام ہوتے تو ایک مسئلہ بھی بھی دوبارہ آتا، ایک بار کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو بس قصہ ختم لیکن قرآن فقد کی کتاب نہیں۔ اسی طرح معاذ اللہ! اگر قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہوتا تو قرآن میں جو قصے آتے ہیں ان میں سے ہر قصہ ایک ہی بار آتا دوبارہ نہ آتا۔ مگر قرآن مجید میں احکام یا قصے جو چاہیں دیکھ لیں کئی کئی بار ہیں۔ مثلاً ایک نماز ہی لے لیں کتنی بار نماز کا حکم قرآن میں ہے اور اللہ کے دشمنوں سے قیال کا حکم تو اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، عقل تو کہتی ہیں کہ ایک بار بتا دیا ہمیں پتا چل گیا بس کافی ہے لیکن قرآن میں دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ہر چند اوراق کے بعد موی پھر موی پھر موی۔ موی اور فرعون کا قصہ قرآن میں کتنی بار دھرا یا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بجھہ کرنے کا فرشتوں کا قصہ کتنی بار دھرا یا گیا ہے۔ ابراہیم، نوح علیہما السلام ہر ہر نبی کا قصہ کتنی بار ہے۔

خاص طور پر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوموں کو جیسے جیسے تبلیغ

فرمانی اور پھر قومیں جو جواب دیتی تھیں اس کا تو قرآن میں خوب ذکر ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو سمجھانے کے لئے کیسی کیسی دل سوز با تین کیس، نافرمانی پر عذاب کی وعدیں سنائیں، ادھر قوم نے مذاق اڑایا، طرح طرح کے ظلم و حادثے تکلیفیں پہنچائیں بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، مختلف قسم کے عذاب اتارے، یہ قصہ قرآن مجید میں کئی کئی جگہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہ قصہ شروع فرماتے ہیں تو پھر سلسلہ چلنا ہی چلا جاتا ہے: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ نَمُوذَ أَخَاهُمْ صَنِيلِحًا، وَإِلَىٰ مَدِينَ أَخَاهُزْ شُعَيْبًا﴾ ایک ایک کر کے گونا گونا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک بار ختم کیا تو ایک ایک مضمون کئی کئی بار آگیا پھر حکم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہی رہو، جیسے ختم ہو پھر شروع کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ولا تدع قراءة القرآن على كل حال“ (کنز العمال)

کسی حال میں بھی قراءۃ القرآن میں ناغہ ہرگز نہ ہونے دو اور فرمایا:

”تعاهدوا القرآن فوالذی نفی بیده لھو اشد تفصیا من

الابل فی عقلها“ (متفق علیہ)

قرآن کی تلاوت کا اور اس کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام رکھو۔ جو ترجمہ جانتے ہیں وہ ترجمے کا، جو حافظ ہیں وہ اس کے حفظ کا، جو ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی تلاوت کا الغرض یہ حکم سب کو شامل ہے کہ قرآن مجید کی بہت حفاظت کرو، جو جو حضر اللہ نے کسی کو دے دیا وہ اس کی حفاظت کرے، اس میں ناغہ نہ ہونے دے۔ قرآن مجید ایسی نازک چیز ہے ایسی نازک جیسے اونٹ کا گھننا باندھ کر چھوڑ دیا جائے تو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ چھوٹ نہ جانے بھاگ نہ جانے، قرآن کے چھوٹے کا خطرہ ناگہ بندھے ہوئے اونٹ کی بہت زیادہ ہے۔ حافظ نے اگر حفظ میں ذرا سی

بھی نہاست کی تو قرآن بھول جائے گا، عالم نے اس کے معانی و مطالب میں ذرا سی نسلت کی تو گمراہی میں جا پڑے گا، قرآن مجید حقی بڑی دولت ہے اتنی بڑی اس کی شان ہے ذرا سی کسی نے بے رخصتی کی تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے کہ میرے کلام، میرے قانون سے بے رخصت ناشکری کی تواب سزا بھگت۔

ہر ماہ ختم قرآن ہونا چاہئے:

یاد رکھئے! میئنے میں کم از کم ایک بار ختم قرآن کیا کریں جو اتنا بھی نہیں کرتا اس کا تو ایمان ڈانوا ذوال ہے، اس کا ایمان بیٹھا نہیں کھڑا ہے کہ ابھی گیا ابھی گیا۔ میئنے میں ایزما ایک قرآن ختم کیا کریں اس کا عہد کریں یہیں بینھئے بینھئے۔ اگر کسی کو کوئی غدر ہے تو بتائے کیا غدر ہے کیوں نہیں پڑھتا۔ قرآن اگر فقہ کی یا تاریخ کی کتاب ہوتی تو اس میں تکرار نہ ہوتا اور اسے بار بار پڑھنے کا حکم نہ دیا جاتا، قرآن فقہ یا تاریخ کی کتاب نہیں، یہ دل بنانے کی کتاب ہے اور دل جسمی بنتا ہے کہ ایک ایک بات کو بار بار وہ را کہ دل کی تہ بخیوں میں اتارا جائے، قرآن ایک ماہ میں ختم کریں تو ایک میئنے کے اندر ایک ایک مضمون اور ایک ایک قصہ کئی کئی بار آگیا، میں تو کئی مہینوں کے اندر کو دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر رحمت سے اس لوٹی پھولی کوشش کو قبول قصوں کو عبرت کا اور فکر آخرت کا ذریعہ بنائیں۔

خلاصہ:

عید میں اچھے کھانے پکانے، نئے نئے کپڑے پہننے، معانقے کرنے اور عید مبارک عید مبارک کہنے کے ذریعہ خوشی کا اظہار تو کیا جاتا ہے لیکن دلوں میں چی خوشی نہیں۔ چی خوشی اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ فی ہر نافرمانی چھوڑ دیں پھر خواہ حالات پچھے بھی ہوں حالت یہ ہوگی۔

سے میں گو کہنے کو اے ہدم اسی دنیا میں ہوں لیکن
جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سر زمین مری

سے میں دن رات جنت میں رہتا ہوں گویا
مرے باغ دل کی وہ گل کاریاں ہیں

وصل اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی الہ
وصحبہ اجمعین.
والحمد للہ رب العلمین.